

# معاشرتی بحکم کائسپریب

حضرت مولانا محمد ریسفہؒ لدھیانوی شریعتی

مکتبہ لدھیانوی

# معاشرین بکار کا سدیاب

حضرت مولانا محمد یوسفؒ لدھیانوی شہر راجستان

مکتبہ لدھیانوی

## پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  
 (الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ) عَلٰى سَجَادَةِ النَّذِيرِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّدَ)!

معاشرتی ناہمواری وہاں ہوگی، جہاں مغادرات کا گمراہ، خود غرضی، مغادر پرستی، اختیارات کا بے جا استعمال، چوری، ڈاک، رشوت، جھوٹ، فریب، خوشامد، چالپوکی اور اقربا پروری کی لعنت ہو، ایسا معاشرہ کبھی اطمینان و سکون سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہاں بے چینی، بے اعتقادی، بدگمانی، بدحالی، قحط سالی، رشک سالی اور انواع و اقسام کے امراض و استقام ہوں گے، وہاں خوف و ہراس، حسد، بعض، عناد، کینہ اور تعصب کی آگ ہوگی، جس کی تپش سے پورا معاشرہ آتش زیر پا ہوگا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر ایک، دوسرے سے اس طرح نفرت کرے گا، جیسے درندوں سے انسان یا انسانوں سے درندے!

لیکن جہاں ایثار و قربانی کا دورہ ہو، چھوٹے، بڑے، عالم، جاہل، آجر اجر، راعی رعایا اور حاکم و محاکوم اپنے اپنے حقوق و فرائض بجالا ہیں، وہ معاشرہ رشک ملائک ہوگا، وہاں معاشرتی ناہمواری اور بگاڑ کا دور دور تک کہیں نام و نشان نہیں ہوگا، وہاں اسلامی اخوت و محبت اور مواسات و مودت کا راج ہوگا، بلاشبہ وہاں: "المؤمنون

کجسہ واحد" کے مصدقہ ہر ایک، دوسرے کے دکھ درد اور خوشی تجھی کو اپنا دکھ درد اور اپنی خوشی تصور کرے گا۔

ہمارے موجودہ معاشرہ میں مادی اقتدار سے کسی شی کی کمی نہیں، اگر کچھ کمی اور قلت ہے تو ان اسلامی اقدار کی پاسداری کی! جس کا "شہر" ہے کہ آج ہمارا پورا نظامِ زندگی تپک ہو چکا ہے اور سارا معاشرہ بکار اور ناہمواری کا شکار ہے۔

ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ اپنی ذات سے لے کر متعلقین، خاندان اور پورے معاشرے سے اس قسم کی ایک ایک برائی اور خرابی کو دور کرنے کی کوشش کرے، بلاشبہ ہمارے اسلاف و اکابر نے اس فرض سے کبھی غفلت نہیں برٹی، چنانچہ ہر دور کے اکابر علماء اور اہل قلوب نے اس میدان میں حتی الامکان بھرپور سعی و کوشش کی ہے۔

پیش نظر کتاب: "معاشرتی بکار کا سدابہ" بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے، جس میں حضرت اقدس حکیم العصر مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہیدؒ نے معاشرے میں پائی جانے والی ان ناہمواریوں، بکار اور اس کی اصلاح کی طرف نشاندہی اور راہ نمائی فرمائی ہے، اس کتاب میں حضرت شہیدؒ کے اس موضوع سے متعلق تمام مقالات و مضماین کو رسائل و جرائد سے باحوال نامہ و سال، سن وار نقل کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ جزاً خیر دے ہمارے رفقے کا رکو جنہوں نے نہایت خلوص و اخلاص اور تنہائی سے اس مجموعہ کی ترتیب میں تعاون فرمایا، اسی طرح بارگاہ الہی میں درخواست ہے کہ اس مجموعہ کو ہمارے حضرت شہیدؒ کے رفیق درجات، قارئین کی ہدایت و راہ نمائی اور ہم خدام کی نجات و مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین!

سعید احمد جلال پوری

خاکپائے حضرت لدھیانوی شہیدؒ

۱۴۲۲/۲/۲۴

## فہرست

۷	حکم الہی کی تعظیم اور مخلوقی خدا پر شفقت۔
۲۳	اہل غفلت کے لئے تازیانہ۔
۳۰	فتون سے حفاظت۔
۳۵	چند باتیں دوسرے جہان کی۔
۴۰	ہماری قابل فخر تاریخ۔
۴۶	ایک ناروا جہارت۔
۵۲	معاشرتی فتوں کے خلاف جہاد۔
۵۸	حقوق و فرائض اسلام کی نظر میں۔
۶۴	بے جانماکش اور فضول خرچی۔
۷۰	نفرت اور محبت کا مدار... اللہ کی خوشنودی
۷۶	وصیت کے احکام۔
۸۲	میاں بیوی کے حقوق۔
۹۰	اسلامی اخوت اور شیطانی مذکوریں۔
۹۶	جرم و سزا کا قانون الہی۔
۱۰۲	تعلیم برائے تعلیم نہیں۔
۱۱۰	معاشرتی برائیوں کی اصلاح۔
۱۱۶	احساسِ ذمہ داری۔
۱۲۲	دور جدید کی مظلوم ترین صنف!
۱۲۹	دین و شریعت کا کھلانداق۔
۱۳۵	خدا! اس کا تذارک سمجھے۔
۱۴۱	اصلاح معاشرہ، لا حکم عمل۔
۱۴۷	خاتون جنت کا پیغام۔

پندرہویں صدی کا استقبال

مادیت کا سیلاب اور ہماری حالت

اسلام اور انسانی حقوق

عنی صدی... کیا کھویا؟ کیا پایا؟

سیاہ قام لوگوں کی اسلام کی طرف رغبت

اتحاد و اتفاق کی برکت

خواتین کا مطالبہ... حق طلاق

پاکستان میں تعلیم یافتہ خواتین

فتوؤں کے مقابلہ میں علمائی ذمہ داری

ححت و مرض... دونوں تینیں

شامت اعمال

موجودہ حالات کے اسباب

بدامنی کے اسباب

انگریز کی معنوی اولاد

پاکستان کے حالات اور ہماری سنگدلی

کراچی کا الیہ اور اس کا حل

خون کے آزو

ایک عبرت ناک بیماری

گناہ اور علمنی گناہ کی صورتیں

اسلام کا ابجا پسندی سے کوئی تعلق نہیں

علمائی ذمہ داریاں

اسلام و دین فطرت

علماء اور خطباء کے لئے چند تجویزیں

# حکم الٰہی کی تعظیم

## اور

# خلوقِ خدا پر شفقت

شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ کا "اعظیم لامر اللہ  
والشفقة علی خلق اللہ" کے نام سے فارسی زبان میں ایک بہترین  
مقالا ہے، جس میں آپ نے نہایت خوبصورت انداز میں حکم الٰہی کی  
تعظیم اور خلوقِ خدا پر شفقت کے مضمون کو بہترین انداز سے بیان کیا  
ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نے اس کی اہمیت و  
افادیت کے پیش نظر اس کا اردو میں ترجمہ کیا جو قریب ۳۰  
سال قبل ماہنامہ "الصدیق" میان میں شائع ہوا تھا اسے پیش نظر  
کتاب میں شامل اشاعت کیا جا رہا ہے۔ (سعید احمد جلال پوری)

بِحَمْدِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ هُوَ الْمُحْسِنُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

اعظیم لامر اللہ والشفقة علی خلق اللہ و شکر بازوئے دین مسلمانی ست کہ جز  
بِ قوٰتِ آن بندہ را بمقام قرب و رضاۓ مولیٰ تعالیٰ رسیدن محال است، و تفاوت  
سماکان ایس طریق درست و قوت سلوک و قرب زمان وصول بجناب حق بر اندازہ

بکند از آنچه باز داشتند که مکن بازماند، پس بنای اسلام را درگذشت آمد، انتقال او امر و اجتناب از نوایی، باز ای اجتناب نوایی اهم و داخل است در سلوك طریق حق و حصول بمقام قرب از انتقال او امر، بر مثال پر یزیر میکار را که اگر آنرا گندید هر چند هزار ادویه شفای بخورد، فانکه ندارد، و شفایاره، اما اگر در پر یزیر احتیاط کند و در رعایت آن مبالغه نماید امیدواری صحبت تمام است اگر چند شاید که در ترا فتد، و بله پر یزیر استعمال ادویه و استھناء در این سود مند نبود، و اگر هر دو جمع شو (لابد کار تمام تر بود و حصول شفایاره تر دست و میتواند دست دهد، مشائخ طریقت قدس اللہ تعالیٰ اسرار تم گفتند که مبالغه واستھناء در تقوی و اجتناب از محربات و مکروهات و مشتبهات اهم و داخل است در حصول مقام قرب و حصول، و اگر در باب انتقال بر فرائض و واجبات و سنن روایت اقصار نمایند، و در احراز و بخشش نوافل و عبادات کوشند در حصول مقصود کافی است، اما بخشش نوافل و مشتبهات با ارتکاب محربات و منهیات پیزیز نیست، و ترک فرائض و مسابله در این با تقدیم نوافل و مبالغه واستھناء در این از خود فرض و فریب شیطان شرده است.

و با مجلد تعظیم امر الہی بانتقال اوامر و نوایی است یعنی کارگردان با آنچه امر فرموده و بازماندن از آنچه نبی کرده، اما مخفی نماند که در تمجیب تعظیم امر اللہ اشارت کرد که میباشد فهمید، یعنی با وجود عمل و تقوی بر حسب طاقت آن قدر که تو ان تعظیم امر الہی و بزرگ داشتن آن و به عزت نظر کردن در اصول و قواعد شریعت و هیبت و عظمت و اعزاز و احترام اہل دین که مخصوصان و مقبولان حضرت نبوت آن، و خوار داشتن و پس افگندن والئفات نه خودان و اعتبار نه کردن اہل بدعت و ضلالات والحاد و باحت را که در این و مرد و داد این درگاه آن، هم تزویز و تراز است اشاره تعظیم لامر اللہ بدین است.

اعلمه دین رضوان اللہ علیہم گفتند که قتل ملاحده وزنا دقد حکم زنده گردانیدن پیغمبران دارد، که دین و شریعت نهاده ایشان است و هر که یکی از شهار اخوار داشت

قوت ایں دو باز وست، هر کر زور ایں دو باز و پیش و قوی تر رسیدن او، مقام قرب آسان تر و زود تر و تا تمجیب از ایں بـ قوت باز و کردیم، اشارت بـ آنکه قوت سلوك و مراجعت و حصول بـ مساطط ایں دو صفت بعد از مساعدت عنایت و توفیق، بـ جای رسید که سیر و فرار بعض رهروال بـ مشابه طیران افتد که در طرف اعین مسافتی را بـ عجید بـ ایشان قطع کند و در یک ساعت و یک لمحه بـ جای رسید که دیگر ایشان بـ بدلت عمر باشدت مجاهده و قوت عمل نتواند رسید:

مردان حق بـ بال محبت چو بر پرند  
اول قدم بـ نگره عرش جا گند

باز صفت اول از این دو صفت که تعظیم لامر اللہ است رعایت آن اهم و اقدم است و سیرت آن در حصول قرب اتم و اکمل، گویا بـ مشابه باز و نیز راست از جانور و دست راست از آدمی است و قدرت بر اکمل وقت در سلوك بدان سخت تر و استوار تر بود.

”اشفقت علی خلق اللہ“، اگرچه در تخلص نسبت الفت و محبت و احتجاب فیض و رحمت و رعایت علاقه جنیت و سلوك طریقه انصاف و شکرگزاری مولی تعالیٰ و لقنس مقامے عالی و مرتبه رفع وارد، و دلیل است بر سلامت فطرت و علویت و ذکار طبیعت و موجب ثواب هزیل و ذکر هزیل در دنیا و آخرت و باعث قرب و رضا که خداوند است تعالیٰ، اما مقام تعظیم لامر اللہ عالی تزویز و مرتبه و در اعلا، کفر اسلام و تشیید و تائید امدادین و ملت بالاتراز است.

و بحقیقت پیچه صفتی و پیچ کاری که باعث قبول و سفید روی، مرد درگاه عزت و درگاه نبوت تو اند شد بالاتراز ایشان نیست که در تقویت دین و ملت و ترویج و تائید سنت کوشید و در ایشان بـ اینکه اگرچه تنها باشد بـ پیغاید و تعظیم امر اللہ بـ انتقال اوامر و نوایی شریعت باشد که آنچه فرموده آنکه بکن،

و فانی ساخت گویا پنجه بر راعزت داشت و باقی گردا نید و ایس خود ظاهر است که هر که مخالف راه و روش و طریقہ کسی راعزت داشت و تعظیم کرد، گویا آنکس را خوار داشت و تحقیر نمود، و هر که موافق حال و تابع طریقہ بکے را تعظیم داشت گوئی او را تعظیم داشت چنانکه گفتند اند "دست دست دست" و دشمن دست دشمن.

مسلمانی اینست، باقی دعوی بے دلیل است، و در باب محبتات و نا مشرد عات نیت دخل ندارد که گویند نیت کسی معلوم نیست که چیست، و نیت نیک میباید عمل اعتبار ندارد فهم اصل نیت نیک است، اما نیت نیک آس بود که بدال کار نیک بکند، نیت نیک و کار بد چیز چه؟

و باید دانست که نیک و بدی بحکم شرع ست هرچه فرموده شرع ست نیک، و هرچه نافرموده او بد. در عقاید دین نوشتند "الحسن ما حسنة الشرع، والقبح ما قبحه الشرع" یعنی فعل نیک هماں که شارع گفت که بکن، و بد هماں که گفت بکن، و لی کن مکن شارع فعل راحی و تجی نمود، و عقل رادریس جاد خلی نیست و حکم نه که بگوید ایس کار نیک ست و ایس بد.

اگر گویند که این خلاف معقول است و مصادم نفس الامر چه هر کس داند که علم و عدل وجود و تو ارضع مثلاً نیک است و جعل و ظلم و بخل و تکبر بد، این معنی را بے شک بحکم عقل میتوان دانست و حکم وی بے شبه در ایس جا صحیح است بے توقف بر شرع، فرضنا اگر شریعت نموده ایس حکم عقل بجا نه خود بوده.

جو باش آنست که اولاً باید دانست که معنی نیکی و بدی در بخوا چیست تا روش گردد که آس بحکم شرع است، ن بحکم عقل، نیک و بدی و معنی وارد کیه آس که صفتی و کاری در حد ذات موجب مکال بود و مردم آن را بستایند و متعلق مدح گردد، و یا موجب انصاف بود و خلق آن را کنوهش کنند، و متعلق ذم گردد ایس معنی بحکم عقل و عقلاء تو ان دانست.

اما مراد نیکی و بدی در این جا آنست که در آخرت موجب ثواب و عقاب گردد این معنی جز بحکم شرع نتوان دانست و عقل رادریس جاد خلی نیست اگر کاری بود که مردم آس را بستایند و مکال دارند و شرع از اس نبی کرده موجب عقاب آخرت گردد، و اگر ایشان ناپسندیده وارند و شارع بدال امر کرده موجب ثواب آید.

عقل رادر در یافت آن و خلی نمود "عسی ان تکرها شینا و هو خبر لكم و عسی ان تحبوا شینا و هو شر لكم" شامل ایس حکم نیز تو اند بود و ترتیب ثواب بر صفات مذکوره از علم و عدل وجود که گفت شد بنا بر آنست که شارع تعالی و قدر ایشان امر فرموده است، و عقاب بر ضد ادآس صفات بجهت نبی اوست و اگر نه آن بوده تحسین و تقدیح عقل ثواب و عقاب بدال باز نگذشت عقل چه در یا بد که اگر در روز گردند، حکم حکم شرع است چیزی دیگر نیست.

اتبع ریاح القضا و سر حیث سارت  
و سلم لسلمی و در حیث دارت

و ایس جا نکته دیگر است که واجب است بر ایس تسبیه کردن و آن اینست که باید ایشان بنا و مدار تمامه کمالات و حاوی و شامل سائر حسنات ایس و چیز است، نیت صحیح، عمل صحیح، اگر ایس هر دو صحیح گردد، و همی نادر افتد که مجمع گردد، کار بجام بود، و دین مسلمانی کمال پذیرد، نیت صحیح هماں بود که کاری که کنند برای خدا کنند، و بقصد تقرب و طلب رضا و بامید ثواب آخرت کنند، و ایس در اکثر خلق از فرق درویشان و اقسام و طوائف ایشان پیدا می شود، حتی که ملکه ها و ملکه افروزان که هم درد نیا بعد ادب آتش گرفتار اند، و بر پنگاه که بحکم حدیث نبی "لعن الله الناظر والمنتظر" محل طرد و لعن الی اند، و غیر ایشان همه بر عزم خود و اعتقاد فاسد خویش نیت صادق دارند و سلوک طریق قرب حق بینایند، و تقرب حق بسیجیند، اما عمل صحیح گوتا بقصد بر سند و رونه مقصود به بینند.

و عمل صحیح آن بود که مرضی حق و موافق طریقہ دین و شریعت و فرمودہ شارع باشد۔

ریاضتہا و مجاہدہ ہباید کہ موافق طریق حق و مرضیات الہی باشد تا اثرے آرد و اعتبار راشاید، معنی مجاہدہ و ریاضت چست، یعنی نفس را بزور و مشقت موافق حق ساختن و منقاد و مطیع شریعت گردازیدن۔

و پھر انکے نیت صحیح بے عمل صحیح صورت نئے بندہ بسا کہ یکے را عمل صحیح دست دہد، و موافق فرمودہ در ظاہر کارے سے کند، اما نیت صحیح ندارد و برباد و سمع مے کند اس شخص نیز از تواب آخرت و رضائے حق محروم باشد کہ "انما الا عمال بالیات"۔ پس نیت صحیح و عمل صحیح ہر دو باید تا کارکشاید، و باللہ التوفیق۔

و مقصود از انکے گفتم مجاہدہ و ریاضت بے موافق حق اثرے نیارہ، یعنی اثرے کہ باعث زیادت نور ایمان و حصول رضائے حق و سقید روی در روز جزا و منجات از عذاب و سبب اجر و ثواب گردد، والا باشد کہ بعض ریاضتہا و مشغولی ہائے کہ جو گیہ و اہل کہانت را بیباشد و از بعضے بے ریاضت نیز بگرو، استدرج امرے ظاہری گردد، و اثرے در کشف بعض عوالم و غمودور چیزے از جنس خوارق عادات و تینج پختے ارواح خیش از جن و انس کے ایمان و عمل صالح در اس شرط باشد پیدا کند، چنانکہ در آب روئے نماید و در بول نیز، پاد جو دو آس پاک ست و ایں پلید۔ و از اس جاست اصرار و استھاک اس خط کاراں در کفر و گمراہی خود، و اعتقاد و انتیاد، بعض نادانان و سادہ لوحان و تا استوار قد مال در اعتقاد مسلمانی بایشان۔

از اس عبارت کا مطلب پوری طرح سمجھنیں آیا، اپنے فہم کے موافق ترجیح کر دیا، اہل علم خود غور فرمائیں مترجم عقا اللہ عنہ "بھہ گذشتیم، تقوی و صلاح موقف بارے ایمان و اعتقاد خود باید۔" و گرویدن و میل بے خالقان دین گردن و اعزاز ایشان نمودن بسابلد و تغافل از ملاحظہ دین صورت معقولیت نئی بندد۔

و ہر کہ مسلمانت و تلفظ یکلم شہادت دار و دور زی اسلام بود، و بر طریقہ مسلمانی میرود ازوے اگر صد عیوب بیند پوشند و عزت اسلام و حرمت ایمان دے از دست نہ چند کہ اہل الا اللہ بھد اہل عزت اند، ہر چند ایم شہوت نفس باشد و در قید موصیت گرفتار آئید، غایت آنکہ اجر ای احکام شریعت واقامت حدود دین بر ایشان یکند، و خود اگر ایں نسبت ایمان درست باشد ہر گز خواہد گذاشت کہ آلوہہ موصیت گرداند، و اگر نیز گردد آخر نور ایمان غالب خواہد آمد و ظلمت موصیت زود بخوب و مغفرت الہی و شفاعت و درخواست حضرت رسالت پناہی پاک خواہد گشت، آشنای و دوستی پا بختاب باید کردو، کریماں ہر گز رعایت دوستی و آشنای از دست نہ ہندر:

تو گو مارا بآن شہ بار نیست  
با کریماں کاربا و شوار نیست

و ایمان بے عظیم است آزرا حتیر نتوں شرود، قطب الوقت شیخ ابو الحسن شاذی  
قدس اللہ روحہ سے فرماید: اگر کشف کرده شود نور ایمان مومکن عاصی پوشد و پر کند  
آسمان و زمین راچہ جائے مومن مطیع۔

و فرمود اکرام کن مونماں را اگرچہ عاصی باشد و امر کن ایشان را بعرف و ف  
نمی کن از مکروہ ترک وہ صحبت فاسقاں راء نہ بطریق تعذر و تکبر، اتحی۔ اصل ایمان  
ست و باتی ہمہ فرع آن غم ایمان باید خورد، و اگرچہ ایمان و بقاء آن آسان سے  
نماید و لیکن بسیار مشکل ست و جز فضل الہی آن را سبی نیست از اس جھت گفت:

ایمان چو سلامت بلب گور برم  
احنت ز ہے چستی و چالائی ما

و اگر نور ایمان با نور طاعت جمع گردد " فهو نور على نور يهدى الله  
لوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم" "خن درو و  
در از مے رو دا ایں قدر بس ست:

بس کشم مرزیر کاں رائیں بس سست  
بانگ دو گردم اگر راه در کس سست

حق بمحاجہ عاقبت تمامہ کارہائے دنیا و آخرت را تجیر گرداند، و از دنیا گرہ  
از دل ناکشودہ و جمال مقصود نانموده نہیں۔ "انہ علی کل شی قدیر و باحیۃ دعا  
الراجیین حیدر، و صلی اللہ علی محمد و آلہ وصحبہ وسلم"

ترجمہ: ..... "حکم الہی کی تعظیم" اور "خلق خدا پر شفقت" بازوئے مسلمانی کے  
دو شیخبر ہیں کہ ان کی قوت کے بغیر بندہ کا قرب و رضا خداوندی کے مقام میں پہنچنا  
محال ہے۔ سالکین طریق کا تیز رفتاری، قوت سلوک، اور وصول الی اللہ کے زمانے  
میں تقاویت انہی دو بازوؤں کی قوت کے بعد ہوتا ہے۔ جس کے یہ دونوں بازوؤں جس  
قدر مضبوط اور قوی تر ہوں گے، اسی قدر مقام قرب تک اس کی رسائی آسان اور جلد تر  
ہوگی، اور ہم نے ان دو صفتوں کو قوت بازو سے تعبیر کیا ہے، اس میں اس طرف اشارہ  
ہے کہ عنایت و توفیق شامل حال ہو تو ان دونوں صفتوں کی بدھات قوت سلوک اور  
سرعت وصول میں یہاں تک ترقی ہو جاتی ہے کہ بعض سالکین کی رفتار ازان کی مانند  
ہوتی ہے جس کی وجہ سے آنکھ کے جھپٹکے میں مسافت بعیدہ طے کر لیتا ہے اور ایک  
ساعت اور ایک لمحہ میں وہاں پہنچ جاتا ہے، جہاں دوسرے لوگ باوجود سخت محنت اور  
قوی عمل کے عمر بھرنیں پہنچ سکتے، عارف فرماتے ہیں:

مردان حق بیال مجت پو بر پرند

اول قدم بلکرہ عرش جا لکند

ترجمہ: ..... "مردان حق جب مجت کے پروں کے  
ساتھ پرواز کرتے ہیں تو ان کا پہلا قدم بلکرہ عرش پر ہوتا ہے۔"  
پھر ان دو صفتوں میں پہلی صفت یعنی امرالله کی تعظیم کی رعایت اہم اور مقدم  
ہے اور حصول قرب کے لئے اس کا سبب ہونا درجہ کمال میں ہے، اس کو پرندہ کے

دائیں بازو اور آدمی کے دابنے ہاتھ کے مثل کہا جاسکتا ہے، اور عمل پر قدرت، اور  
سلوک میں قوت اس کے ساتھ مضبوط اور قوی تر ہو جاتی ہے۔

ہر چند کہ "خلق خدا پر شفقت کرنا" بھی نسبت الفت و محبت کے حاصل  
کرنے، فیض رحمت کی کشش، تعلق جنسی کی رعایت، طریقہ انصاف پر چلنے اور حق جل  
مجده کی شکرگزاری میں مقام عالی اور مرتبہ بلند رکھتا ہے، اور سلامت فطرت، بلندی  
ہمت اور ذکاءت طبعی کی دلیل ہے، اور دنیا و آخرت میں ثواب جزیل اور ذکر جیل کا  
موجب ہے، اور قرب و رضاۓ خداوندی کا باعث ہے، لیکن امرالله کی تعظیم کا مقام  
کہیں بلند ہے، اور اس کی شان اور مرتبہ کلکھ اسلام کے بلند کرنے اور دین و ملت کی  
مغبوطی اور تائید میں اس سے بالاتر ہے۔

درحقیقت کوئی صفت اور کوئی عمل جو آدمی کی مقبولیت اور بارگاہ رہ، العزت  
جل مجده اور بارگاہ نبوت میں سرخروئی کا باعث ہواں عمل سے بڑھ کر نہیں کہ آدمی  
دین و ملت کی تقویت اور سنت کے پھیلانے اور راجح کرنے میں کوشش کرے، اور اپنی  
ہمت لگاؤے، اور شکر اسلام کی تعداد میں اگرچہ خود تن تھا ہو، اضافہ کرے۔

امرالله کی تعظیم: شریعت کے اوامر و نوایی کے انتقال کا نام امرالله کی  
تعظیم ہے، یعنی جس کام کا حکم دیا جائے کہ اس کو کرو، تو کرو اے اور جس چیز سے  
روک دیا جائے کہ "مُنْكَرٌ" اس سے باز رہے، بس اسلام کی بنیاد کے دور کن ہیں،  
احکام کو بحالانا اور جن کاموں سے منع کیا گیا ان سے رک جانا، پھر سلوک طریق حق  
اور وصول مقام قرب میں منوعات سے پرہیز کرنا، انتقال اوامر سے زیادہ ضروری  
ہے، اس کی مثال یوں سمجھو کر بیار اگرچہ ہزاروں دوائیں عمدہ سے عمدہ کھاتا رہے لیکن  
جب تک پرہیز نہیں کرے گا، کچھ فائدہ نہ ہوگا اور شفایاں نہ ہوگا، اور اگر پرہیز میں  
احتیاط کرے اور اسکی رعایت میں پورا اہتمام کرے تو شفا کاملہ کی امید ہے، ہر چند کہ  
دیر میں حاصل ہوگی، اور بدلوں پرہیز کے دوا استعمال کئے جانا فائدہ مند نہیں، اور اگر

دلوں جمع ہو جائیں (پرہیز بھی اور دو بھی) تو شفاقت حاصل ہوگی۔

مشائخ طریقت رحمہم اللہ کا ارشاد ہے کہ: تقویٰ میں مبالغہ کرنا اور حرام اور مکروہ اور مشتبہ چیزوں سے بچنا مقام قرب و حصول میں زیادہ اہم اور دخل ہے۔ اور اگر احکام کی بجا آوری میں صرف فرانس و انجمات اور عنین موکدہ پر کفایت کی جائے، اور زیادہ سے زیادہ نفل عبادت میں کوشش نہ بھی کی جائے، یہ بھی حصول مقدمہ کے لئے کافی ہے، لیکن ایک طرف نوافل اور مستحبات کی کثرت ہو، اور اس کے ساتھ ہی حرام اور منوع چیزوں کا ارتکاب بھی کیا جائے تو یہ کچھ حقیقت بھیں رکھتا، اسی طرح فرانس کو چھوڑ دینا اور ان میں کوتاہی کرنا اور نوافل کی پابندی کرنا اور خوب سخت کے ساتھ ان کی تغییر کرنا یہ بھی نفس کا انکار اور شیطان کا فریب ہے۔

الغرض "امر الہی کی تعظیم"، اوامر و نوای پر عمل درآمد کا نام ہے، یعنی وہ کام کرنا جس کا حکم ہوا، اور اس کام سے بچنا جس سے ممانعت ہوئی، لیکن یاد رہے کہ "امر الہی کی تعظیم" کی تعبیر میں ایک اشارہ ہے: جس کو سمجھ لینا ضروری ہوگا، مطلب یہ کہ اپنی مقدور بھر عمل کر لینے اور تقویٰ اختیار کر لینے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی نہایت اہم اور ضروری ہے کہ حکم خداوندی کی تعظیم کی جائے، اس کی بزرگی کو دل میں جگہ دی جائے، شریعت مطہرہ کے اصول و قواعد میں عزت کے ساتھ نظر کی جائے، اور جو اہل دین پارگاہ نبوت کے خواجہ تاش میں ان کی بیعت و عظمت اور اعزاز و اکرام کا حق ادا کیا جائے، اور اہل بدعت و ضلالت اور الحاد و اباحت جو راندہ پارگاہ نبوت میں، ان کو ذیل و خوار رکھا جائے اور ان کو درجہ التفات و انتبار سے ساقط رکھا جائے "امر الہی کی تعظیم" کے عنوان میں ان تمام امور کی طرف اشارہ ہے۔

امہ دین رحمہم اللہ کا ارشاد ہے کہ: ملک اور بد دین لوگوں کو قتل کرنا پیغمبر کی زندگی کی حفاظت کا حکم رکھتا ہے، اس لئے کو دین و شریعت انیما علیہم السلام کے پیش کردہ ہیں، پس جس نے دین میں رخنہ اندازی کرنے والوں کو ذیل کیا اور مٹایا، کویا

اس نے پیغمبر کی عزت کی اور اس کو باقی رکھا، یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ جس نے کسی کی راہ و روش کے مخالف کی عزت کی، اس نے گویا صاحب طریقة کی بے عزتی کی اور اسے ذیل کیا، اور جس نے موافق حال اور تابع طریقة کی تعظیم کی گویا اس نے خود صاحب طریقة کی عزت کی، مثل مشہور ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن، دشمن ہوتا ہے۔

بھی مسلمانی ہے باقی زرادگوئی بے ذیل ہے۔ اور حرام اور ناجائز چیزوں میں نیت کا کوئی دخل نہیں کہ ناجائز فعل کر کے کوئی یوں کہہ دے کہ: میری نیت اچھی تھی، لوگ کہا کرتے ہیں کہ کسی کی نیت معلوم نہیں کہ کیا ہے؟ اور "نیت اچھی چاہئے، عمل کا اعتبار نہیں" اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں اصل نیت نیک ہے، لیکن نیک نیت وہی ہوگی جس سے نیک عمل کرے، نیت نیک ہو، اور عمل پر ہوتا اس کا آخر کیا مطلب ہے؟

یہ بھی معلوم ہوتا چاہئے کہ کسی عمل کا نیک ہوتا یا بد ہوتا، حکم شرع پر موقوف ہے۔ جس کام کا شریعت نے حکم دیا، وہ نیک ہے اور جس سے منع کر دیا وہ برا ہے، عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ: "الحسن ما حسنہ الشرع، والقبح ما قبحه الشرع" یعنی "نیک کام" وہی ہے جس کے متعلق شارع نے کہہ دیا کہ کرو، اور "برا" وہ ہے جس کے باب میں فرمادیا کہ نہ کرو، شارع کے کرو اور نہ کرو کہے بغیر نہ کوئی عمل نیک ہے نہ بد، عقل کو یہاں کچھ دخل نہیں کر وہ فیصلہ کر سکے کہ یہ "نیک" ہے اور یہ "بد"۔

اگر کہا جائے کہ یہ بات غیر معمول ہے اور واقعہ کے خلاف ہے، اس لئے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ علم و عدل اور حسادت و تواضع مثلاً اچھے کام ہیں، اور جمل و ظلم اور بخل اور تکبر برے فعل ہیں، بلکہ یہ بات عقل کے فیصلے سے معلوم ہو سکتی ہے اور یہ فیصلہ بلاشبہ بدول شرع کے صحیح ہے، بالفرض اگر شریعت نہ ہوتی تو بھی عقل کا یہ فیصلہ اپنی جگہ تھا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اول یہ معلوم کرنا چاہئے کہ نیکی اور بدی کے معنی یہاں کیا ہیں، تاکہ واضح ہو جائے کہ وہ حکم شرع ہیں اور بحکم عقل نہیں۔ نیکی اور بدی کے دو معنی ہیں، اول یہ کہ کوئی صفت یا کوئی کام اپنی ذات کے اعتبار سے موجب کمال ہو، اور لوگ اس کی تعریف کریں اور وہ محل مدد ہو، یا وہ موجب نقصان ہو، مخلوق اس کو ناپسندیدہ سمجھے، اور وہ محل ذم ہو، ”اچھائی“ اور ”برائی“ بائیں معنی عقل سے معلوم ہو سکتی ہے۔

لیکن یہاں نیکی اور بدی سے مراد یہ ہے کہ وہ فعل آخرت میں موجب ثواب یا عذاب ہو، یہ معنی بجز حکم شرع معلوم نہیں ہو سکتے اور عقل کو یہاں ذرا دخل نہیں، فرض کیجئے کہ ایک کام کی لونگ تعریف کرتے ہیں اور اس کو کمال کیجئے ہیں، لیکن شریعت میں وہ من nou ہے، تو یہ موجب عذاب آخرت ہوگا۔ اور ایک کام حقوق کی نظر میں ناپسند ہے لیکن شارع نے اس کا حکم دیا ہے، تو وہ موجب ثواب ہوگا۔

الغرض ثواب و عذاب کے موجب ہونے میں عقل کی پسند ناپسند کو دخل نہیں، حق تعالیٰ کا ارشاد: ”عسیٰ ان تکرہوا شینا وہو خیر لكم و عسیٰ ان تحبوا شینا وہو شرّ لكم۔“ (بعد نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند جانو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو، اور بعد نہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لئے بہتر نہ ہو)، اس حکم کو بھی شامل ہو سکتا ہے، صفات مذکورہ یعنی علم و عمل پر ثواب کا مرتب ہونا اس وجہ سے ہے کہ حق جل مجدہ نے ان کا حکم فرمایا ہے اور جہل اور ظلم پر عذاب اس لئے ہے کہ ان سے منع فرمایا ہے، اگر حق تعالیٰ کی طرف سے امر و نہیں نہ ہوتا تو محض عقل کے پسند اور ناپسند سے ان امور پر ثواب و عتاب کا ہونا معلوم نہ ہوتا۔

آخر عقل کیسے جان لے گی کہ رمضان کی آئیں کو کھانے والا نافرمان ہے؟ اور اس سے اگلے دن جو عید کا دن ہے نہ کھانے والا مجنم ہے؟ معلوم ہوا کہ فصل صرف شرع کا معتبر ہے، اور کوئی چیز لائق اعتبار نہیں، کسی نے خوب کہا ہے:

اتبع ریاح القضا و سر حیث سارت  
و سلم لسلمی و در حیث دارت  
ترجمہ: .....”قہا کی ہوائیں جہاں جائیں ان کے  
بیچھے ہو رہا پس کو محبوب کے پرد کر دو، جہاں اسکی گردش ہو  
وہاں گھومتے رہو۔“

یہاں ایک اور نکتہ پر تعبیر کرنا بھی ضروری ہے وہ یہ کہ یہ بات پوش نظر راتی چاہئے کہ تمام کمالات کا مبنی اور مدار، اور تمام حنات، دو چیزیں ہیں، نیت صحیح اور عمل صحیح، اگر یہ دونوں صحیح ہو جا سکیں اور ایسا بہت نادر ہے کہ یہ دونوں جمع ہوں، تو کام پورا ہو گا، اور دین مسلمانی کمال پذیر ہو گا، نیت صحیح سے یہ مراد ہے کہ جو کام بھی کرے محض خدا کے لئے کرے، قرب و رضا خداوندی حاصل کرنے کے لئے کرے اور ثواب آخرت کی امید پر کرے، اور یہ اکثر نام نہاد و روپیشون اور ان کے اقسام و طوائف میں آخرت کی امید پر کرے، جتنی کہ یہ ”دھوپی سلاکنے والے ملک“ جو سکین کہ دنیا ہی میں آگ بھی موجود ہے، حقی کہ یہ ”دھوپی سلاکنے والے ملک“ جو سکین کہ دنیا ہی میں آگ کے عذاب میں گرفتار ہیں، اور یہ ”ملک دھڑکنگ لوگ“ جو کہ بحکم حدیث ”اللہ کی لعنت دیکھنے والے پر اور جس کی طرف دیکھا جائے، لعنت الہی کے مستحق ہیں، اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ سب اپنے خیال خام اور اعتقاد فاسد میں نیت صادق رکھتے ہیں اور سلوک طریق حق ظاہر کرتے ہیں اور حق تعالیٰ کا تقرب تلاش کرتے ہیں، لیکن عمل صحیح کہاں ہے؟ تاکہ مقصد تک رسائی ہو، اور مقصود کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو۔ عمل صحیح وہ ہے جو حق تعالیٰ کا پسندیدہ ہو، دین و شریعت کے موافق ہو، اور فرمان شارع کے مطابق ہو۔

”ریاضتیں“ اور ”مجاہدیے“ وہ اختیار کئے جائیں جو طریق حق اور مرضیات الہی کے موافق ہوں تاکہ ان کا کچھ اثر ہو اور قابل اعتبار ہوں، ریاضت اور مجاہدیہ کے کیا معنی؟ یعنی نفس کو بہت اور مشقت کے ساتھ حق کے موافق کرنا اور شریعت کا مطیع

اور فرماتیمہردار ہاتا۔

جس طرح نیت صحیح کی بلالع صحیح، کوئی صورت نہیں، اسی طرح بہت ممکن ہے کہ ایک شخص کو عمل صحیح ہاتھ لگ جائے کہ ظاہروہ فرمان کے موافق کام کرے لیکن چونکہ وہ نیت صحیح نہیں رکھتا، بلکہ ریا اور دھکلادے کے لئے عمل کرتا ہے اس لئے یہ شخص بھی ثواب آخرت اور رضاۓ خداوندی سے محروم رہے گا، حدیث میں ہے کہ: "انما الاعمال بالنيات." یعنی اعمال کا مدار نیت پر ہے۔

بس نیت بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہوتے مقصود حاصل ہوگا، حق تعالیٰ توفیق دیں۔

اور یہ جو ہم نے کہا "مجاہدہ و ریاضت بدلوں موافقت حق پکھا اڑ نہیں رکھتے" اس کا مطلب ہے کہ وہ نور ایمان کی زیادتی، حصول رضاۓ حق اور آخرت میں سرخ روئی کا سبب اور عذاب سے نجات کا موجب اور باعث اجر و ثواب نہیں بنتے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ ریاضتیں اور مختیں جن کو جوگی اور کاہن (پیڑت) لوگ اختیار کرتے ہیں، ان سے اور بعض سے ریاضت بغیر مکروہ استدرج کی وجہ سے بعض امور کے مٹکش ہو جانے کا اثر ظاہر ہو اور خلاف عادت چیزیں، اور جن و انسان کی ارواح خیش کا محرک رکیسا کہ اس کے لئے ایمان و عمل صالح شرط نہیں، ظہور پذیر ہو، جیسے چہرہ پانی میں بھی نظر آ جاتا ہے اور پیشاپ میں بھی، باوجود یہکہ پانی پاک ہے، اور پیشاپ ناپاک، اسی طرح خلاف شرع امور باوجود یہکہ وہ غضب خداوندی کا سبب ہیں بعض دفعہ کشف و تغیر کا اثر ان پر مرتب ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ان "خطا کاروں" کو اپنی گرائی میں اصرار و انسہاک ہے اور بعض ناداں، سادہ لوح اور خام عقیدہ لوگوں کو ان سے عقیدت ہے۔

"خیر ان باتوں کو رہنے دیجئے، تقویٰ اور صلاح تو بڑی دور کی چیز ہے، کم از کم ایمان و اعتقداد کو تو محفوظ رکھنا چاہئے" مخالفین دین کا معتقد ہوتا، ان کی طرف

رغبت کرنا، اور ان کی عزت کرنا، بھی دین کے ساتھ غفلت اور سستی کی وجہ سے کوئی معقول بات نہیں ہے۔

اور جو شخص مسلمان ہے، کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے، اسلامی شکل و شاہد میں ہے اور طریقہ مسلمانی پر چلتا ہے، اس سے اگر سو عیب بھی ظاہر ہوں، ان پر پردہ ڈالنا چاہئے اور اس کی عزت اسلام اور حرمت ایمان کو نہ چھوڑنا چاہئے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے سب الہ عزت ہیں، ہر چند کہ اسی رہنمائی اور قیدِ محضیت میں گرفتار ہوں، غایت یہ کہ ان پر احکام اسلام کو جاری کیا جائے اور شریعت کی حدود قائم کی جائیں، باں اگر یہ نسبت ایمان درست ہوگی تو ہرگز آسودہ محضیت نہ رہنے دے گی، اور اگر محضیت سے آسودہ ہو جائے تو آخر کار نور ایمان غالب آ کر رہے گا اور مغفرت خداوندی اور شفاقت جنوی اس داغِ محضیت کو دھوڑا لے گی، آنحضرت ﷺ کے ساتھ دوستی و آشنای پیدا کی جائے، کریم لوگ ہرگز پاسداری دوستی اور آشنای سے تغافل نہیں کرتے: تو گو مارا بآں شاہ بار نیت  
بر کریماں کار ہاد شوار نیت

ترجمہ: ..... یہ مت کیو کہ ہماری رسائی اس باواشہ تک  
نہیں، کریمou کے لئے کام دشوار نہیں۔"

اور ایمان نہایت باعظمت ہے اس کو حکیر نہ سمجھا جائے، قطب وقت شیخ ابو الحسن شاذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "اگر کشف کردہ شود نور ایمان مومن عاصی پوشد و پر کند آسمان و زمین راچہ جائے مومن مطیع" اگر ظاہر کر دیا جائے تو مومن عاصی کے ایمان کا نور بھی آسمان و زمین کو ڈھانپ لے گا اور ان کو بھردے گا، مومن مطیع کا تو کیا ہی پوچھنا۔"

آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اہل ایمان کی، خواہ وہ بدکاری ہوں، عزت کرو، اور ان کو نیک کاموں کا حکم اور برے کاموں سے منع کرتے رہو، اور بدکار لوگوں کی

## اہل غفلت کے لئے تازیانہ

تبية الغافلين بفناء الدنيا واربابها  
واغترار الجاهلين بزخارفها واسبابها  
للنفع الحذر من مولانا عبد العزيز الدرقلوي فرعي المعاشر

اکبر بادشاہ کی وفات کے موقع پر حضرت مولانا عبدالحق  
محمد دہلوی نے نواب فرید مرتضی خان کے نام "تبیہ الغافلین  
یفناع الدنیا و اربابها و اغتر اربالجا بھین بن خارفہجا و اسیا بھا" کے عنوان  
سے ایک نہایت ہی مورخ خط لکھا جس کو بلا مبالغہ اہل غفلت کے لئے  
تازیانہ عترت کا نام دیا جانا مناسب ہے۔ ہمارے حضرت شمسیہ نے  
اس کی افادیت کی خاطر اس کا اردو ترجمہ کر کے ماہنامہ "الصدیق"  
میں شائع کیا ہے پیش نظر کتاب میں شامل کیا جا رہا ہے۔  
(سعید احمد جلال پوری)

لَا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ سَبْحَانَ الْمَلَكَ الْحَمِيمِ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَلَا يَغُوتُ، غَبَرَ مُحْتَ وَكَدُورَتَ كَهْ زَيْجَانَ اِيَسَ وَاقْعَدَ عَظِيمَهْ وَاهِيمَهْ شَدِيدَهْ بِرَصْفَحَاتِ خَواطِرِ خَلَقَ نَشَتَ وَجَرَتَ دَوْشَنَهْ كَهْ زَيْلَهْ يَكِ وَاقْعَ شَدَنَهْ اِيَسَ حَادِشَهْ رُوَيَهْ دَادِهْ اِزْ جَيَهْ تَقْرِيرَ وَتَحْمِيرَهْ بِيرَوَنَهْ سَتَهْ چَهْ تَوَاَسَهْ كَرَهْ، سَنَتَهْ الْهَيِّ بَرِيسَهْ جَارِيَهْ سَتَهْ، تَابِودَهْ جَنِيشَهْ بَوَوَهْ، چَهْ

صحت سے پہچ، لیکن ان کو حیرا اور اپنے کو برا بھتھتے ہوئے نہیں۔  
 ایمان اصل ہے، باقی سب اس کی فروع ہیں، ایمان کی فکر کی جائے، بظاہر  
 ایمان اور اس کا باقی رہنا آسان نظر آتا ہے، لیکن واقعہ میں بہت مشکل ہے، بجز فضل  
 خداوندی اس کی کوئی صورت نہیں، اسی لئے تو حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا:  
 ایمان چو سلامت بلب گور بریم

حفت زہے چستی و چالاکی

ترجمہ: ..... ”جب ہم اب گورنک ایمان سلامت لے  
جاتے تو آفرین، پھر ہماری چستی اور چالائی قابل صد مبارک باد۔

اور اگر نور ایمان کے ساتھ نور طاعت بھی جمع ہو جائے پھر تو نور علے  
ور ہے۔ چنانچہ ارشادِ انجی ہے:

”يَهْدِي اللَّهُ لَنُورٍ مِّنْ يَشَاءُ وَيُضَرِّبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ  
لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“

ترجمہ: ..... ”اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں، اپنے نور کی  
رف ہدایت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے مٹالیں  
یا ان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو چانتے ہیں۔“

بات دور نکلی جاتی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ میں بس کرتا ہوں، دناؤں کے لئے اتنا ہی کافی ہے، میں نے دو آوازیں لگادیں، اگر کوئی برس رہا ہے تو سن لے گا، حق سجانہ آخرت کے تمام کاموں کا انجام بخیر کرے اور دنیا سے دل کی گردھ کھلے بخیر اور جمال مقصود دیکھے بخیر نہ لے جائے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور امیدواروں کی دعا قبول کرنے کے سزاوار ہے۔

رسولنا عليه السلام محمد رأله وصَّبه وسلَّمَ  
(ماهِنَاس الصداق رمضان /شوال ١٤٢٣ هـ)

شاہ و چہ گدا ہم را ہمیں راہ است۔

ہر کے آمد بیجان اہل فنا خواحد بود  
و آنکہ پائیدہ و باقیت خدا خواہ بود  
حق جل علی بدولت و شوکت ایں بادشاہ گروں مشکوہ توی دولت جو اس بخت  
ابد اللہ جلال و خلد فی مراضیہ ملکہ و اقبال، تماہہ برایارا از خاص و عام خصوصاً زمرہ اہل  
اسلام را درکنف امن و امان و سایر عدل و احسان از جمیع آفات و مکروہات محفوظ  
و مصون دارو، "اللّٰهُمَّ اصْلِحْ امَّةَ مُحَمَّدٍ وَالْمَالَةَ وَالرَّاعِيَةَ وَالْفَلَوْبِهِمْ فِي  
الْخَيْرَاتِ." ایں دعا از عظیماً مشائخ قدس اللہ اسرار ہم مرویت، وادامت بران مشر  
سعادت دنیا و آخرت و باعث امن و امان ظاہر و باطن است، ویگر ایں دعا:

"اللّٰهُمَّ اصْلِحْ امَّةَ مُحَمَّدٍ (صلی اللہ علیہ  
و سلم) اللّٰهُمَّ ارْحَمْ امَّةَ مُحَمَّدٍ (صلی اللہ علیہ و سلم)  
اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَمَّةَ مُحَمَّدٍ (صلی اللہ علیہ و سلم)،"

گفت انہ کہ ہر کے برائی دوام نماید در مرتبہ پایاہ ابدال نشیند۔ واللہ الموفق،  
اکنوں از فنا و بیاوے بیائی آس چہ گوید و چہ نوید۔

قال بعض الحکماء: الدنيا اشبی شیء بھل الغمام و نوم الاحلام میگوید، دنیا مانند  
سایر ابرست کہ روای می گزرو، یا مثل خواب شیطانی است کہ مرد بالغے بیند در تشبیه  
اول فناو بے شبل دنیا را ادام نمود و در ثانی خارات و قلت متاع آزما بیان کرد:  
گفت یا خوبیست یا بادے ست یا فساده

مثل مرگ حادثہ در میان کہ بیٹک و شبہ رسید نیست و آدمی زاد ازاں غافل  
نشست و دیدہ عبرت و حیرت فرو گرفتہ و بر بر غفلت قادہ پروا ندارد کہ چہ کارے سخت و  
میکی صعب در پیش دارو، میگویند کہ یقین مشکوک کدام است، یعنی چیز یکہ آدمی یقین  
داند و با وجود یقین در ایں نک دارد، گویا نے داند، آن چہ چیز است، گفت انہ کہ آس مرگ

ست، بے یقین مے داند کہ رسیدنی است، اما چنان زندگانی میکند و بر بیجے مے روند کہ  
گویا نے داند۔

پیارک اللہ ایں چہ قدر است و ایں چہ پرده کہ بروئے آدمی زاد فروہشتہ اندو  
ایں چہ غفلت و فریب است کہ دے مے خورد، ہمال میل شیر و مرد گریز نمہ از چیز او  
ست۔

حکایت مے آرند کہ شیرے در بیانے بدبال مردے اتفاہ بود، وے از چیز  
شیر گریختہ میرفت چوں مجال گریز چک آمد بگم اضطرار خورا در خرابہ چاہے زد و هم در  
اشتائے راه بـشـاخـا و بـنـجـا نـگـیـا کـہ در آن چـاـہ بـوـد وـسـت زـوـ مـعـلـقـ مـانـد در پـیـاـن چـاـہـ نـگـاـہـ  
مـیـکـدـ اـثـدـبـاـئـےـ مـیـنـدـ، دـہـاـنـ باـزـکـرـوـهـ نـشـتـتـ کـہ اـگـرـ بـیـخـدـ ہـمـ در لـقـسـ فـرـوـ بـرـوـ، شـیرـ کـہ در  
دـبـالـ بـوـدـ آـمـدـ بـرـوـئـےـ چـاـہـ اـیـسـتـادـ کـہ اـگـرـ بـرـ آـیـدـ ہـمـ در سـاعـتـ کـاـ رـشـ تمامـ کـنـدـ، سـاعـتـ  
لـطـیـفـ مـتـلـعـقـ بـاـنـ حـشـیـشـ دـیـزـ وـ نـفـسـ رـاـسـتـ کـرـوـ بـوـدـ کـہ مـوـشـ چـنـدـ رسـیدـ نـدـ  
وـرـشـتـبـاـئـےـ گـیـاـہـ رـاـکـ مـشـاـلـ رـشـتـ عـرـ آـدـیـ سـتـ وـ بـدـاـنـ مـتـلـعـقـ سـتـ بـرـیدـ گـرـنـدـ، بـیـچـارـهـ  
حـیـرـاـنـ مـانـدـ کـہ چـہـ کـنـدـ؟ اـگـرـ پـیـاـنـ اـفـنـدـ اـثـدـبـاـئـاـنـتـ وـ اـگـرـ بـالـ رـوـدـ شـیرـ اـیـسـتـادـ، تـنـ بـہـ بـلـادـرـ  
دادـ وـ نـقـتـرـ ہـلـاـکـ نـشـتـ، نـاـگـاـهـ نـظـرـشـ بـرـلـاـنـتـ نـخـلـےـ اـقـاـدـ کـہ در سـخـنـ دـیـوارـ چـاـہـ شـہـدـےـ تـےـ  
کـرـوـهـ، مـرـوـآـسـ ہـمـ رـاـ فـرـاـمـوـشـ کـرـوـ، ہـمـ اـزـ شـیرـ وـ ہـمـ اـثـدـبـاـ وـ مـوـشـ چـشمـ بـرـبـتـ وـ اـنـکـشـےـ بـاـنـ  
شـہـدـ زـدـ وـ بـاـسـ مـزـاحـتـ مـکـاـنـ وـ نـیـشـ زـنـبـوـاـنـ شـہـدـ لـیـمـدـنـ گـرـفـتـ دـوـ اـنـگـشـتـ شـہـدـ نـہـ  
لـیـمـدـ بـوـدـ کـہ رـشـتـ عـرـ گـرـتـ شـدـ وـ دـورـ چـاـہـ مـحـنـتـ وـ اـنـدـوـ بـکـامـ اـثـدـبـاـئـےـ مـرـگـ فـرـوـرـتـ، اـکـنـوـںـ  
مـاـشـہـدـ لـیـسـانـ آـسـ چـاـیـمـ کـہ شـیرـ قـھـارـقـنـاـمـ اـسـتـ وـ اـمـرـوـزـ فـرـدـ اـسـتـ کـہ در چـاـہـ بـلـاـکـ کـہ دـنـیـاـ  
سـتـ بـکـامـ اـثـدـبـاـئـےـ مـرـگـ فـرـوـختـ اـیـمـ۔

کـاـنـکـلـےـ مـدـ حـیـاتـ مـیـمـ بـوـدـ وـ اـمـتـدـاـوـ اـیـسـ مـاـسـافـتـ مـعـلـومـ کـشـتـ کـہ چـنـدـ  
اـسـتـ تـاـمـوـاـقـ آـنـ رـاـ وـ رـوـشـ بـخـوـدـ قـرـارـ دـادـنـدـیـ، قـطـعـ اـیـسـ مـاـسـافـتـ بـتاـنـیـ وـ مـدـرـجـ  
کـرـنـدـیـ وـ یـکـ قـمـ فـرـاغـتـ وـ قـرـارـےـ یـاـقـتـمـےـ وـ نـفـسـ چـنـدـ بـرـاـحتـ زـدـنـدـ۔

یقین معلوم نہ کہ مدت عمر چند سوست و بعد از میں مسافت چر قدر درہ رگام و درہ  
لنس خطر است و احتمال آنکہ ہمیں نفس آخر باشد روز و هفتہ و ماہ را خود کر داند، و اگر  
فرضًا معلوم بودے دراز بودے ہم چہ بودے؟ چون رفتی است و لذتی چہ معلوم و چہ  
نمعلوم و چہ دراز و چہ کوتاہ؟

چول قامت مارائے غرق است

کوتاہ و دراز را چہ فرق است

اگر صد سال مانی دریکے روز

باید رفت زیں کاخ دل افروز

دریں صندل سرانج آبنوی

گبے ماتم بود گاہے عروی

چول بھر شادی و غم جائے رو بند

مجائے سر، مجائے پائے کو بند

دنیا اگر دام بودے و اسباب دنیا دام و بیش و فراغ خاطر و آسائش وقت  
متصل آنکاہ اگر کیکے پہ جبت مولے و شوق آس عالم ازاں صبر کر دے و بز خarf آن  
التفاقات نہ نمودے کارے بوداکنوں کہ فانی است و سراسر دشت و کدورت و محنت و  
مشقت و صد بلا بر بالائے ہم افتادہ ترک آں چہ مقدار کارست کہ بدال بنازندہ۔

و بر فوت آن حسرت خورند، اگر کیکے بقدرے ازاں دست بدار دو کامے چند  
فراز تند تمام خود مکن نیست صرف روزگار خود کر دے باشد و منته بر جان وقت خود نہادہ۔

اما خاصیت ایں شراب چنیں افتادہ ہر جر عذ کہ ازاں بخورند و ہر قطرہ کہ ازاں  
بتوشد بمحض زیادتی کند و تند تر ساز دتا مستی آردو بے خود دے بے خبر گرداند آنکاہ نصیحت  
را بگوش اور اہ جا شد و ان دیش عاقبت را در سر او جائے نہ، مستی و غرور دنیا و حکمرانی بجائے  
کشد کہ دعوی خدائی و چیخبری کند دیگر چہ تو ان گفت "نعود بالله من الغباء

او بود و ده روزہ راه پیش نبود، دعوی خدائی کرد، دیگر ان را چہ گوید آس از خدا یہ خبر  
نمید انشت کہ خدا آفرید گار آسان و زمین باشد تو خود کلوخے یا مکے در عالم پیدا شد کردہ  
و دیگر ایں دعوی چیست دیوانہ ہم نبود تا اینہا از سر دیواری گفتہ باشد، اگر دیوانہ بودے  
موی پیغامبر را علیہ السلام بدعوت وے چہ اے فرستادند و ہوت انجیا صلوٰات اللہ و سلامہ  
علیہم عقلًا را بود نہ مجانین را، ایں نہ بود گر غرور و مستی دیغا و ملک و سلطنت کہ او را بدیں  
ہدیات میداشت، در سرشت بھٹے غرور و حفاظت خیر کردہ اند کہ فہم و تیزرا از ایشان بر  
می گیرند و با وجود عقل عزیزی کار دیوانہ میکند و خن دیوانہا میگویند دیوانہ غیتند اما دیوانہ  
صفت اند۔

کیکے دیگر برے خیزد و دعوی پیغامبری میکند و یقین نے داند کہ معنی پیغامبری  
چیست، پیغامبری میانجی شدن سست میان خدا و خلق از خدا فیض میکرد و خلق میر ساند،  
و پیغامبر از اول عمر تا آخر از گناہاں مخصوص بود و بعالم قدس ملکوت متصل، و فرشتہ بروے  
بیاید و پیام حق بگزار و میحرات بتماید، و در زمین و آسمان تصرف کند و فرسان ماه را با شارة  
انگشت دو پارہ سازد، و چشمہ با از افگشتان رواں گرداند و درختان اور اجدهہ بیرون و سگ و  
گیاہ بروے سلام کنند و پادے کتابے باشد کہ اگر جن و انس ہم جمع شوند، مانند سورہ  
از اس نتوانند آورد، و اگر تمادہ علم و عقلًا عالم اور افسیر کنند پیلاں نتوانند آورد، و پیغامبر  
شریحہ بیجد و عالم را بخور علم و ایمان منور گرداند، کافر ایں را از کفر و جاہل ایں را از جهل  
بیرون آردو، و دور ایں را نزدیک گرداند، و گمراہ را بر اہ راست برد، و در تمامہ خوبی ہائے  
ظاہر و باطن و صورت دیسرت از ہم کس افزوں تر و بالا تر باشد و یقین کس در یقین خوبی  
مانندوے نبود، و پیغامبر را امت بود بصلاح و فلاح آر است و بخلیلہ محبت و اعتماد پیغمبر استه  
نزدیکان وے در علم و عمل و زبده و تقوی و نورانیت از ہم پیشتر و پیشتر و بہابخت دے  
جامع کمالات و مظہر خوارق و کرامات گشته، پیغامبری نہ مجرد دعوی و غلبہ و سلطنت و شکوت  
است اینہا ہم روثن ست، اما باست چہ تو ان گفت "نعود بالله من الغباء

والغواية.”

در آدمی سه چیز است، نفس و قلب و روح، جملت نفس هم از این عالم کوئی نیست و فساد است و همیں لذات جسمانی و مستلزمات حسی کمال اوست، نفس زمینی است و ظلمات و از اجزای بدن است، غایت آنکه نسبت با جزو ادیگر ایس قدر لطافت و نورانیست پیدا کرده که چیزی از مخصوصات تو اند دریافت، و ماده سمع و بصیر شم و ذوق و لمس گشته و نفس از لذات عقلی و روحانی خبر ندارد، همیں نفس است که آدمی را گرفتار ایس عالم ساخته است.

دروج لطیف است و نورانی محض و از عالم بالاست و توابعه و همیشه بعالم قدس ولذت وے بعلم و معرفت است و محبت مولی تعالی شانه و شاخت ذات و صفات وے تعالی و لذت نصیب اوست، و لیکن بعلت تعلق که او را بدن داده اند و از اختلاله و ازدواجی که او را با نفس واقع شده گرفتار عشق و محبت نفس گشته و سره شتم کرده است، و تعلق روح را با نفس بعینه مثل تعلق مرد با زن گفته اند، که از ازدواج آنها طیفه قلبیه پیدا شده و قلب متقلب بود میان روح و نفس، اگر بر یکی احکام روحانی غالب آید و نفس و قلب تابع او شوند و ایس بیه نادر افتاد ایس جا بهمه خیر و صلاح آید و اگر نفس غالب آید در روح و قلب تابع افتاد بهمه شر و فساد خیزد.

این خن مشهور است در محل خود مشرح ترا از این بیان یافته است، مقصود ایس جا بیان تزبدب و در کشاکش افتادن آدمی زاد است که از یک طرف عقلش بجانبے خواند و از طرف دیگر حوا بجانب دیگرے بردو بهد محنت و شدت گرفتار است، باز ایس محن و شدائد ایس عالم است که بر سر آدمی زاد افتاده است و اگر احوال آخرين و شدائد آن عالم به تفصیل بیندیشد و تصور کند از خود رود و از هم پاشند و در حدیث آمده است: ”لو تعلمون ما اعلم لضع حکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا.“ فرموده: اگر بدانید آنچه من دامم از احوال مبدأ و معاد و آخرت که چهار فتنه و چهار چیز آمدی است کم محمد بید و بسیار بگردید،

و لیکن چون حکمت ابتلاء و قضاۓ الہی اتفاق آن کرده که ایں عالم را از نظر پاپوشیده و در پرده غیب داشتست، و آنچه می بینند و می سے یا بند عین عالم ظاہر است از این جا فریبے خور دند و سره شتم کرده که: ”يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا و هم عن الآخرة هم غافلون.“ مخبران صادق که حضرات انبیاء اند صلة اللہ و سلامه علیهم اجمعین خبر آس عالم میرسانند و انوار علم و هدایت می تمازند اما مردم چنان در ظلمات نفس و طبیعت افتاده اند که قطعاً گوش نمی نهند، و قدم نمی زند حقیقت حال بعد از مردن مکشف گردد که چیست:

باش تا پرده بر انداز و جهان از روئے کار  
آنچه امشب کرده فردات گردد آشکار

”الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا“ فرموده: مردم در خواب غفلت اند چون  
بیرون میدار شوند و آگاه کردن.

خلق تا در جهان اسباب اند  
همه در کشتی اند و در خواب اند

لَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ، اکنوں اگر گویند پس چه کار باید کرد، و کجا باید رفت  
خن بـ تـ قـ يـضـ آـمـهـ، تـ رـكـ دـنـيـاـ مـ فـرـمـاـيـدـ وـ تـ بـخـرـ يـدـ اـرـ خـلـقـ وـ خـلـافـ طـبـیـعـتـ وـ خـالـافـ نفسـ سـےـ  
خـوـانـدـ وـ جـوـدـ اـیـسـ حـالـ حـالـ وـ اـزـ دـوـسـتـ آـمـنـ اـیـسـ کـارـ مـشـکـلـ، آـوـیـ زـادـ تـاـ درـ قـیدـ حـیـاتـ  
سـتـ وـ درـ دـنـیـاـ اـزـ اـسـبـابـ دـنـیـاـ وـ مـعـیـشـ بـاـبـیـ نوعـ وـ آـسـائـشـ طـبـعـ وـ قـیدـ نفسـ چـارـهـ نـدارـوـ  
وـ مـدارـ حـیـاتـ دـنـیـاـ وـ اـنـظـامـ کـارـ عـالـمـ بـرـیـسـ استـ، جـوـاـشـ بـداـنـکـهـ تـاـخـنـ رـایـکـ نـفـحـدـ وـ بـکـنـ  
آـلـ درـزـ وـ نـدـنـ لـنـشـینـ نـهـ گـرـدـ وـ بـزـ تـبـرـتـ وـ سـرـ اـیـمـگـیـ نـیـارـ مـقـصـودـ اـزـ اـنـکـهـ گـوـینـدـ تـرـکـ دـنـیـاـ بـایـدـ  
دـاوـ وـ اـزـ خـلـقـ بـرـ کـرـانـهـ بـایـدـ بـودـ وـ بـرـاهـ مـخـالـفـتـ نفسـ وـ طـبـیـعـتـ رـفـتـ آـنـستـ کـهـ خـلـافـ حقـ نـکـھـدـ وـ  
ازـ جـادـهـ بـیـرـوـلـ نـزـوـنـدـ وـ رـاهـ وـ روـشـ کـهـ درـ دـینـ وـ شـرـیـعـتـ قـرـارـ دـادـهـ اـنـدـاـزـ دـوـسـتـ نـدـهـنـدـ، بـایـسـ  
نـوعـ اـگـرـ بـظـاـهـرـ بـاـخـلـقـ بـاـشـنـدـ وـ رـبـاطـنـ بـاـحـقـ اـنـدـ وـ اـگـرـ بـصـورـتـ درـ دـنـیـاـ بـاـشـنـدـ بـعـنـیـ تـارـکـ دـنـیـاـ

اند چند ریں صورت اگر موافق نفس میں نہایت درحقیقت خالف آئی کردہ باشد۔  
 محققان لفظتہ اند کہ مقصود اصلی موافقت حق است نہ مخالفت نفس، یعنی  
 ساکان کے برخلاف نفس رومند و برعند وے کار لکنڈ برائے آس کنند کہ نفس موافق حق  
 گردد و براہ راست روود اگر او خود براہ راست روود مخالفت او معنی ندارو و فقراء اند و  
 اغذیاً امراه اند و رعایا مالکاند و مملوک خادمانند و مخدوم و علیے بذا القیاس، فقراء اصبر باید  
 ادب و مخدوماں راعتنایت، ہر کدام از ہر طائفہ کہ براہ وروش خود رومند و طریقہ بندگی و  
 انصاف از دست نہ بند و اصل و مقرب و مقبول درگاہ باشند، ازیں جا گفتہ اند کے سلوک  
 ہر طائفہ حرفت اوست یعنی ہر کے بر ہر حرفتے و کارے کہ باشد اگر بر منہاج قاعدہ و  
 ادب رو سالک است، دعوت شریعت غرامہ بہریں نجح است، سرور کائنات و سید رسول  
 صلوا اللہ وسلامہ علیہ یقیق کس را از ہر حرفتے کہ داشت پیرون نیا ورد، و مزار عان را  
 در کار زراعت گذاشت و تاجر ان را در تجارت، و متاہل را با اہل و عیال و مجردان را  
 در ترک و تحرید و اغذیاً را بمال و منال و فقراء را با فقر و فاقہ و لیکن ہر طائفہ را قاعدہ و  
 دستور العملے مقرر داشت تا بر اس نہایت، و از جادہ پیرون تزوین، پیرون کہ آورہ، از کفر و  
 معاصی پیرون آور و دیگر بھر را درون دائرہ گذاشت سر سعادتہا اتفیاد شریعت و اعتقاد  
 مسلمانی است و یقین داشتن بر آنکہ ہر عمل را اجرے است، و ہر گروہ را جزاً و عاقبت  
 عمل نیک نیک و عمل بد بد۔ فن بیہم مثقال ذرۃ خیر ایرہ و من بیہم مثقال ذرۃ شر  
 یہ۔

غایت آنکہ فرقہ جزائے خیر اہم درد نیا طلبند و از آخرت غافل باشند و  
 جماعت دیگر را صحیح نظر جزاً آخرت است و کار دنیا سہل انگارند و ہر کس ہر کارے  
 مشروع کہ برائے خدا کند اور اہم دنیا شود و ہم آخرت، "فَعَذَّ اللَّهُ ثَوَابُ الدِّينِ و  
 الْآخِرَةِ،" عاقبت سخیر یاد۔

ترجمہ: ..... "سَبَّحَنَ الْمُلْكَ الْحَمْيَ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَلَا يَغُوتُ" ، اس  
 واتھ عظیمہ اور آفت ناگہانی کی وجہ سے جو غبار محنت و کدو رت مخلوق کے دل و دماغ پر  
 جم گیا ہے اور جو حیرت اور دہشت اس حادث کے اچانک واقع ہونے کی وجہ سے پیش  
 آئی ہے اسے کیا کیا جا سکتا ہے، سنت اللہ یونہی جاری ہے یہ کارخانہ جب تک رہے گا  
 اسی طرح رہے گا، شاہ و گداس کے لئے یہی راست ہے، شاعر کہتا ہے:

آیا جو دنیا میں ہوگا وہ اہل فنا  
 دامنا باقی ہے بس ذات خدا

حق تعالیٰ اس بادشاہ (غائبًا جھائیگیر مراد ہے) گردوں بکھو، قوی دولت اور  
 جوان بخت کی بدولت تمام مخلوق خاص و عام بالخصوص اہل اسلام کو پناہ امن و امان اور  
 سایہ عدل و احسان میں تمام آفات و مکروہات سے محفوظ رکھے، اے اللہ! امام اور  
 امت، راعی اور رعیت کی اصلاح فرماء، اور شیرات میں ان کے قلوب کو جمع فرماء، یہ دعا  
 اکابر مشائخ سے منقول ہے اور اس پر یہیکی کرنا سعادت دنیا و آخرت کا ذریعہ، اور اس  
 دلماں ظاہر و باطن کا باعث ہے ایک اور دعا ہے، "اللَّهُمَّ اصْلِحْ أَمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ أَمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَمَّةَ  
 مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"۔ اے اللہ امت محمدیہ کی اصلاح فرماء اے اللہ آپ کی  
 امت پر حرم فرماء، اے اللہ آپ کی امت کی بخشش فرم۔ مشائخ کا ارشاد ہے کہ جو شخص  
 اس دعا پر دوام کرے گا، مرتبہ ابدال میں بیٹھے گا، اللہ توفیق دے کہ پوری امت کی  
 اصلاح و فلاح کے لئے بے جیمن ہو جانا بھی مشکل کام ہے۔

اب دنیا کے فنا اور اس کی ناپائیداری کے باب میں کیا کہئے اور کیا لکھئے!  
 ایک دانا کا کہنا ہے کہ دنیا نہایت سایہ ایر ہے (جس کو ذرا قرار نہیں) بلکہ بہت  
 جلد گزر جاتا ہے، یا مثل خوب شیطانی ہے جو بالغ کو نظر آتا ہے (اور بھر ضغف و  
 اضھمال اور وسوس و تشویش اس کا کچھ نتیجہ نہیں) تشبیہ اول میں دنیا کے فنا اور بے شانی

کو اور تشبیہ دوم میں اس کے نفع کی قلت اور حقارت کو بیان کیا، عارف فرماتے ہیں:

دنیا کی حقیقت خواب یا ہوا یا افسانہ سے زیادہ نہیں۔

عجیب بات ہے کہ موت جیسا حادثہ درجیش ہے، جو بہر حال پیش آکر رہے گا، لیکن ابن آدم ہے کہ اس سے یکسر غافل، دیدہ عبرت بند، بستر غفلت پر دراز، اسے کچھ پرواہ نہیں کیا کچھ کار مشکل اور مہم دشوار اس کو درجیش ہے، اگر یہ سوال کیا جائے کہ یقین مشکوک کیا ہے یعنی ایسی چیز ہے آدمی بالیقین جانتا ہے باوجود یقین اس میں شک کرتا ہے کہ گویا نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو جواب یہ ہو گا کہ وہ "موت" ہے۔ سب جانتے ہیں، اور بالیقین جانتے ہیں کہ وہ بہر حال آکر رہے گی، لیکن زندگی ایسی برکرتے ہیں اور روشن ایسی اختیار کرتے ہیں کہ گویا موت کے آنے کو بالکل نہیں جانتے۔

اللہ کی شان یہ کیا قدرت ہے، یہ کیا پرده ہے، جو ابن آدم کے سامنے انکا دیا گیا ہے، یہ کیا غلط و فرب ہے جس میں آدمی بنتا ہے، یہ بالکل وہی مثال ہے جو اس حکایت میں بیان کی گئی ہے کہ:

بیان کرتے ہیں کہ ایک بیابان میں شیر ایک آدمی کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، وہ بے چارہ شیر کے خوف سے آگے آگے بھاگ رہا تھا، جب بھانگنے سے ہمت جواب دے گئی ناچار ایک ویران کنوئیں میں گرنے کا قصد کیا، گھاس کی جوشانیں اور جڑیں کنوئیں میں لٹک رہی تھیں، ان کو تھام کر لئک گیا، کنوئیں میں پیچے نظر کی تو دیکھا کہ ایک بھاری اڑدہا منہ کھولے بیٹھا ہے کہ اگر پیچے گرے تو فوراً اس کے منہ میں جائے، شیر جو اس کے تعاقب میں تھا، کنوئیں پر آکھڑا ہو گیا، کہ اگر باہر لکھے تو اسی وقت اس کا قصہ فتم کر دے، تھوڑی دیر اس گھاس کے ساتھ لٹک کر دم لیا تھا، اور سانس درست کی تھی کہ چند چوبے بھٹک گئے، اور انہوں نے گھاس کے ٹکوں کو (جو آدمی کی عمر کی مثال ہے جس سے وہ لٹکا ہوا ہے) کاٹنا شروع کیا، مسکین جیران ہو گیا کہ کرے تو

کیا کرے، پیچے جائے تو سائب بیٹھا ہے اور اکار اوپر جائے تو تیر کھڑا ہے، بنتا ہے ملا ورنہ ظریف بلاقست تھا کہ اچانک اس کی نظر کمبوں کے چھتے پر پڑی جو اسی کنوئیں کی دیوار کی طرف لگا ہوا تھا، چنانچہ وہ شہد کو دیکھ کر ان تمام قصوں کو بھول گیا، شیر کو بھی، اڑدہا کو بھی اور چوہوں کو بھی سب سے نظر بند کر کے اس نے انگلی شہد میں لگائی اور کمبوں کی مزاحمت اور بھزوں کی نیش زنی کے باوجود شہد چاننا شروع کیا، دونوں انگلیاں نہ چانی ہوں گی کہ رشتہ عمرٹوٹ کیا اور محنت و عمم کے کنوئیں میں اڑدہا کا لقہ بن گیا، شہد چانے کی یہ مثال صحیح ہم پر مطبّن ہے کہ شیر قضا ہمارے تعاقب میں ہے، آج ہی یا کل چاہ ہلاک میں ہے دنیا کہتے ہیں موت کی آخوں میں پہنچنے والے ہیں۔

کاش! مدت حیات صحنیں ہوتی، اور اس مسافت کا طول و عرض معلوم ہوتا کہ کتنا ہے تاکہ اس کے موافق راہ روشن اپنے لئے جھویز کر لیتے اور اس مسافت کو پورے اطمینان اور تسلی کے ساتھ طے کیا کرتے اور ایک گونہ فراغ اور قرار پاتے، اور چند سانس راحت کے ساتھ لیتے۔

کچھ معلوم نہیں کہ مدت عمر کتنی ہے اور اس مسافت کا طول و عرض کتنا ہے، ہر قدم اور ہر لمحہ یہ خطرہ اور احتمال لگا ہوا ہے کہ شاید یہی آخری سانس ہو، دن، ہفتہ اور ماہ کی خبر تو بھلاکس کو ہے، اگر بالفرض معلوم بھی ہوتی اور یہ بھی معلوم ہوتا کہ دراز ہے تو بھی کیا ہوتا، جب جانے والی تھی تھی، تو معلوم ہوتی تو کیا؟ نہ معلوم ہوتی تو کیا؟ دراز ہوتی تو کیا؟ کوتاہ ہوتی تو کیا؟ بقول شخص:

جب ہمارا قد غرق ہونے کے لئے ہے پھر لانے اور چھوٹے میں کیا فرق،  
اگر سو سال بھی یہاں رہو بالآخر ایک دن اس دل افروز محل سے جانا ہوگا، اس آبتوی صندل سرما میں کبھی ماتم ہے، کبھی عروی ہے، جب شادی اور غم کے لئے جگہ صاف کرتے ہیں، کسی جگہ سر اور کسی جگہ پاؤں پیٹھے ہیں۔  
دنیا اگر دامُ ہوتی، اور اسہاب دنیا بھی دامُ ہوتے اور عیش و فراغ خاطر اور

آسائش وقت اگر ہمیشہ رہا کرتے پھر اگر ایک مرد خدا مولیٰ کی محبت اور عالم آخرت کے شوق میں ان سے صبر کرتا، اور متعال دنیا کی طرف الفاتح نہ کرتا تو بڑی بات تھی، اب جب کہ وہ سرایا فانیِ حُسن و حُشت، محنت، مشقت اور بلا برباد کا مجموعہ ہے اس کا ترک کونسا برا کام ہے جس پر ناز کیجئے؟

اور اس کے فوت ہونے پر حضرت سچھے، اگر کسی نے اس کے پچھے حصہ سے ہاتھ اٹھا لیا اور چند قدم چلا (پورا ترک تو کب ممکن ہے) اس نے اپنی عمر کو مٹھکانے لگایا اور اپنی جان پر احسان کیا۔

لیکن اس شراب کی خاصیت یہی واقع ہوئی ہے کہ اس کا جو قطرہ حلق سے پیچے اتر جائے، اور جو گھوٹ پی لیا جائے وہ حرص میں اضافہ اور تیگی میں زیادتی کرتا، ہے اور جب یہ کسی کو مست اور بے نواد اور بے خبر کرتی ہے، اس وقت نہ اس کے کان میں تصحیح سننے کے لئے راستہ رہتا ہے اور نہ اس کے سر میں عاقبت اندریش کی گنجائش ہوتی ہے، دنیا کی متی، غرور اور حکمرانی یہاں تک کھینچ لے جاتے ہیں کہ لوگ پیغمبری اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں، فرعون نے سلطنت مصر (جس کا رقبہ چند مرلیخ میل سے زیادہ نہ ہوگا) کے بل پر دعویٰ خدائی کر دیا، دوسروں کے متعلق کیا کہا جائے؟ کیا وہ خدا سے بیگانے بھیں جانتا تھا کہ خدا وہ ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور تو نے تو ایک مسی کا ذھیلہ اور مکھی بھی پیدا نہیں کی، پھر یہ دعویٰ کیسا، وہ دیوانہ بھی نہ تھا کہ یہ تمام باتیں حُسن جنون کی وجہ سے کہہ ڈالی ہوں، اگر دیوانہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی دعوت کے لئے کیوں بھیجا جاتا، انبیاء علیہم السلام کی دعوت عقلاء ہی کے لئے ہوتی ہے، مجانین اور دیوانوں کے لئے نہیں ہوتی، اس کے دعویٰ خدائی کی بنیاد دیوانگی تھی بلکہ نہ دنیا اور غرور سلطنت ہی نے اس کو ان بذیفات میں بھتا کر دیا تھا، بعض لوگوں کی فطرت میں غرور و حماقت کا خمیر ہوتا ہے کہ فہم و تمیز ان سے اخراجی جاتی ہے وہ عقل طبعی کے باوجود دیوانوں جیسے کام کرتے ہیں اور دیوانوں کی سی بات

کرتے ہیں، وہ دیوان نہیں بلکہ ”دیوان صفت“ ہیں۔

ایک حق الحستا ہے اور دعویٰ نبوت کر ذاتا ہے وہ مسکین کچھ نہیں جانتا کہ ”نبوت“ کے معنی کیا ہیں ”پیغمبری“ خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسالی کا نام ہے پیغمبر خدا سے وحی کا پیغام لیتا ہے اور مخلوق کو پہنچاتا ہے، پیغمبر کی تمام عمر گناہوں سے کسرا پاک ہوتی ہے، پیغمبر کا تعلق عالم قدس و ملکوت کے ساتھ جزا رہتا ہے، اس پر فرشتہ پیغام الہی لے کر نازل ہوتا ہے، پیغمبر باذن الہی مجرمات دکھاتا ہے، زمین و آسمان میں اس کا اعجازی تصرف ہوتا ہے، پیغمبر کے اشارہ اگثت سے چاند و سورج کے ہو جاتا ہے، اس کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے بہہ نکلتے ہیں، اسے درخت سجدہ کرتے ہیں (ان کا سجدہ سکونیا ہے غیر مکلف ہونے کی وجہ سے محل ایکھال نہیں ہے) شہر و جمیر پیغمبر کو سلام کرتے ہیں (علیہ السلام)، پیغمبر ایسی کتاب لاتا ہے جس کی مثل لانے سے اولین و آخرین جن و انس عاجز ہیں، اگر کل عقولاً و علاماً جمع ہو کر اس کی تفسیر چاہیں تو اس کی نہایت سے قادر ہیں، پیغمبر ایک شریعت پیش کرتا ہے اور عالم کو نور علم و ایمان سے منور کر دیتا ہے، کافروں سے کفر اور جاہلوں سے جہل کا مرض نکال دیتا ہے، وہ دور والوں کو زندگی لے آتا ہے اور گمراہوں کو راہ راست پر لے آتا ہے، وہ ظاہر و باطن اور صورت و سیرت کی تمام خوبیوں میں تمام انسانوں سے بالآخر اور بڑھ کر ہوتا ہے، کوئی شخص بھی اس کی کسی خوبی میں مشابہ نہیں ہوتا، پیغمبر کے لئے ایک امت، ہوتی ہے جو صلاح و فلاح اور زیور محبت و اعتماد کے ساتھ آرائتہ پر استہ ہوتی ہے، اس کے صحبت یافتہ علم و عمل، زبد و تقویٰ اور نورانیت میں سب سے پیشتر و پیشتر اور اس کی متابعت کی برکت سے جامع کمالات اور مظہر خوارق و کرامات ہو جاتے ہیں، پیغمبری محن و دعویٰ یا غلبہ سلطنت اور شوکت کا نام نہیں، یہ تمام امور بالکل واضح ہیں لیکن امت کا کیا کیا جائے حق تعالیٰ حماقت اور گمراہی سے بچائے۔

آدمی میں تین چیزوں ہیں، نفس، قلب، روح۔ نفس کی سرنشت اسی کوں و فساد

سے واقع ہوئی ہے، میں جسمانی لذات اور حسن کی دل فریبیاں اس کا منفعتی کمال ہے، نفس زینتی اور ظہلتی ہے اور سن جملہ اجزاً بدن کے ہے، البتہ دیگر اجزاً بدن کی نسبت اس قدر لطافت اور نورانیت اسے حاصل ہے کہ محاسن کو دریافت کر سکتا ہے اور سننے، دیکھنے، سوچنے، پچھلنے اور چھونے کا مادہ بن گیا ہے، نفس کو عقلی اور روحانی لذات کی کچھ خبر نہیں، میں نفس ہے جس نے آدمی کو اس عالم کا گرفتار کر دیا ہے۔

اور روح طیف ہے اور نورانی محسن ہے اور عالم بالا سے ہے، اس کی وجہ عالم قدس کی طرف رہتی ہے، اس کی لذت علم و معرفت سے ہے اور حق تعالیٰ کی محبت اور اس کی ذات و صفات مقدسہ کی شاخت اسی کا حصہ ہے مگر چوں کہ اس کو بدن کے ساتھ تعلق ہے اور نفس کے ساتھ اس کا کارروائی اخلاق و ازدواج واقع ہوا ہے، اس لئے نفس کے عشق و محبت میں بجا ہو کر سررشت پاٹھ سے چھوڑ دیتی ہے، روح اور نفس کے تعلق کی مثال صحیح مرد و عورت کے تعلق کی سی بھجنی چاہئے، روح اور نفس کے ازدواج سے لطفہ قلب پیدا ہوا، قلب، روح اور نفس کے درمیان الٹ پلٹ رہتا ہے، اگر کسی شخص میں روحانی احکام غالب آگئے اور نفس و قلب اس کے تابع ہو گے (یہ نہایت نادر ہے) تو اس سے تمام قسم کی خیر و صلاح پھوٹتی ہے، اور اگر نفس غالب آگیا اور روح و قلب تابع اور غلام بن گئے تو اس سے ہر قسم کا شر و فساد برپا ہوتا ہے، یہ بات مشہور ہے اور اپنی جگہ مفصل بیان ہوئی ہے، یہاں مقصد آدمی کے تدبیب اور کشاکشی کا بتلانا ہے، کہ ایک طرف اس کی عقل اس کو ایک جانب پچھنچتی ہے اور نفسانی تقاضے دوسری جانب اور سوچتم کی تختی اور محنت میں بے چارہ گرفتار ہے، یہ تو ابھی اسی عالم کے شدائند و محن ہیں جو آدمی کے سر پڑتے ہیں ورنہ اگر آخرت کے اہوال و شدائند کا بالتفصیل اس کو مشاہدہ ہو جائے اور ان کا تصور کر لے تو حواس ہی کھو بیٹھے، حدیث میں آیا ہے: "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لِصَحْكَمْ قَلِيلًا وَلِبَكْتَمْ كَثِيرًا" فرمایا کہ مبدأ اور معاد اور آخرت کے جواہوں میں جانتا ہوں کہ کیا کیا گزر چکا ہے اور کیا کیا پیش آنے

والا ہے، اکر تم کو معلوم ہو جائے تو کم پہنچا کرو اور زیادہ رو یا کرو، لیکن چونکہ ابتدا و قضا الی اس امر کو منقضی ہے کہ اس عالم کو نظر وں سے پوشیدہ اور پردہ غیب میں رکھا جائے اور انسانوں کو جو کچھ یہاں مشاہدہ و معلوم ہے وہ صرف عالم ظاہر ہے اس لئے وہ فربہ میں بہتلا اور گم کر دہ راہ ہیں حق تعالیٰ فرماتے ہیں وہ (یعنی کفار) صرف دنیوی زندگی کے کچھ ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے (بالکل ہی) غافل ہیں کہ وہاں کیا ہو گا، مگر ان صادق حضرات انجیا علیہم الصلوٰۃ والسلام اس عالم کی خبر دیتے ہیں، اور علم وہدایت کے نور دکھلاتے ہیں لیکن انسان بدستور نفس و طبیعت کی ظلمات میں غرق ہیں، حق تعالیٰ کا ان نہیں دھرتے اور قدم نہیں اٹھاتے۔ اصل حقیقت مرنے کے بعد ظاہر ہو گی کہ کیا ہے؟ عارف فرماتے ہیں:

ذر راحمہرہ تاکہ جہاں حقیقت حال سے نقاب الٹ دے، رات کی تاریکیوں میں جو کچھ تم نے کیا ہے وہ کل صبح کی روشنی میں ظاہر ہو جائے گا۔

حدیث میں ہے: "الناس نیام فاذا ماتوا انبهروا" یعنی لوگ خواب غفلت میں سور ہے ہیں، جب مریں گے تو بیدار ہوں گے، خوب کہا ہے:

ملحق جب تک جہاں اسباب میں ہیں  
سب کشی ( عمر میں سوار) اور مست خواب ہیں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ  
اب اگر سوال ہو کہ پھر کیا کیا جائے اور کہاں چلے جائیں، بات بالکل الٹ پر گئی انجیا علیہم السلام ترک دنیا کا حکم فرماتے ہیں اور ملحق

سے کنارہ کشی اور طبیعت نفس کی مخالفت کی دعوت دیتے ہیں، حالانکہ اس حال کا پیدا ہونا حمال اور اس کا مام کا بن آنا مشکل ہے، بھر حال آدمی جب تک قید حیات میں ہے اور دنیا میں رہتا ہے، اس وقت تک اسباب دنیا بی نوع کے میل جوں، آسائش طبع اور

قید نفس سے اس کو چارہ نہیں، حیات دنیا کا مدار اور کار جہاں کا انتظام اسی پر ہے، جواب یہ ہے کہ جب تک کسی بات کو اچھی طرح سمجھنا لیا جائے اور اس کی گہرائی کو نہ

پالیا جائے اس وقت تک وہ لنشین نہیں ہوتی اور حیرت اور پریشانی لائق ہوتی ہے، ائمیا علیہم السلام جو ترک دنیا اور مخلوق سے کنارہ کشی کا حکم کرتے ہیں اور مخالفت نفس و طبیعت کی دعوت پیش کرتے ہیں اس سے مقصود یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کی جائے، اور جادہ مستقیم کو نہ چھوڑ جائے، اور دین و شریعت نے جوراہ و روش مقرر کی ہے اسی کو لازم پکڑا جائے، اندر میں صورت اگر کوئی شخص بظاہر باخلاق ہوگا، درحقیقت باخدا ہوگا، بصورت دنیا میں ہوگا لیکن بمعنی تارک دنیا کھلانے گا کیونکہ اس صورت میں اگرچہ بظاہر نفس کے موافق عمل ہوگا لیکن درحقیقت اس کے خلاف ہوگا۔

اہل صحیح کا ارشاد ہے کہ مقصود موافقت حق ہے، خلاف نفس مقصود نہیں، یعنی سلوک میں جو نفس کی مخالفت کی جاتی ہے اور اس کی ضد پر عمل کیا جاتا ہے، وہ صرف اس لئے ہے کہ حق تعالیٰ کی موافقت ہو جائے اور راہ راست پر چل سکے، اگر خود نفس ہی راہ راست پر آجائے تو اس کی مخالفت کا کوئی معنی نہیں۔

دنیا میں کچھ فقیر ہیں کچھ امیر، کچھ حاکم ہیں کچھ حکوم، بعض مالک ہیں بعض مملوک، بعض خادم ہیں بعض خدمہ، بس فقراء کو صبر لازم ہے اور انہی کو شکر۔ حاکم کو عدل ضروری ہے اور رعایا کو اطاعت، مالکوں کو رحم چاہئے اور مملوکوں کو خدمت، خادم کے لئے ادب واجب ہے اور خدموں کے لئے عنایت، جو شخص جس گروہ میں ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے راہ روشن پر چلے اور طریقہ عدل ہاتھ سے نہ چھوڑے، ایسا شخص واصل اور مقرب اور مقبول بارگاہ ہوگا، اسی لئے مشائخ فرماتے ہیں کہ ہر جماعت کا سلوک اسی کا پیشہ ہے، یعنی جو جس کام اور عمل میں مشغول ہے اگر قاعدہ اور ادب کے منہاج پر ہوگا ساک ہے۔ شریعت مطہرہ کی دعوت بھی اسی نجح پر واقع ہوئی ہے، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے کسی کو جس حرفت میں وہ مشغول تھا نکالا نہیں، کاشتکاروں کو زراعت ہی کے کام میں رکھا اور تاجر و مارکیٹ کو تجارت میں، اہل و عیال

والوں کو اہل و عیال کے ساتھ رکھا اور مجردوں کو ترک اور تحریم میں، المداروں کو مال و مہنال کے ساتھ رکھا اور فقراء کو فقر و فاقہ کے ساتھ لیکن ہر طائفہ کے لئے ایک قاعدہ اور دستور اعلیٰ مقرر فرمادیا تاکہ اس پر عمل کریں، کسی چیز سے نکالا۔ کفر و معاصی سے نکالا، باقی ہر ایک کو اسی دائرہ میں رکھا۔ تمام سعادتوں کا سرچشمہ شریعت کی اطاعت اور اسلام کا اعتقاد ہے، اور اس بات کا یقین پیدا ہو جانا کہ ہر عمل کا ایک بدله ہے اور ہر کروار کی جزا ہے، نیک عمل کا انجام نیک اور بد کا بد۔

البتہ اتنا ضرور ہے کہ بعض لوگ نیک عمل کا بدله دنیا ہی میں چاہتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں اور دوسرا جماعت کا ملک نظر جزاۓ آخرت ہے اور وہ کار دنیا کو سہل جانتے ہیں اور جو شخص کسی مشروع کام کو خدا کے لئے کرتا ہے اسکی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی، کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں کا بدله اللہ کے قبضہ میں ہے، خدا کرے انجام پذیر ہو۔

وصیٰ اللہ علیٰ ہبیر حنفہ بصیر و لالہ رضا صاحبہ الرحمیں

(ابناء الصدیقین ماہ شعبان ۱۳۸۳ھ)

## فتول سے حفاظت

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى :

محرم الحرام سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے گویا بھرت نبوی (علیٰ صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) سے اب تک زمانہ گروش ایام کی تہہ سو بانوے منزیل طے کرچا ہے اور آج سے ٹھیک آٹھ سال بعد زمانہ صد سالہ کروٹ بد کر چوہویں صدی سے پندرہویں صدی میں منتقل ہو جائے گا۔ صدی کا آخری حصہ عموماً تنزل و انتظام کا دور ہوتا ہے، گریٹ چند سالوں میں امت جن حوالوں سے دوچار ہوئی، انسانی تدریس جس تیزی سے پہلیاً ہوئیں، انسانیت کے آلام و معاصی میں جس سرعت سے اضافہ ہوا اور ملت اسلامیہ پر اتنا اڑ آزادی کے جو پہاڑ ٹوئے اگر آئندہ آٹھ سالوں میں پستی و تنزل کی کی رفتار رہی تو نہیں کما جا سکتا کہ چوہویں صدی کے اختتام تک دنیا انتظام کے کس نقطے تک جا پہنچے گی، بظاہر یہ آٹھ سال شدید فتوں اور آزادیوں کے سال ہوں گے جن کا نقشہ شاید وہ ہو گا جو صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے :

بادر و بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلوم

و يصبح الرجل مومناً ويمسي كافراً و يمسى

مومناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من

الدنيا

(مشکوٰۃ ص ۳۴۲)

ترجمہ : "ان فتوں سے پہلے جوش تاریک کے نہ بہت گلکھوں کی  
ماہنہ ہوں گے، اعمال میں سبقت کرو، ان میں آدمی کی یہ حالت ہو گی  
کہ صحیح کو مومن ہو گا اور شام کو کافر اور شام کو مومن ہو گا اور صحیح کو  
کافر اٹھے گا دنیا کے معمولی مفاد کی غاطر اپنا ایمان پیچا پھرے گا۔"

بعض روایات کے مطابق اس امت کی طبیعی عمر ایک ہزار سال تھی، اس کے بعد سے اسے ضعف پیری کا عارضہ لاحق ہوا اور وہ باتفاق امراض کا شکار ہونے لگی، تاہم مصلحین و مجددین کی گرمی دل اور سوزش باطن اس کو بہترین غذا پہنچا رہی تھی اور خود امت کے پاٹنی قوی امراض و آلام کی مدافعت کا دم خم رکھتے تھے، گریاب تو اس کے تمام اعضا شل اور پاٹنی قوی ماؤف ہو چکے ہیں، اس کی قوت مدافعت جواب دے چکی ہے، اب یہ امت فتوں کے مقابلہ میں خم ٹھوک کر کھڑا ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، بلکہ ہر موقع پر طوفان کے رخ بنتے کی خونگر ہو چکی ہے اور اس کے اطباء و معاجمین اس مریض جان بلب کی غلط چارہ سازی میں مصروف ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس کا کیا کیا جائے۔ کہیں جمیوریت کے انجمن سے اس کی بحالی صحت کی امید کی جا رہی ہے کہیں یہودیت و مغربیت کے تربیاق کو اس پر آزمایا جا رہا ہے۔ کہیں سائنس اور مادیت کے کیپوں اس کے حلق سے اتارے جا رہے ہیں، کہیں سو شرکم کے مارفیا سے اسے چند لمحے تکین دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر حیف کہ یہ برخود غلط معاجمین نہ اس امت کے مزاج شناس ہیں نہ اس کے مرض اور اسیاب مرض کی تشخیص کر پائے ہیں، نہ اس کے علاج کی الہیت و صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیے میں یہ مریض مرے گا نہیں تو اور کیا ہو گا وکان امر اللہ قدر امقدوراً۔

جن فتوی کی طرف اور اشارہ کیا گیا ہے، ان کا آخری فتنہ دجال امور (کائن دجال) کا فتنہ ہو گا جب سے اللہ تعالیٰ نے اس حقوق کو پیدا کیا ہے دجال سے بدا کوئی فتنہ آیا نہ آئے گا، یہ تمام فتنے جو آچکے ہیں یا آئیں گے گواہ دجال امور کے فتنہ کبریٰ کے لئے زمین تیار کر رہے ہیں، دجال کا فتنہ کب بپڑا ہو گا؟ اس کا صحیح علم تو علیم و خیر ہی کے پاس ہے، مگر فتنہ کچھ ایسا بن رہا ہے کہ شاید اب وقت زیادہ نہیں، یہ فتنہ مومن و کافر اور خبیث و طیب کے درمیان انتیازی لکھر ثابت ہو گا۔

حدیث میں آتا ہے کہ ”جو شخص ہر جحد کو سورہ کف پڑھا کرے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا (متدرک حاکم)۔

ہر مسلمان کو اس کی فکر کرنی چاہئے، ہر جحد کو سورہ کف پڑھنے کا خود بھی انتظام کریں، گھر میں یوں بچوں سے بھی اس کی پابندی کرائیں اور اپنے تمام متعلقین، دوست احباب اور عام مسلمانوں کو بھی اس کی دعوت دیں، حضرات علیاء کرام اس سورہ کا درس دیں اور اس کے مضامین کی مسلمانوں کو تربیت دیں۔ اس سورہ کی مرکزی دعوت یہ ہے کہ ایک مسلمان میں کم از کم اصحاب کف کا ساجذہ ایمان پیدا ہونا چاہئے۔ کہ ماسوا اللہ کی ہر دعوت کو شلط (یہ سوہہ بات) کہہ کر ٹھکراؤے اور وقت آنے پر خویش اقرباء اور گھر بار کو تحریک کرنے کی طرف بھرت کر جائے۔ دنیا کی رنگارنگی کا اہمیت اس کے عقیدہ ایمان کو متزلزل نہ کر سکے، اس کے نزدیک آخرت کی ”باقیات صالحتات“ کے مقابلہ میں متع دنیا کی تمام رعنائیاں اور دل فرسیاں ذرہ بے مقدار سے ہر ہے کہ حقیرو ذیل ہوں، اس کا عقیدہ یہ ہو کہ آخرت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کر صرف دنیا کے لئے مرنے کچنے والے احقوں کا ٹولہ ہیں، جن کے ہاتھ حرست و برپادی اور خسارہ و نقصان کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔

اُس و مان کے عام حالات میں ایک سپاہی کو مقررہ وظیفہ دیا جاتا ہے، مگر جب چاروں طرف بخوات اور شورش کے شعلے بھڑک اٹھیں اور حکومت وقت سے سرکشی و سرتبلی کی فضاعام ہو جائے، اس زمانے میں کسی سپاہی کی جانب سے وفاواری کا مظاہرہ بڑی قیمت رکھتا ہے اور اس کا یا غیر فوج کے سامنے سیدھا تاں کر کھڑے ہو جانا قدومنیت سے دیکھا جاتا ہے، اسے غلغٹ شہنشی اور گرانقدر العلامات سے نوازا جاتا ہے اس کے منصب میں ترقی دی جاتی ہے اور اسے بیش بمالعیلات کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔

آج جب کہ بگڑی ہوئی انسانیت میں اپنے خاتق سے بخوات و برکشی کی نفعاً عام ہے، احکام الیسہ کو توڑا جا رہا ہے، مادیت کا فتنہ اطراف عالم کو محیط ہے، ایسے حالات میں جو لوگ اپنے کرم آقا سے وفاواری و اطاعت شعاری کا ثبوت پیش کریں گے انہیں بیش بمالعیلات کی دولت سے نوازا جائے گا۔ آخرپر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

### العبادة فی الهرج كهجرة الى

(مشکوٰۃ من ۳۶۲ برداشت مسلم)

ترجمہ: ”فتنه کے زمانے میں عبادات کرنے کا درجہ ایسا ہے جسے کوئی شخص بھرت کر کے میرے پاس آئے۔“

ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ”اس امت کے آخر میں کچھ لوگ ہوں گے جن کو امت کے پہلے لوگوں (صحابہ کرام) جیسا اجر و انعام عطا کیا جائے گا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم کریں گے، اس کی نافرمانی سے منع کریں گے، اور ان لوگوں سے جو فتنہ میں مبتلا ہیں، مقابلہ کریں گے۔“  
(مشکوٰۃ من ۵۸۳)

اس پر فتن نہانہ میں جن سعادت مندوں کو اپنے ایمان کی فکر اور اطاعت خدالوندی کی لگن ہے، اور جو امر بالشروع اور نبی عن المکار کے ذریعہ امت کو ایمان و عمل کی لائیں پر ڈالنے کی محنت میں کوشش ہیں، وہ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، انہیں قتوں سے گھبرانا نہیں چاہئے کہ یہ ان کے لئے نہایت اعلیٰ درجات و ترقیات کا ذریعہ ہیں۔ مگر خود امانت کے گرواب سے قل کر ایمان و یقین کی لائیں پر پڑنا، اور بندگی خدا کو اس کی دعوت ہنالبغیر اس کے ممکن نہیں کہ وقفہ وقفہ کے بعد کچھ وقت نکل کر اللہ والوں کی پاکیزہ جملوں میں حاضری دی جائے، ہر جملہ کی سبھ کو محلہ والوں کی دینی ضروریات اور ایمان و عمل کی دعوت کا مرکز بنا لیا جائے ہر گھر کو ذکر و تلاوت سے معمور کیا جائے، اور اس کے لئے اتنی محنت کی جائے کہ ہر مسلمان کا رابطہ سب سے استوار ہو جائے یہ ہے آج امت کی سب سے بڑی ضرورت۔

”چونکہ احکام شرعیہ کا مدار حساب قمری پر ہے اس لئے اس کی حفاظت فرض علی اکتفای ہے پس اگر ساری امت دوسری اصطلاح کو اپنا معمول بنالیوے جس سے حساب قمری صلح ہو جائے، سب گنجائی ہوں گے اور اگر وہ محفوظ رہے (تو) دوسرے حساب کا استعمال مبالغہ ہے، لیکن خلاف سنت سلف ضرور ہے، اور حساب قمری کا برنا بوجہ اس کے فرض کفایہ ہونے کے لیے افضل، احسن ہے“

(تفسیر مبان القرآن - حضرت حکیم الامت تھانوی)

کہنے کو تو چھوٹی سی بات ہے مگر ہے بہت بڑی۔ اگر بہت کے زیر اثر آج کے ریبدار حلقوں میں بھی انگریزی تاریخ کا روایج ایسا عام ہے کہ اسلامی تاریخ کی سنت بہت سے حلقوں میں مست پھیلی ہے، آئیے نئے سال کے آغاز پر اس سنت کے احیاء کا عزم کریں۔ وفقنا اللہ لکل خیر و سعادة۔

(بیانات ۱۴۹۳ھ)

## چند باتیں دوسرے جہان کی تین بھائی، تین قبریں

بسم اللہ الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفهم

تاریخ ابن عساکر میں صدقہ بن یزید سے متعلق کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے طریقہ کی ایک جانب تین قبریں دیکھیں جو بلند نیشن پر واقع تھیں۔ ایک پر یہ قطعہ کھاتھا:

وَكَيْفَ يَلْذَلُ عِيشَ مِنْ هُوَ مُوْقَنْ  
بَأَنَّ الْمَنَابَاً بَغْتَةً سَتَعْجَلْهُ  
وَتَسْلِبَهُ مَلْكًا عَظِيمًا وَنَخْوَةً  
وَتَسْكُنَهُ الْبَيْتُ الَّذِي بُوْ آجَلَهُ  
ترجمہ: ”ایک ایسے شخص کو لذت عیش کیوں نکر نصیب ہے ہے یقین ہے کہ موت غیریب اسے اچاکہ درج لے گی اس کی حکومت و سلطنت نخوت و غور اور کوفر غاک میں ملا دے گی، اور اسے

آخری گھر میں قام پر بجور کر دے گی۔

دوسری قبر پر قطعہ لکھا تھا :

وکیف يلذالعيش من بو عالم

بان الله الخلق لابد سائنه

فيأخذ منه ظلمه لعباده

ويجزيه بالخبر الذي بو فاعله

ترجمہ : "اور ایک ایسے شخص کو لذت عیش کیوں نکر نصیب ہو جاتا

ہے کہ اللہ العالمین اس سے یقیناً محابہ کریں گے، اس کی جانب سے

ہندوؤں پر جو ظلم ہوا اس پر موافذہ ہو گا" اور اس نے جو خیر کا کام کیا

ہو گا اس کی جزا دیں گے۔"

تمیزی قبر پر قطعہ لکھا تھا :

وکف يلذالعيش من بو صاثر

الى جدت تبلی الشباب منازله

ونذهب حسن الوجه من بعد ضئونه

سرجا و ببلی جسمه و مفاصله

ترجمہ : "اور ایک ایسے شخص کو لذت عیش کیوں نکر نصیب ہو جو ایک

ایسے گھٹے میں چکنے والا ہے جس کی منزلیں اس کی جوانی کو غارت

کر دیں گی، چکنے ہوئے چہرے کا سارا حسن چند لمحوں میں جاتا ہے

گا" اور اس کے جسم کے جو زبرد ریڑہ ریڑہ ہو جائیں گے۔"

تمیزی ایک بحقیقی میں اس میں شرا وہاں کے ایک بڑے میاں سے ان

تین قبور کے کتبیں کا ذکر کیا اور ان پر اظہار تجدب کیا، وہ بولے کہ ان کا قصد اس سے بھی عجیب تر ہے، میری فرمائش پر انہوں نے بتایا کہ یہ تین بھائی تھے، ایک بادشاہ کا حاشیہ بردار تھا، رسول اور فوج کے متعدد مناصب پر فائز تھا۔ دوسرا ایک امیر کیہ سربراہی دار تھا، تجارت کا جال دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ تیسرا عبد و زاہد تھا، دنیوی علاقے سے الگ تھلک یاد مولا میں مشغول تھا، عبد کی موت کا وقت آیا تو اس کا وہ بھائی جو شاہ کا ہم نہیں اور ان دونوں خلیفہ وقت عبدالملک بن مروان کی جانب سے اسی صوبے کا گورنر تھا، نیز دوسرے بھائی جو تاجر تھا۔ دونوں اس کے پاس آئے اور اس سے وصیت کی فرمائش کی، اس نے کہا : نہ میرے پاس مل ہے جس کے خرچ کرنے کی وصیت کروں، نہ مجھ پر قرض ہے کہ اس کی ادائیگی کی تائید کروں، نہ کچھ سلان چھوڑ کر جارہا ہوں کہ اس کی قسمیم کے بارے میں کچھ کروں، البتہ ایک بات کا وعدہ کرو کہ تم اس کے خلاف نہیں کرو گے، جب مروں تو مجھے کسی اپنی جگہ دفن کر کے میری قبر پر یہ قطعہ لکھ دو (پہلا قطعہ جو اپر نقل کیا گیا ہے) بعد ازاں تین دن تک میری قبر پر یہ قطعہ لکھ دے جو اپر نقل کیا گیا ہے) بعد ازاں تین دن تک میری قبر پر آتے رہو گا کہ شاید تمہیں اس سے عبرت و نصیحت حاصل ہو۔ دونوں بھائیوں نے اس کی وصیت پوری کی، تمیرے دن جب گورنر صاحب نے اپنے بھائی کی قبر کی زیارت سے فارغ ہو کر واپسی کا ارادہ کیا تو قبر کے اندر سے کسی چیز کے نور سے گرنے کی آواز سنائی دی، جس سے وہ کانپ گیا، اور نہایت خوف اور دہشت کی حالت میں گھر لوٹا رات ہوئی تو مر جوم بھائی کو خواب میں دیکھا، اس سے دریافت کیا کہ یہ خوفناک آواز کیسی تھی؟۔ اس نے بتایا کہ یہ ہتھوڑے کی آواز تھی، مجھ سے کہا گیا کہ تو نے فلاں وقت ایک مظلوم دیکھا تھا مگر اس کی مدد نہیں کی۔ صح ہوئی تو گورنر صاحب نے اپنے بھائی اور دیگر خواص کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ اس نے اپنے تمام موجودہ مشاغل سے وست کش ہونے کا فیصلہ کیا ہے، چنانچہ اس نے المارت و ریاست

سے استغفاریا، جگل میں بیرا کیا اور عبالت میں مشغول ہو گیا، اس کی وفات کا وقت آیا تو اس کا ماجرہ جائی حاضر ہوا اور اس سے وصیت کی فرمائش کی۔ اس نے کمانہ میرے پاس مال ہے نہ قرض۔ البتہ میری درخواست ہے کہ جب مرول تو بھائی کے پہلو میں مجھے دفن کرو، اور میری قبر پر یہ قطعہ لکھو (یہاں دوسرا قطعہ درج ہے جو اوپر ذکر کیا گیا ہے) اور تین دن تک میری قبر پر آتے رہو، اس کا انتقال ہوا تو اس کے بھائی نے اس کی وصیت کی تعمیل کی، تیرے دن جب قبر پر حاضری دے کر واپس ہونے کا ارادہ کیا تو قبر سے ایک خفاک آواز سنائی دی جس سے اس کے حواس معطل ہو گئے، کچھتا ہوا گھر لوٹا، رات ہوئی تو بھائی کو خواب میں دیکھا اور حال احوال دریافت کیا، اس نے بتایا کہ بھوئندہ ہر طرح خیرت سے ہوں اور توبہ ہر خیر کو جمع کری دیتی ہے پوچھا کہ دوسرے بھائی کا کیا حال ہے؟ کہا : وہ تو ایرار کے ساتھ بہت ہی بلند درجہ پر فائز ہے پوچھا کہ ہمارے بارے میں تمہارے یہاں کا قانون کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ جس نے جو کچھ آگے بھیجا ہوا سے مل جاتا ہے، اس نے تم ناداری سے قبل اپنی مل داری کو غیرمحل کر کر اس سے فائدہ اٹھا۔ صبح ہوئی تو اس تیرے بھائی نے بھی توبہ کی، دنیا کے عیش و آرام کو خیر ہاد کیا، مل دولت فقراء مساکین میں تقسیم کر دی، اور تمام مشاغل سے یکسو ہو کر عبالت میں مشغول ہو گیا، اب کاروبار اس کے لئے کرنے سنبھال لیا، اس کی وفات کا وقت آیا تو صاحبو اے نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ لیا جان!

کوئی وصیت فرمائیے۔ خواب دیا! بیٹا! میرے پاس مال نہیں جس کی وصیت کروں، البتہ جب مرول تو مجھے دونوں بھائیوں کے پہلو میں دفن کرو، اور میری قبر پر یہ قطعہ لکھو (یہاں تیسرا درج ہے جو اوپر نقل کیا گیا) بعد ازاں تین دن تک میری قبر پر آتے رہو۔ بنیتے باب کی وصیت پوری کی، تیرے دن جب اس کی قبر پر آیا تو اندر سے ایک میب آواز سنی! خوف وہ اس کی حالت میں گم رہتا، رات ہوئی تو والد صاحب کو

خواب میں دیکھا، حال احوال دریافت کیا، باب نے کہا:

”بیٹا“ تھوڑے دنوں بعد تو ہمارے پاس آپنچھ گا۔ معاملہ بڑا سخت ہے، اس لئے طویل سفر روانہ ہونے کی تیاری جلدی کرو، اور جس منزل سے کوچ کرنے والے ہو وہاں سے اپنا سلسلہ اس منزل میں منتقل کرو جس میں تم کو رہائش اختیار کر لیں ہے۔ دیکھو! اس دھوکے میں مست پڑو جو باطل کے پرستاروں کو لگا ہے، انہوں نے اپنی امیدوں کو طول دیا اور معاد کے معاملہ میں کوتہ انہیں سے کام لیا، انہیں موت کے وقت نہ امتحان کیا اور اضاعت عمر افسوس ہوا، مگر نہ تو موت کے وقت نہ امتحان کے لئے سود مند ہوئی، نہ اس وقت اپنی کوتاہی پر افسوس کرنے سے انہیں فائدہ ہوا۔ بس بیٹا! جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔“

بڑے میاں نے بتایا کہ جس رات اس نوجوان نے خواب دیکھا اس کی صحیح کو میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے اپنے خواب کا قصہ بیان کیا اور کہا کہ میرے والد صاحب نے مجھے تین بار جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو کا حکم دیا ہے۔ اس نے میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے تین میئے یا تین دن باقی رہ گئے۔ چنانچہ تیرا دن ہوا تو اس نے اپنے اہل و عیال کو بلا کر انہیں رخصت کیا، اور رات آئی تو قبلہ رخ ہو کر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جان، جان آفرس کے پرد کر دی۔

(اتخاف السادة الحسینیں ج ۱۰ - ص ۳۵۷)

(رب ج ۱۴۹۳)

## ہماری قابل فخر تاریخ

اور

### اس کے مختلف ادوار کا باہمی فرق

ماہنامہ "الرشید" میں کتاب "الزهد والرقاق" مؤلفہ امام عبد اللہ بن مبارک کا ترجمہ بالا قساط شائع ہو رہا ہے۔ ربيع الثانی ۱۲۹۵ھ (جی ۱۷۷۵ء) کے شمارے میں جو قحط کا ترجمہ ہوا ہے، اس کا عنوان ہے "باب الاجتہاد فی العبادۃ" اس باب میں امام ابن مبارک نے متعدد روایات نقل کی ہیں جن کا مشترکہ مضمون یہ ہے کہ صحابہ کرام میں عبادت الہی کا ذوق و شوق کیسا تھا؟ اور بعد کے لوگوں میں مددِ حیا اس رنگ میں کس طرح فرق پیدا ہوتا چلا گیا؟ مثلاً:

۱..... مجاہد (تابعی) فرماتے ہیں کہ آج تمہارا عبادت میں انتہائی کوشش کرنے والا صحابہ کرام کے مقابلہ میں کھینچنے والے کی مانند ہے۔

۲..... بلال بن سعد کہتے ہیں، صحابہ کے مقابلہ میں تمہارا زاہد راغب ہے، عبادت گزار کو تھا کرنے والا ہے، عالم جاہل ہے، اور جاہل دھوکہ میں بدلتا ہے۔

۳..... عبادہ بن قرض لیٰہ فرماتے ہیں، تم بعض ایسے اعمال کر گزرتے ہو کہ تمہارے نزدیک تو اس کی حیثیت بال برابر بھی نہیں، لیکن رسول اللہ ﷺ کے زمانے

میں ہم انہیں ہلاک کرنے والے اعمال کہتے تھے۔

۴..... حضرت سورہ بن محمرہؓ فرماتے ہیں، ایسے ایسے لوگ زیر زمین چلے گئے کہ اگر وہ مجھے تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ لیتے تو مجھے شرم آنے لگتی۔

۵..... حضرت عائشہ صدیقہؓ نے حضرت علیؓ کے دو شعر پڑھے:

ذهب الدین يعاش في اكتافهم

وبقيت في نسل كجلد الاجور

يتحدون مخافة و ملاذة

و يعاو قاتلهم و ان لم يشعف

ام المؤمنین نے یہ شعر پڑھ کر فرمایا کہ اگر علیؓ ہمارے دور کے لوگوں کو دیکھتے تو ان پر کیا گزرتی؟ اور امام زہریؓ نے حضرت عائشہؓ کا یہ ارشاد نقل کر کے فرمایا کہ ام المؤمنین اگر ہمارے دور کے لوگوں کو دیکھتیں تو ان کا کیا حال ہوتا؟

۶..... عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ فرماتے ہیں کہ اگر اس امت کے پہلے بزرگوں میں سے دو شخص اپنے مصحف لے کر کسی وادی میں نکل آئیں تو وہ لوگوں کے پاس ایسی حالت میں آئیں گے کہ جن اعمال پر وہ گامزد ہتھے ان میں سے کسی کو نہیں پہچانیں گے، ان تمام روایات سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم السلام جھین پر زبد و خیست، اخلاص و للہیت اور عبادات میں ذوق و شوق اور فنا و حجیت کا جو رنگ تھا اگر اس کا مقابلہ ما بعد کے لوگوں سے کیا جائے تو بعد کے لوگ صحابہ کے مقابلے میں صفر نظر آئیں گے۔ اسی طرح حضرات تابعین کے اخلاص و ایمان، یقین و توکل سے بعد کی امت کے عابدین و زابدین کے اخلاص و عمل

کا مقابلہ کیا جائے تو یہ لوگ ان کے مقابلہ میں کا لعدم معلوم ہوں گے۔ یہ نقشہ جو امام عبد اللہ بن مبارکؓ نے پیش کیا ہے بالکل فطری نقشہ ہے جس کا اندازہ ہر شخص آج سے میں، تیس سال قبل کے حالات سے آج کے حالات کا مقابلہ کرنے کے بعد کر سکتا ہے۔ بالکل جس شخص کو حق تعالیٰ نے چشم بصیرت عطا کی ہوئے صاف نظر آئے گا، انسانی اخلاق و اعمال میں تنزل و انحطاط اس تیزی سے ابھر رہا ہے کہ ہر گز شدہ کل آج سے بہتر معلوم ہوتی ہے، قیام پاکستان کے زمانہ میں لوگوں کے اخلاق و اخلاص کی جو کیفیت تھی وہ آج ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، لیکن مولانا رویؒ کے بقول ”ہرچہ گیرد عملت شو“۔ ایک معاصر نے امام عبد اللہ بن مبارکؓ کے مندرجہ بالا نقش سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے، وہ یہ ہے:

”گویا (امام ابن مبارکؓ) کے قول کے مطابق) رسول اللہ ﷺ کی وفات کے پچھیں تیس سال بعد یعنی حضرت لبیدؓ کی وفات سے قبل دورِ صحابہ کے مسلمانوں کی وہ حالت ہو چکی تھی جس کا ذکر حضرت لبیدؓ نے اشعار میں کیا۔ حضرت عائشؓ نے ان سے پندرہ سو لے سال بعد کے لوگوں کو (جو اصحاب تابعین پر مشتمل تھے) حضرت لبیدؓ کے زمانے سے بھی گیا گزرا بتایا، حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے اپنے عبد کے مسلمانوں کا رونارویا، اور جناب امام زہریؓ نے اپنے زمانے کی حالت ان سے بھی ابتر بتائی۔

اگر خود ہماری پیش کردہ تاریخ کی روشنی میں مخالفین یہ کہیں کہ کیا یہی تھا وہ انقلاب عظیم ہے قرآن کریم کی تعلیم اور رسول اللہ ﷺ کی تربیت نے عربوں کی حالت میں پیدا کیا

تھا، اور یہی تھی صحابہؓ اور تابعین پر مشتمل جماعت ہے آپ دنیا کے سامنے فخر کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو فرمائیے کہ آپ کے پاس اس اعتراض کا کیا جواب ہوگا؟ حضرت لبیدؓ کا انتقال ۲۱ میں ہو رہا تھا اور حضرت عائشؓ کا ۲۵ھ میں یہ دور (۴۰ھ تک) تو خلافت راشدہ کا زمانہ تھا۔“ (ماہنامہ طلوع اسلام اگست ۱۹۷۵ء)

سطور بالا میں امام عبد اللہ بن مبارکؓ کے مقصد کی جو وضاحت کی گئی ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد معلوم ہو گا کہ معاصر عزیز نے ہماری قبل فخر تاریخ پر مخالفین کی زبان سے جو اعتراض ان روایات سے اخذ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا منشاء موصوف کی خوش فہمی کے سوا کچھ نہیں اور یہ خوش فہمی اس لئے پیدا ہوئی کہ معاصر عزیز اپنے تجزیہ میں دو چیزوں کے درمیان امتیاز کرنا بھول گیا۔

پہلی چیز ہماری قبل فخر تاریخ اور اس کا صدر اول سے لے کر آج تک تسلیم ہے۔ اسلامی تاریخ کا آغاز آنحضرت ﷺ سے ہوا اور اس کی انتہا صحیمات پر ہو گی، اس میں ایک لمحہ کے لئے بھی کبھی انقطاع نہیں ہوا۔ رسول اللہ ﷺ کا لایا ہوا دین جس طرح کل زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ قرآن کریم اپنے الفاظ و معانی کے ساتھ جس طرح دور نبویؓ میں محفوظ تھا، آج بھی محفوظ ہے۔ آنحضرت ﷺ کے ارشادات طیبات جس طرح دور صحابہؓ میں محفوظ تھے، آج بھی محفوظ ہیں اور پورے کا پورا دین جس طرح صدر اول میں محفوظ تھا، اسی طرح آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک رہے گا۔

پھر اس دن پر عملہ و اعتماد اور حلال و حذوقاً عمل کرنے والوں کا ایک جم غیر بھی ہر زمانے میں ہمیشہ موجود رہا ہے اور رہے گا، یہ ہے ہماری قبل فخر تاریخ جس کی

ناظر دنیا کی کوئی قوم نہیں پیش کر سکتی اور نہ قیامت تک کر سکے گی۔  
دوسری چیز ہے ہماری قابل فخر تاریخ کے بعض حصوں کا دوسرا بعض حصوں  
سے مقابلی مطابع کرنا، اس سے نہ تو ہماری تاریخ داغدار ہوتی ہے اور نہ کسی مغرض کے  
لئے اس میں اعتراض کی گنجائش ہے۔ مثلاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا  
دور خلافت اپنی روحانیت و تلمذیت، خشیت و اخلاص اور زہد و تقویٰ کے اعتبار سے  
انسانی تاریخ کا ممتاز ترین دور تھا، لیکن صدیقؓ دور کا مقابلہ آنحضرت ﷺ کے عہد  
مبادرک سے کریں تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا، اسی طرح حضرت عمرؓ اور حضرت  
عثمانؓ کا دور خلافت انسانیت کا تابناک دور ہے، لیکن اگر عہد فاروقی اور عہد عثمانی کا  
مقابلہ صدیقؓ دور سے کیا جائے تو وہی نسبت نظر آتی ہے جو صدیقؓ دور کو عہد نبویؐ سے  
تھی۔ الغرض جب ہر آنے والے دور کا مقابلہ گزشتہ دور سے کیا جائے گا تو ایسا نظر  
آئے گا کہ دور ثالثی، دور اول کے مقابلے میں کا العدم ہے۔ امام ابو حنفیؓ کے علم و زہد  
سے اگر شیخ ابن ہمامؓ کا مقابلہ کر کے یہ کہیں کہ ابن ہمام، ابو حنفیؓ کے مقابلے میں صفر  
ہیں تو اس سے کون عقل مند یہ نتیجہ اخذ کرنے بیٹھ جائے گا کہ ابن ہمام اسلام کی مایہ  
ناز شخصیت نہیں۔

اگر یہ کہا جائے کہ تابعینؓ کی پوری جماعت مل کر بھی کسی ادنی سے ادنی  
صحابیؓ کے فضل و کمال کا مقابلہ نہیں کر سکتی یا یہ کہا جائے کہ پوری انسانی تاریخ کے علماء  
فضلاء اور صلحاء جمع ہو کر بھی کسی نبیؓ کے فضل و کمال کی گرد تک کوئی پہنچ سکتے، تو کیا اس  
کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے ان تمام اکابر کے فضل و کمال کی تائی کر دی، یا یہ کہ وہ ہمارے  
لئے لاکن فخر نہیں ہیں۔

حضرت لمبیدؓ، حضرت عائشؓ، حضرت عبد اللہ بن عمرؓ اور امام زہریؓ وغیرہ

رضی اللہ عنہم نے اگر اپنے اپنے دور کے لوگوں کا اکابر صحابہؓ کے علم و عمل، یقین و  
ایمان، اور زہد و تقویٰ سے مقابلہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ آج لوگوں کو ان اکابر سے  
کوئی نسبت نہیں یا یہ کہ ان کے مقابلے میں آج کے لوگ کا العدم اور یقین ہیں تو اس  
سے کون داشمند وہ نتیجہ اخذ کرے گا جو ”معاصر عزیز“ کی خوش فہمی نے اخذ کرنے کی  
کوشش کی ہے۔

محض یہ کہ اسلامی تاریخ کا ہر دور اپنی جگہ لاکن صد فخر ہے اور دنیا کی کوئی  
قوم اس کی ناظر پیش نہیں کر سکتی، لیکن ہر دور کو اپنے مقابلے میں وہی نسبت ہے  
جو ذرے کو آفتاب کے ساتھ ہو سکتی ہے، یہی مضمون ہے حضرت انسؓ کے اس ارشاد کا  
کہ: ”وَمَا افْضَلَا إِيمَانًا حَتَّى الْكُرْنَاقْلُوْنَا۔“

اور یہ فرق جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا ہر صاحب بصیرت کو بدیکی طور پر محسوس  
ہوتا ہے۔ اس کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں، یا کہ سکتے ہیں جو ”معاصر عزیز“ کی  
طرح خوش فہمی کے حصار میں پناہ گزیں ہوں۔

(اسلامی سخن اور زندگی جوں ۱۹۷۵ء)

## ایک ناروا جسارت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى :

اخبارات ورسائل میں چرچا ہے کہ بالی وڈی ایک یہودی فلم ساز کمپنی مشرق  
قدیم کے تعاون سے لیجیا کے صحراؤں میں محمد رسول اللہ کے نام سے آنحضرت  
صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر فلم تیار کر رہی ہے۔

"آسمان را حق بود گر خوں بارد بر زمین"

ابنیں کی ذرعت ایک مدت سے اسلام کی جزیں کھوکھلی گرنے میں  
تدریخاً مصروف ہے۔

۱۔ سب سے پہلے انہوں نے مسلمانوں میں تصویر سازی کا رواج ڈالا اور رفتہ  
رفتہ مسلمانوں کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ اسلام میں باندار کی تصویر بنانا اور  
روکھنا نہ صرف حرام ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امت و  
چیلکار کا موجوب قرار دیا ہے۔

۲۔ پھر ایک تدریجی قدم اور انھلیا اور پرده فلم پر صرف ناٹک کو بے پرده کر  
کے مسلمانوں کی اسلامی غیرت اور انسانی حسن کو کچل ڈالا، کل تک جو حرکتیں  
بے حیائی اور بے نیتی کمالاتی تھیں آن وہ میں تندیب و شرافت تصویر کی جانے  
لگیں اور ناچنے گانے کو ایک "شریفان فن" تصور کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جب شرم

و حیاء کا جائزہ نکل جائے، فوایش و معاوی سے نفرت کرنے والی حس ہی ختم ہو  
جائے تو انسان اور چوپائے کے درمیان کیا فرق رہ جاتا ہے۔

۳۔ اس کے بعد اسلام کے شعائر کے تفریغ و تمثاشا کا ذریعہ بنایا گیا اور "حج فلم"  
تیار کی گئی۔ یہ خطرہ کی پہلی گھنی تھی کہ اب اسلام کی کوئی چیز ان درندوں کی  
وستبرد سے محفوظ نہیں رہے گی۔

۴۔ پھر ایک اور قدم انھلیا اور "نجی اسلام" کے نام سے صحابہ کرام کی  
شخصیتوں کو لہو و لعب کا نشانہ بنایا گیا اور اس کی افادت پر نام نہاد مفتیان کرام کے  
نحو سے حاصل کئے گئے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ فتنے کا یہ طوفان کناروں  
سے اچھل پڑا ہے اور اب براہ راست ذات اقدس نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم)  
اس طوفان کی نزد میں ہے۔ مگر افسوس کہ مسلمانوں کی بے حسی نے اس پر بھی  
انگزائی تھی۔

۵۔ بالآخر وہ روز بہ آہی گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس  
کو ایکٹروں اور ایکٹروں کے ٹھیکنے اور ناچنے کا تجھہ مشق بنایا گیا اور یہودی و  
سامراجی اپنے گھناؤ نے منصوبے میں کامیاب ہو گئے۔

۶۔ اور اس کے بعد اب منتظر ہنا چاہئے کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کی ذات کو بھی  
پرده فلم پر لایا جائے گا اور مسلمان خدا اور فرشتوں کی قلمیں دیکھ و دیکھ کر ایمان کو  
تازہ اور معرفت باللہ کی ممتاز طے کیا کریں گے۔ اتف ہے ہماری زندگی پر، اور  
حیف ہے ہماری مسلمانی پر ہمارے جیتے جی کفر کو یہ جرات ہوئی کہ ملعون یہودی  
ہماری آنکھوں کے سامنے تدویسوں کے امام حضرت ختمی ماب صلی اللہ علیہ  
وسلم کی ذات مطہر و مقدس کو اپنے نیا ک حربوں کا نشانہ بنارہے ہیں، کاش! دلیل

بیوری کا اخباری بیان ہے جو روزنامہ جگ گرایی ۱۵ مئی ۱۹۷۵ء کی اشاعت میں  
شائع ہوا۔

تیرا مضمون حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا کاندھلوی مدظلہ العالی  
کے طویل مکتب گرامی کا خلاصہ ہے جو حضرت نے مدینہ طیبہ سے مولانا  
بنوی مدظلہ کے نام ارسال فرمایا ہے:  
ذیل میں ترتیب وار تینوں مضامین پیش خدمت ہیں:

## مسلمانو! متحد ہو جاؤ

ناموس رسالت کے خلاف یہودی سازش اور میں الاقوامی گھن جوڑ...!  
برادران اسلام! ناموس رسالت کی خاطر کٹ مرنے کا وقت آگیا ہے۔  
عالم اسلام کے خلاف یہودی سازشیں بے نقاب ہو گئی ہیں۔ عرصہ دراز سے  
یہودی اپنی مذموم سازش کے تحت خاتم المرسلین کی ذات اندرس میں گستاخی کی  
جسارت کر کے حیات طیبہ کو فلمانے کی کوشش میں سرگرم عمل تھے چنانچہ ان  
ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لئے اب یہودیوں کے ساتھ رومن بھارت،  
امریکہ اور اٹلی نے گھن جوڑ کر کے ہالی وڈ کے صد ایکٹر اور ایکٹرسوں کے ذریعے  
صغریں بیبا میں "محمد رسول اللہ" کے نام سے دس ملین ڈالر کی لاگت سے ۱۸ زبانوں  
میں فلم تیار کر رہے ہیں بلکہ قریب الاختتام ہے۔ یاد رہے کہ ہالی وڈ کے یہ ایکٹر  
اور ایکٹر سیں صحابہ اور صحابیات کا کروار ادا کریں گے، اسرائیلی وزیر خارجہ نے  
بہت پہلے یہ انکشاف کیا تھا کہ جس طرح "ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فلم

یہودیوں کے ہاتھوں ذیل ہونے کے لئے ہم دنیا میں زندہ نہ ہوتے، کاش اس  
مخوس دن سے پہلے ہم مر گئے ہوتے۔

کاٹکے کہ مادر نے زادے مر مرما  
با ہرا شیرے بخور دے در چڑا  
بے نادینی رویدہ ام  
مرا اے کاٹکے مادر نزارے

بہر حال ہماری ذلت و رسوانی ہماری بد بختنی و شقائق اور ہماری محنت و  
بد حلل کے لئے یہ دل غریبائی کافی ہے کہ ہماری زندگی میں یہودیوں کا نیا کپ باتھ  
محسن انسانیت کے دامن مقدس تک پہنچ چکا ہے اور فلم "محمد رسول اللہ" یہودی  
ایکٹرسوں اور ایکٹرسوں نے سنابے کہ قرباً تیار کر لی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم  
مرنے کے بعد حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے  
جب آپ یہ ارشاد فرمائیں گے کہ: او اسلام کو پدنام کرنے والو! تم نے وہ ہاتھ  
کیوں ن توڑا لے جئوں نے میرے دامن تک پہنچ، کی جرات کی تھی؟۔

پس چہ باید کرو؟

اب اس مصیبت عظیمی کا معلم ان یہی ہو سکتا ہے کہ یہ گندی فلم جمال بنی  
ہے وہیں دفن ہو جائے۔ اس سلسلے میں، میں پہلے اکابر کے تین مضامین لفظ کرتا  
ہوں۔ اور اس کے بعد ان کی روشنی میں میں اپنی تجویز عرض کروں گا۔

پسلا مضمون "انجمن اصلاح المسلمين" ہوتی مردان" کا اشتمار ہے۔

دو سرا مضمون مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کرایجی اور مولانا سید محمد یوسف

بنا کر یہ مسائیوں کے دل سے حضرت عیسیٰ کی عظمت نکال دی ہے اسی طرح محمد پر فلم بنا کر کمزور مسلمانوں کے دلوں اور دماغوں سے خدا کو نکالنا چاہتے ہیں۔ لیکن گندے یہودی شاید اس حقیقت سے نا آشنا ہیں کہ ہم، آخر الزمان اور قرآن کی حفاظت کا مذہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔

مسلمانوں! اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا کرو کھانے کے لئے میدان عمل میں کوڈ پڑو اور اس کرنی آزمائش سے سرفراز نکلنے کے لئے ناموس رسالت کی خاطر تن من دھن کی بازی لگاؤ، دنیا بھر کے مسلمانوں نے عمد کر رکھا ہے کہ ہم یہودی مکرو فریب کا خاتمہ کر کے دم لیں گے اور جس سینما میں بھی اس فلم کی نمائش کی جائے گی اس کو جلا کر راکھ کر دیں گے اور اس کے مالک بھی صفحہ ہستی سے مت جائیں گے۔ اس سلسلے میں مسلمانان ہوتی مردان کے علماء اور معززین نے ایک جامع پروگرام کے تحت ۱۹۷۵ء یہ روز بیرونی وقت ۷ بجے صبح جامع مسجد فردوس خل میں ناموس رسالت کی حفاظت کے نام سے ایک عظیم الشان "جلد عام" کا اعلان کیا ہے جس میں جید علماء کرام، یہودی اور سامراجی سازشوں کو بے نقاب کریں گے۔ جلد عام کے بعد اب اجازت انتظامیہ ایک اجتماعی جلسہ نکالا جائے گا ہو ڈپٹی کمشٹر مردان کے دفتر پر ختم ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کرے گا یاد رہے کہ اس جلد عام میں آئندہ کے لئے مروٹ لاکھ عمل بھی تیار ہو گا اور تاریخ مقرر کر کے اسلام آباد میں یہاں کے سفر کے پاس بسوں میں جلوں کی شکل میں جا کر اسلامیان پاکستان کے جذبات سے ان کو آگاہ کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسے وہ لوگ انجیز جذبے کا مظاہرہ ہو گا جو مال و جان کی قربانی کا عمدہ ماضی تازہ کروے گا:

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں  
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

نوٹ : تمام علماء کرام اور خطیب حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس اشتمار کو خطبہ جمعہ کے موقع پر بیان کریں اور عامۃ المسلمين کو یہودیوں کی سازشوں سے آگاہ کریں اور ظلم کے خلاف ہونے والے ہر اقدام کا ساتھ دینے کے لئے تیار کریں۔

(۱۔ ب اعلان امسیوں اہمیتی مردان)

۲

سیرت طیبہ پر فلم کی نمائش امت مسلمہ برداشت نہیں کر سکی  
اس اسلام دشمن سازش کو ناکام بنایا جائے عالم اسلام سے مفتی شفیع  
اور مولانا بنوری کی اپیل

کراچی ۱۳۴۵ء میں اساف رپورٹ) حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ص ردار العلوم کراچی اور حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب مفتی مسلم مدرسہ عربیہ نیو ٹاؤن کراچی نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ بعض ملکی و غیر ملکی اخبارات سے معلوم ہوا ہے کہ ہلی وڈی ایک فلم ساز کپنی محمد رسول اللہ کے نام سے سیرت طیبہ پر فلم بنانے کی شرمناک، اشتعال انگیز اور دل آزار منسوبے پر مسئلہ عمل کر رہی ہے اور عالم اسلام کے شدید احتجاج کے باوجود یہ فلم اب تک تحریک کے قریب پہنچ چکی ہے مغربی ممالک کی کپنیاں عرصہ دراز سے اس قسم کی دل آزار کو شیش کرتی رہی ہیں، لیکن اب تک مسلمانوں کی طرف سے شدید رد عمل کی بناء پر انہیں اس پاک منسوبے پر عمل کی جرأت نہیں ہوئی تھی۔ اب یہاں کی حکومت نے اپنی سادہ اوجی سے اپنے ملک میں اس فلم کی شوٹنگ کی اجازت دے کر ان کے وسائلے پر ہادیے ہیں، حالانکہ دنیا بھر کے اہل علم اور حساس مسلمانوں نے اس فلم کے خلاف اپنے فم و غصہ کا اظہار کیا ہے۔ اس سلسلے میں رابطہ عالم

اسلامی مصر کی مجمع البحوث الاسلامیہ جامعہ ازہر، شیخ الازہر، مدینہ منورہ کے شیخ الجامعہ اور پاکستان کی وزارت مذہبی امور کے بیانات کے احتجاجی مراحلے شائع ہو چکے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ اس فلم میں ایک غیر مسلم ایکٹر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ متعدد ایکٹر سس مختلف صحابیات کے روپ میں پیش کی جا رہی ہیں اور اس میں رقص کے مظاہرے کے لئے ایک اسرائیلی رقصہ کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، امریکہ بھارت اٹلی اور اسرائیل نے اس فلم سازی کی عملی حوصلہ افزائی کی ہے اور اس طرح دنیا بھر کے اسلام و شمن حلقة اس جگہ سوز جسارت پر گھنی کے چراغ جلا رہے ہیں۔ سختے میں آیا ہے کہ لیبا حکومت کے سامنے اس فلم کا جواز پیدا کرنے کے لئے تبلیغ اسلام کا مفعہ خیز بہانہ پیش کیا گیا ہے لیکن جو لوگ یہ بہانہ پیش کرتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں وہ اسلام کی روح اور مزاج سے بالکل بے خبر ہیں۔ اول تو ایسی شرمناک اور بیباک فلم کو تبلیغ اسلام کا ذریعہ سمجھنا ایک انفوسناک مذاق کے سوا کچھ نہیں، دوسرے اسلام زندگی کے ہر شعبے کی طرح تبلیغ کے بھی کچھ اصول و آداب رکھتا ہے اور اس اصول کا مختت سے مخالف ہے کہ اپنے ہمتو اؤں کی تعداد بڑھانے کے لئے ہر بر احتلا طریقہ اختیار کرنا جائز ہے اور اس مقصد کے لئے اپنے مقدس اکابر کی عظمت و تقدس اور اپنے دوسرے بنیادی اصولوں کو بھی قربان کیا جاسکتا ہے۔

ہم دنیا بھر کے مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس دشمن اسلام منصوبے کو خاک میں ملانے کے لئے کریستہ ہو جائیں اور جو لوگ اس منصوبے پر عمل پیرا ہیں ان پر یہ ثابت کر دیں کہ امت مسلمہ اس بیباک فلم کی نمائش کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کرے گی۔ اس سلسلے میں حکومت پاکستان نے جو اقدامات کئے ہیں وہ مسلمانوں کے جذبات کی صحیح ترجیحی پر مشتمل ہیں اور اس مسئلہ کو وزراء

خارجہ کی کافرنیس میں پیش کرنے کا عزم بھی اطمینان بخش ہے، لیکن چونکہ اس کافرنیس میں ابھی دیر ہے اس لئے اس منصوبے کے ذمہ داروں سے براہ راست رابطہ قائم کر کے انہیں اس سے باز رکھنے کی کوشش بلا تاخیر ہوئی چاہئے نیز "ہر اسلام" نامی فلم پر آئندہ مستقل طور پر پامنڈی عائد کرنی چاہئے جو اس نیا اک منصوبے کا پہلا آزمائشی قدم تھا اور جس کی شہ پا کر فلم کپنیوں کو اس نوع کی دوسری فلمیں تیار کرنے کی گرفتاری ہوئی ہے۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ فلم کے ذمہ داروں کی طرف سے یہ یقین دہانی بالکل ناکافی ہے کہ فلم کا نام بد جائے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کی شبیہ فلم میں نہیں آئے گی۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ سیرت طیبہ کا کوئی بھی حصہ فلمانا اور کسی بھی صحابی یا کسی بھی مقدس اور ترمذی تابعیت کو فلم کے پردے پر پیش کرنا مسلمانوں کی شدید دل آزاری اور اسلام کی بے حرمتی کا موجب ہے۔ اس تھم کے ہر اقدام کی جزا کا نے بغیر مسلمانوں کا مطالبہ پورا نہیں ہو گا۔

(روزگار جنت کرایتی ۱۹۷۵ء)

### ۳

کرم و تجزم مولانا الحاج محمد یوسف صاحب بنوری اطہل اللہ بقاء کم بالصححة والفراغ لحمدۃ الدین ولشاعة حديثہ بعد سلام مسنون۔

آج ۲۱ مئی کو ظهر کی نماز کے بعد مولوی انعام کریم صاحب نے پاکستان سے آیا ہوا ایک اشتخاریہ کملانکر بھیجا کہ دیکھ کرو اپس کر دیجیو۔ وہ اشتخاریہ میں نے سناؤر رکھوادیا (یہ وہی اشتخار ہے جو اپر نمبر میں نقل کر جکا ہوں۔ محمد یوسف) اس کے بعد میں نے عزیز الرحمن سے کہا کہ اس کی دس بارہ فونو کا پیاس چاہیکیں،

نکاک احباب کو ہندوپاک میں بھیجا جائے اور وہ اپنی اپنی مجالس میں اپنے اپنے مشوروں سے کوئی موثر تدبیر اختیار کریں، اور پچھلے حضرت نظام الدین اور شیخ انصاب رائے و نذر آج کل جمع ہیں عشاء کے بعد جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ اس کے بارے میں اپنے اپنے مشورے اور تجویزیں پیش کرو۔ اتفاق رائے سے یہ تو سبھی نے کہا کہ لیبیا میں آپ کا (مولانا بنوری بد نظرہ کا) اور مفتی محمود صاحب کا نوام و خواص میں بست اثر و رسوخ ہے۔ اس لئے سب سے اول توجہ بے اور مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ اس بارے میں مشورہ کر کے کوئی موثر قدم اٹھائیں۔ مناسب ہو تو اس اشتخار کی فونو میرن درخواست اور اپنی تائید کے ساتھ مفتی محمود صاحب اور جو حضرات اس میں بامدے سکتے ہوں ان کو ضرور بھجوائیں، آپ مجلس عمل کے صدر ہیں اس لئے مجلس عمل کی ۲۱ جماعتیں کی طرف سے آواز اٹھائیں، اور جن لوگوں کے متعلق خیال ہو کہ جناب کی تحریر کے بجائے میرا معروفہ ان پر اثر کرے گا تو اس کے ذریعہ ان حضرات سے بھی کملوائیں۔ والسلام۔

(حضرت شیخ اللہ بن نکارہ، تتمہ، عبد الرزیق)

۶۱۔ دے ۱۹۔ لے ۱۷۔ لے ۱۴۔

اکابر کی آراء و تباویں آپ کے سامنے آچکی ہیں۔ میں اس سلسلہ میں سرفہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ مطلقی دلالت و بر اپنی کامیں بلکہ عشق و محبت اور عقیدت و عظمت کا ہے۔ کوئی اس کی نام نہاد افادیت پر ہزاروں دلالت دیج رہت گرہم اسے پر کاہ کی حیثیت نہیں دیں گے۔ اس موقع پر جو فریضہ امت مسلمہ پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ:

- ۱۔ اس پاک یہودی منصوبے کے خلاف مسلمانوں کا پچھ پچھ سرلا احتجاج بن جائے کوئی مسلمان چین سے نہ بیٹھے جب تک کہ یہ منصوبہ دفن نہ ہو جائے۔
  - ۲۔ لیبیا کے مشرقدانی اور دیگر عوام دین کے نام احتجاجی تاریخیجے جائیں۔
  - ۳۔ مساجد میں قراردادوں پاس کر کے اپنی حکومت اور عالم اسلام کی ممتاز شخصیتوں کو بھیجی جائیں۔
  - ۴۔ احتجاج کے لئے جلسے کئے جائیں اور ان میں قراردادوں پاس کر کے بھیجی جائیں۔
  - ۵۔ مسلمانوں کے وفد لیبیا کے عزت مآب سفیر سے ملاقات کر کے انہیں اپنے جذبات سے آگاہ کریں۔
  - ۶۔ تمام عالمی تنظیموں کو اس سازش کے نتائج سے آگاہ کیا جائے۔
  - ۷۔ ہر ملک کی وینی و سیاسی جماعتوں اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔
  - ۸۔ تمام مسلمان، خصوصاً اسلامی حکومتیں مشرقدانی پر واضح کر دیں کہ انہوں نے اس یہودی سازش کو دفن نہ کیا تو یہن الامالی سطح پر ان کی شخصیت محروم ہو کر رہ جائے گی اور وہ عالم اسلام سے تumarہ جائیں گے۔
  - ۹۔ اور سب سے آخری عمد، ۱) جمن اصلاح المسلمين ہوتی، مردان کے الفاظ میں یہ ہے کہ:
- ”ہم اس یہودی مکروہ فریب کا خاتمه کر کے دم لیں گے اور جس سینما میں بھی اس فلم کی نمائش کی جائے گی، اس کو جلا کر

راکھ کر دیں گے، اور اس کے مالک بھی صفحہ ہستی سے مت  
جا سیں گے۔

الغرض دنیا بھر کے مسلمانوں کو تحد ہو کر یہ تیہہ کرنا ہے کہ یا ہم نہیں  
ہوں گے یا اس گندی فلم کی نمائش نہیں ہوگی۔ ملعون یہودی، آنحضرت صلی اللہ  
علیہ وسلم کے خلاف ساری دنیا میں سازشی تحریک چلا رہے ہیں مسلمانوں کا فرض  
ہے کہ اس کے دفاع و جواب میں وہ بھی عالمی تحریک چلا میں اور ذریت الہیں  
کے اس نیاپاک منصوبہ کو خاک میں ملا کر رکھ دیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم کی عزت و حرمت یہودیوں کے ہاتھ سے محفوظ نہ رہی تو ہماری زندگی،  
 زندگی نہیں، ایک لعنت ہوگی، کیا "اسی کروڑ" مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ  
 وسلم کے دامنِ عصمت کو یہودی سازشوں سے بچانے کے لئے آگے بڑھیں  
 گے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کا جواب ہم نے اپنے کردار و عمل اور  
(ضورت ہوتے) اپنے خون سے صفحہ ہستی پر رقم کرنا ہے۔

(اسلامی صفحہ اور زمانہ جگ گر اپنی جولائی ۱۹۷۵)

## معاشرتی فتنوں کے خلاف جہاد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

یہ ایک فطری اصول ہے کہ کسی قوم کے عروج و ترقی کی رفتار تو ہستی اور  
ست ہوتی ہے، مگر اس کے زوال اور گراوٹ کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے، کسی بلند و بالا  
عمرت پر چڑھنا کتنا مشکل ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص جذبات سے مغلوب ہو کر خودکشی  
کے ارادے سے ایسی عمارت کے اوپر سے چھلانگ لگادے تو دیکھئے کتنی تیزی سے  
گرے گا، یہی مثال قوموں کی ہے، ان کا عروج اور ترقی کی بلندیوں کو چھوٹا بڑی  
جنگاکشی، محنت اور بڑے حوصلے اور صبر و تحمل کو چاہتا ہے، لیکن جب کوئی قوم اخلاقی  
خودکشی کی نیت سے اپنے اعلیٰ و ارفع مقام سے نیچے کو چھلانگ لگاتی ہے تو بغیر کسی  
کوشش و محنت کے وھرام سے نیچے آگرتی ہے۔

اگر کبھی پھرے ہوئے سیالب کا بند نہ ہو جائے اور اس کا رخ کسی نیشی  
علاتے کی طرف مرجائے تو وہ پلک جھکنے کی مہلت بھی نہیں دیتا اور بستیوں کی بستیاں  
بھالے جاتا ہے اسی طرح جب کسی قوم کی اخلاقیات کا بند نہ ہو جاتا ہے تو اس کی  
لفیاقی خواہشات کا طوفان دین و داش اور شرافت اور انسانیت کی تمام قدریوں کو بھا  
کر لے جاتا ہے۔ پورے معاشرہ کو تلپٹ کر دیتا ہے، ہر طرف بناہی و بر بادی مچا دیتا

ہے معاشرے کا امن و سکون چھن جاتا ہے اور خود غرضی و ہوتا کی اور ظلم و ستم کی کالی گھٹائیں ہر چار سو چھا جاتی ہیں، اور پھر وہ معاشرہ متدن انسانوں کے بجائے دشی درندوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

ہماری مسلم قوم صدیوں کی محنت و مجاہدہ کے بعد عروج و ترقی کی بلندیوں کو پہنچی، اور ایسی پہنچی کہ آسمان کی رفتیں اس کے سامنے پیچ رہ گئیں، انسان ہی نہیں بلکہ ملائکہ بھی اس پر رشک کرتے تھے، اس کے نظم و ضبط اتحاد و اتفاق اور الافت و محبت پر دنیا کی قویں عشق عش کرتی تھیں، مگر کچھ عرصے سے اس پر تقلید اغیر کا جنوںی دورہ پڑا ہے اور خود کشی کے ارادے سے اس نے بلندیوں سے پیچے کی طرف چلا گکا لانا شروع کر دی ہے، اس کی اخلاقیات کا بندوقٹ رہا ہے ہمارے معاشرے میں اخلاقی گراوٹ کا سیلا ب جس تیزی سے بڑھ رہا ہے اس کے انعام کے تصور سے روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کل تک جو چیزیں ایک مسلمان کے لئے قابل شرم اور موجب تک و عار تھیں آج ان پر فخر ہو رہا ہے، باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے نالاں ہے، بھائی بھائی سے شاکی ہے، دوست کو دوست پر اعتقاد نہیں، استاد کو شاگردوں سے شکایت ہے، مزدور کو مالک سے رخ ہے، عوام کو افسرشاہی سے گلہ ہے، راغی اور رعایا کے درمیان سر پھٹوں ہے، پورا معاشرہ گویا ایک ایسا آنکھدہ ہے جس میں بڑا چھوٹا، امیر، غریب، راغی، رعایا، مالک اور مزدور سب جل رہے ہیں، چوری، دُکیتی، فاشی، بدکاری، رشو، سفارش، اسمگنگ، ذخیرہ انزوی، زربی ایسے سیکڑوں جن سرکوں پر عربیان ناج رہے ہیں، معاشرتی ناسور کے لفڑی سے قوم کی ناک میں دم ہے، نہ جان کی امان، نہ عزت و آبرو کی حفاظت، نہ عدل، نہ انصاف، نہ علم، نہ عمل، دین تباہ، دنیا تباہ، عقليں سخ، شکلیں سخ، لا الہ الا اللہ راجعون۔

مزید افسوس یہ کہ ہمارے دانشوروں کو گراوٹ کا احساس نہیں۔ جنہیں احساس ہے انہیں اصلاح کی فکر نہیں، جنہیں فکر ہے کہ ایسیں سیلہ نہیں، جنہیں سیلہ نہیں

انہیں قدرت نہیں، جنہیں قدرت ہے انہیں فرصت نہیں، جنہیں فرصت ہے انہیں توفیق نہیں، طوفان خطرے کے نشان سے اوپر گزر رہا ہے مگر ہم کوئی حال مت، کوئی قال مت کا مصدقہ نہیں۔ روم جل رہا ہے اور تیر و بانسری بجارتہ ہے، ہمارے سامنے ہمارا گھرٹ رہا ہے مگر ہم بڑےطمیان سے اس کے لئے کا تمثاشا دیکھ رہے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اس خیال میں مگن ہے کہ یہ بستی اجرتی ہے تو اجزے، میرا مگر محفوظ ہے، قوم ڈوہتی ہے تو ڈوبے میں جودی پیپار کھڑا ہوں، ملک و ملت کی چولیں ہتی ہیں تو ہیں، میرا دھندا چل رہا ہے:

کیا زمانے میں پنپنے کی بھی باتیں ہیں؟

میری گزارش یہ ہے کہ اے در دمداد ان قوم! اے اہل عقل و دانش! خدا کے لئے اٹھو! اور اس ڈوہتی ہوئی قوم کو بچاؤ، اپنے گھر میں لگی ہوئی یہ آگ بجھاؤ، یہ قوم جنون کے دورہ میں اخلاقی خود کشی کر رہی ہے، اس کا ہاتھ پکڑو، قوم کی اخلاقیات کا بند ٹوٹ رہا ہے، آؤ سب مل جل کر اس کی حفاظت کرو، اس مقصد کے لئے کوئی بڑی سے بڑی قربانی دینا پڑے تو قوم کو بچانے کے لئے دے ڈالو، اس سلسلے میں ہمیں جن میدانوں میں جہاد کرنا ہے اپنی ناقص فہم کے مطابق ان کا نقشہ پیش کرتا ہوں۔

معاشی ناہمواری کے خلاف جہاد:

قدیمتی سے ہمارے یہاں یہودیوں کا سرمایہ دار اہم نظام راجح ہے جس کی بنیادیں سودی بینکاری، جواہ، سٹہ اور ناجائز کاروبار پر استوار ہیں۔ اس نے معاشرے میں ناہمواری کی بھیاںکٹ ٹھکل پیدا کر دی ہے جس سے غریب و نادار اور پسمندہ طبقے میں تحول اور کھاتے پیتے لوگوں کے خلاف نفرت و بیزاری کی لہر اٹھ رہی ہے، غنیمہ و غصب اور حسد و رقبابت کے جذبات ابھر رہے ہیں اور غریب طبقہ کے فقر و افلاس سے بیسوں معاشرتی برائیوں کے سوتے پھوٹ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت حال

کی اصلاح شکی گئی تو ان خرابیوں میں روز افروں اضافہ ہوتا جائے گا بے چینی بڑھتے بڑھتے لا قانونیت میں ڈھلتی جائے گی، بالآخر خستہ حال جھوپیریوں سے اٹھنے والے نفرت و بیزاری کے شعلے ملک بوس عمارتوں، وسیع و عریض بگلوں اور اوپنے اوپنے شیش مخلوں کو جلا کر خاکستر کر دیں گے (خدا اس قوم کو یہ دن نہ دکھائے، آمین)۔

یہ معاشی ناہمواری ہمارے معاشرے میں "ام الامراض" کی حیثیت رکھتی ہے، اور شیطانی شکر اسی راستے سے گزر کر ہمارے معاشرے پر شب خون مار رہا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسی رستے کو بند کیا جائے، اور سب سے اول اسی مردش کا علاج کیا جائے، اس کا کافی و شافی نوح حکیم انسانیت علیقہ پہلے سے تجویز فرمائے گئے ہیں، ہمیں صرف استعمال کرنے کی زحمت اٹھانا ہوگی۔

ہونا یہ چاہئے کہ محلہ محلہ اور بستی بستی میں کچھ مخلص بے لوث اور درد مند حضرات آگے بڑھیں، اور ضرور مندوں لوگوں کی کفالت اور خبرگیری کی تحریک چلا میں ان کے پاس اپنے اپنے محلہ اور اپنی اپنی بستی کے پسمندہ افراد اور گھرانوں کی فہرستیں ہوں، محلہ کے کھاتے پیتے حضرات سے عطیات حاصل کر کے ضرورت مندوں تک پہنچائیں (اور اگر کوئی صاحب ان کے پاس عطا یعنی کرانے میں تالیم کرے تو اسے مستحقین کی نشاندہی کر دی جائے تاکہ وہ خود ان تک پہنچا دے) کسی خاندان کو معاشی سہارا دے کر اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جاسکتا ہو تو اس میں اس کی مدد کی جائے، محلہ میں کوئی نوجوان بیکار ہواں کے لئے روزگار مہیا کرنے میں مدد دی جائے، کسی گھر میں نوجوان بیٹی ماں باپ کی ناداری کی وجہ سے بیٹھی ہو تو اس کے ہاتھ پہلے کرنے کا انتقام کیا جائے، کسی کو سرچھانے کے لئے مکان کی ضرورت ہو تو مل جل کر مکان بنوادیا جائے، کوئی علاج سے محروم ہو تو اس کے علاج معاملہ کا بندوبست کیا جائے، کسی کے پچے تعلیم سے محروم ہوں تو ان کے لئے تعلیمی مصارف مہیا کئے جائیں، الغرض ملک بھر میں کوئی بستی، کوئی محلہ اور کوئی کوچہ ایسا نہ رہے جس میں ایک تنفس کو بھی

خوارک، پوشک، مکان، تعلیم اور علاج جیسی بنیادی ضروریات میسر نہ ہوں، ہر بھتی کے لوگوں کا یہ عہد ہو کہ بھوکے رہیں گے تو اکٹھے، سیر ہوں گے تو اکٹھے، مریں گے تو اکٹھے، جنیں گے تو اکٹھے۔

**کھا۔ تے پیتے** متمويل حضرات اس میں دل کھوں کر حصہ لیں خواہ انہیں اپنی ضروریات اور مدارف کو کم کرنا پڑے، یہ صحیح اسلامی معاشرہ کا نقشہ ہے جس کا سنگ بنیاد حضور اکرم ﷺ نے مدینہ طیبہ میں رکھا تھا۔ آپ ﷺ کا ارشاد تھا کہ "وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا رہے۔" اس سے غریب لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہوں گی، ان کو معاشی میدان میں خود کفیل ہونے کا موقع بھی میر آئے گا، امیر و غریب کے درمیان نفرت و بیزاری کی جودو یا وار حاکل ہے وہ بھی نوٹ جائے گی۔ آپس میں ہمدردی و عنخواری، انس و محبت اور عزت و احترام کے جذبات ابھریں گے، اور معاشرہ ایک بہت بڑے طوفان فساد سے محفوظ ہو جائے گا، اس تجویز پر عمل کیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد معاشرہ میں ایسا انقلاب آجائے گا کہ کوئی شخص مشکل ہی سے زکوٰۃ کا مستحق رہے گا، یہ کام حکومت کو کرنا چاہئے تھا لیکن اگر وہ اس میں کوتا ہی کرتی ہے تو (جیسا کہ اوپر عرض کرچکا ہوں) مخلص مسلمانوں کو خود آگے بڑھ کر یہ کام کرنا چاہئے، ان کا مقصد نہ شہرت و نعمود ہو، نہ عزت و وجہت، نہ دوست اور سیاست، نہ مال و زر کی منفعت۔ محض خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور قوم کی کشتی کو بخونر سے نکالنے کے لئے اپنی ساری بدھی و ہنسی صلاحیتیں داؤ پر لگا دیں۔

### مقدمہ بازی کے خلاف جہاد:

جب خواہیں آپس میں نکراتی ہیں تو نتیجہ لڑائی جھٹکے اور دنگا فساد کی شکل میں نکلتا ہے اور پھر معمولی معمولی باتوں پر تھانوں اور عدالتوں کے چکر کا نہ ہمارے

معاشرے کا روز مرہ معمول بن گیا ہے۔ اس مقدمہ بازی سے آپس میں مستقل عداویں جنم لیتی ہیں، رشتہ کا بازار گرم ہوتا ہے، جھوٹی شہادتوں اور غلط بیانوں کا سکر چلا ہے جس سے روپیہ اور وقت بھی برباد ہوتا ہے، دین اور اخلاق بھی گلرتا ہے اور عدل و انصاف کی تدریں پامال ہوتی ہیں، الغرض مقدمہ بازی میں نہ دین کا فائدہ ہے اور نہ دنیا کا۔ اگر بستی، محلہ کے چند ذہنیم، انصاف پسند اور دیانت دار حضرات مل کر فریقین کو سمجھا بجھا کر صلح صفائی کر دیا کریں تو شاذ و نادر ہی عدالت تک جانے کی نوبت آئے گی، اور مقدمہ بازی کی جس لعنت اور دردناک عذاب میں آج ہمارا معاشرہ پیک رہا ہے اس سے ہمیں نجات مل جائے گی۔

سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مجھے مدینہ طیبہ کا قاضی (نج) مقرر کر دیا میں ہر صحیح مسجد نبویؐ کے دروازے پر جای میختا (اس وقت مسجد ہی مسلمانوں کا ہائی کورٹ تھی) چھ مہینے اسی حالت میں گزر گئے، اس عرصہ میں کوئی سے دو آدمی میرے پاس ایک درہم کا مقدمہ لے کر بھی نہیں آئے، یہ ہے صحیح اسلامی معاشرہ کی تصوری، جس معاشرہ میں ہر انسان دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو اس میں مقدمہ بازی کی نوبت کیوں آئے گی، اور اگر بشریت کی بنا پر دو بھائیوں کے درمیان کوئی جھگڑا یا تخلف پیدا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح صفائی کر دیا ضروری ہے۔ یہ کام بھی بستی اور محلے محلے ہونا چاہئے، درود مندان قوم کو اس سے ہرگز غفلت نہیں برتنی چاہئے۔

(ضمون اقراء روزنامہ جنگ کراچی ۹ مارچ ۱۹۷۸ء)

# حقوق و فرائض

## اسلام کی نظر میں

بسم اللہ الرحمن الرحيم

انسان کے اس دنیا میں قدم رکھتے ہی اس کے تعلقات بیان کے رہنے والوں سے قائم ہوجاتے ہیں، وہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھانجہ ہے، کسی کا بھیجا ہے، پھر یہی تعلقات اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے ہیں اور حقوق و فرائض کا ذریعہ بنتے ہیں، یعنی کچھ چیزوں اس کی دوسروں کے ذمہ لازم ہیں ان کو حقوق کہا جاتا ہے، اور کچھ چیزوں دوسروں کی اور عائد ہوتی ہیں، انہیں "فرائض" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اگر "حقوق و فرائض" کو تھیک تھیک ادا کیا جائے تو زندگی پر لطف اور خوشنگوار گزرتی ہے، ورنہ زندگی ایک بو جھ بن کر رہ جاتی ہے۔

دنیا کے ہر مہذب معاشرے میں حقوق و فرائض کا تصور پایا جاتا ہے مگر اسلام کے پیش کردہ حقوق و فرائض کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوم اور کوئی معاشرہ نہیں کر سکتا، اس لئے کہ دنیا کی سب قوموں نے اپنے اپنے تحریکات کی روشنی میں اپنی اپنی عقل و فہم کے مطابق حقوق و فرائض کے دائرے متعین کئے ہیں، انسانی تحریکات چونکہ ناقص ہیں اور پھر عقل کے ساتھ انسان کی ذاتی پسند و ناپسند کی آلاتیں گی ہوئی ہیں، اس لئے ان میں وقتاً اصلاح و ترمیم کی ضرورت پیش آتی ہے، آج جس چیز کو بڑے زور و شور سے "ہمیادی حق" ثابت کیا جاتا ہے، کل اسی شد و مدد سے اس کے خلاف تقریریں ہوتی

میں، ماں باپ کے ذمہ اولاد کے اور اولاد کے ذمہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں؟ شوہر پر بیوی کے اور بیوی پر شوہر کے کیا فرائض عائد ہوتے ہیں؟ رشتہ داروں کے آپس میں کیا حقوق ہیں؟ فرد اور معاشرہ کے باہمی حقوق کیا ہیں؟ اسلام کے سعادتیا کا کوئی مذہب، کوئی قانون اور کوئی سماج ان سوا لوں کا دلوںک اور واضح جواب نہیں دیتا، نہ دے سکتا ہے۔ اسلام چونکہ خدا نے حکم الہائیں کا نازل کیا ہوا دین ہے، جس کے علم سے کائنات کا کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں، جو انسانی فطرت کی تمام نزاکتوں سے واقف ہے، اور جس کے قانون حکمت میں کسی خواہش، جانب داری اور وقتی جذبات کی آمیزش نہیں، اس لئے اسلام نے حقوق و فرائض کا جو چارٹ پیش کیا ہے، وہ اس قدر جامع ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ اور کوئی گوشہ اس سے خارج نہیں، اور پھر وہ اس قدر معقول اور منصفانہ ہے کہ اس میں ایک رتنی برابر بھی ادھر ادھر جھکاؤ نہیں، اور پھر وہ اس قدر محکم ہے کہ دنیا جہاں کے سارے عقلاءں کر بھی اس پر کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اب ہماری کوتاه نظری اور کم نہیں کا کیا تباہی کہ ہم حقوق و فرائض کا کامسہ گدائی لے کر کبھی مغرب کا رخ کرتے ہیں اور کبھی مشرق کا، کبھی لندن سے سندلاتے ہیں، کبھی راسکو سے، ہم آئینہ میں کے طور پر ان لوگوں کے حوالے پیش کرتے ہیں جنہیں کبھی فعل جنابت کی بھی توفیق نہیں ہوئی، ہمارے سامنے ان لوگوں کا نمونہ آتا ہے جو اپنا پیشتاب خود پیتے ہیں، جن کی محبوب ترین خدا خنزیر، مردار اور چوبے ہیں، عقل و دانش سے کورسے، ایمان و یقین سے بے بہرہ ہیں اور صحیح انسانی اخلاق سے نا آشنا ہیں، مسلمان کے لئے یہ لوگ معياری انسان ہو سکتے ہیں؟

خبر یہ ایک خن گسترانہ بات تھی جو زبان قلم پر بے ساخت آگئی، کہنا یہ ہے کہ اسلام نے حقوق و فرائض کا جو دستور مسلمانوں کے حوالے کیا ہے دنیا کا کوئی قانون اس کی جامعیت، اس کی جماعتی، اس کی اعتدال پسندی اور اس کی اثراںدازی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اب اگر مسلمان اس سے خود جاہل ہوں، یا جان بوجھ کر عمل سے پسلوچی

کریں، تو اس میں قصور کس کا ہے؟

اسلام کے معین کردہ حقوق و فرائض کے سلسلے میں ایک اور اہم ترین نکتہ بھی پیش نظر رہنا چاہئے، آج آپ کے گروہ پیش حقوق طلبی کا غافلہ بلند ہے، ہر شخص اپنا حق مانگتا ہے، خواتین مردوں سے حقوق کی جگہ لڑتی ہیں، کسان مالکوں سے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے، مزدور کارخانہ داروں کے خلاف حق طلبی کا ماتم کرتا ہے، غرض جس طرف دیکھو حق حق کی صدائیں بلند ہیں، لطف یہ کہ ہر شخص وہ حق تو مانگتا ہے جو اس کا لوگوں کے ذمہ ہے، لیکن دوسروں کا جو حق خود اس کے ذمہ ہے اس کے ادا کرنے سے بے پرواہ ہے۔

اب ذرا سوچئے کہ جس معاشرہ میں ہر فرد اپنا حق مانگنے کے لئے تو خم ٹھوک کر میدان میں نکل آئے، مگر دوسروں کے جو حقوق و فرائض اس کے ذمہ واجب الادا ہیں ان کے ادا کرنے والا ایک بھی نہ ہو تو کیا ایسے معاشرے میں امن قائم ہو سکتا ہے؟ اور کیا کسی فرد کو بھی اس کا صحیح اور منصفانہ حق مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا! بلکہ ہو گا یہ کہ کسی کا زور چلے گا تو اپنے جائز حق سے بھی زیادہ اڑا لے جائے گا اور کوئی شخص کمزور ہو گا تو ایسا یا رگڑتا رہ جائے گا، اس کی نہ کوئی داد ہو گی نہ فریاد، یوں پورا معاشرہ دھاندی اور لوٹ کھسوٹ کی پیٹ میں آجائے گا۔

آج کی بے خدا تہذیبوں نے دنیا کو بھی پیٹ پڑھائی ہے کہ ہر شخص اور ہر طبقہ اپنے حق کا نعروںگائے اور زور زبردستی سے جو کچھ کسی کے ہاتھ آئے چھین کر لے جائے، نہ ملے تو کارخانے جلا دے، اکھاڑ پچھاڑ کرے، امن و امان تباہ کر دا لے، آج دنیا میں حق طلبی کی یہ جگہ ہر جگہ برپا ہے اور پوری دنیا اس کی وجہ سے معرک کارزار اور میدان جگ بنتی ہوئی ہے۔

(صلوٰۃ اقراء روز نامہ جگ کر اپنی ۹ مرچون ۱۹۷۸ء)

## بے جا نمائش اور فضول خرچی معاشرہ کے بگاڑ کا سبب ہے

ہمارے معاشرتی بگاڑ کا ایک بڑا سبب ہماری بے جا نمائش اور فضول خرچی ہے، اس کی نیاں کاریوں کا اندازہ صرف ایک مثال سے سمجھے، گزشتہ دنوں میرے ایک شناسانے جو کسی سرکاری حکمے میں اوسط درجے کے افسر ہیں، اپنی پنجی کی شادی کی دعوت کا اہتمام ایک بڑے ہوٹل میں ہوا، موصوف کا صرف ایک وقت کے کھانے پر سانحہ ستر ہزار روپیے خرچ اٹھا، بات معمولی ہے، مگر میں سوچتا ہوں کہ یہ صاحب کوئی امیر کیسی نہیں، قارون کا خزانہ انہیں ہاتھ نہیں لگا، جنات ان کے سخن نہیں، دست غیب یہ نہیں جانتے، فضول خرچی کے لئے اتنا بڑا سرمایہ انہوں نے کہاں سے اکٹھا کر لیا؟ یہ بھی سوچتا ہوں کہ جب شادی کی ایک وقت کی دعوت کا میزائی یہ ہے تو شادی کے مہینے، یعنی دین وغیرہ پر انہوں نے کل کتنا خرچ کیا ہوگا؟ اور ان کی زندگی کے باقی مصارف پر سالانہ کتنا روپیے خرچ ہوتا ہوگا؟ یہ بھی سوچ آتی ہے کہ اگر مال کے ساتھ اللہ میاں نے ان کو عقل کی نعمت بھی دی ہوتی تو یہ روپیہ جوانہوں نے فضول برپا کیا اس سے کتنے خاندانوں کی کفالت کر سکتے تھے؟ کتنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کر

سکتے تھے؟ کتنی بیواؤں کے سر پر دوپٹ دے سکتے تھے؟ کتنی نادار والدین کی بچیوں کے ہاتھ پیلے کر سکتے تھے؟

ہاں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ہمارے ملک عزیز میں بھی ایک صاحب تو نہیں، ان کی سلطنت کے لوگ تو لاکھوں ہیں، اگر ان سب کو شیطان نے فضول خرچی، ضمود نمائش میں لگا کر ان کی عقول کو اندھا نہ کر دیا ہوتا تو وطن عزیز میں کوئی بھوکا، کوئی بیگا، کوئی علاج سے محروم، کوئی مکان سے محروم، کوئی تعلیم سے محروم رہ جاتا؟ میرے خدا کی قسم یہ ملک اپنے برابر کے دو ملکوں کی بھی کفالت کر سکتا تھا۔

یہ بھی سوچتا ہوں کہ (اور یہ سوچ تو جان کھائے جاتی ہے) کہ جس قوم کے اعلیٰ سلطنت کے لوگ نہیں، بلکہ متوسط درجہ کے لوگ بھی اتنے عیاش اور فضول خرچ ہوں کہ شادی کی ایک معمولی دعوت پر سانحہ ستر ہزار روپے برپا کر ڈالیں، یہ قوم ستر ارب روپے کے بیرونی قرضے جو ہم نے غیر ملکوں سے بھیک مانگ کر انہی مرکاری افردوں کے پیٹ کے جہنم میں جھونک دیئے ہیں، کب ادا کرے گی؟ کیسے ادا کرے گی؟ اور جس بھکاری کے ذمہ ستر ارب روپے لوگوں کے پہلے واجب الادا ہوں، وہ دوسروں کی نظر میں کتنا ذیل اور رذیل ہوگا؟ وہ بمع قرضے لینے کس منہ سے جائے گا؟ اور بے شرم ہو کر جائے بھی تو اسے کون منہ لگائے گا؟ اب آپ کی بھجوں میں آیا کہ یہ مسئلہ کہ روس، امریکہ، فرانس، برطانیہ جتنی وغیرہ ہی نہیں بلکہ ہمارے برادر اسلامی ممالک، ہمارے بجائے بھارت کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ ہماری کہیں ساکھ نہیں، اور بھارت نے ہمارے پڑوں میں ساکھ بھار کی ہے، اگر ہم میں ذرا بھی غیرت ہوتی تو ہم ان قرضوں کی ادائیگی کے لئے اپنی ساری دولت کے سارے خزانے حکومت کے حوالے کر دیتے اور خود بھوکوں مر جاتے مگر کبھی قرض نہ لیتے جتنی ترقی کرتے اپنے

وسائل سے کرتے۔

(افتتاحیہ صفحہ اقرار روزنامہ جنگ کراچی ۱۶ اگسٹ ۱۹۷۸ء)

## فضول خرچی کا دوسرا بڑا سبب ہمارے سرکاری افسران کی غلط روشنی ہے

گزشتہ قسط میں فضول خرچی کی تباہ کاریوں کی طرف محضرا اشارہ کیا گیا تھا، آئیے ذرا غور کریں کہ اس فضول خرچی کا سبب کیا ہے اور اس سے بچنے کے لئے ہم کیا تدبیر اختیار کر سکتے ہیں؟

ہمارے معاشرے میں فضول خرچی کے بڑے سبب دو ہیں ایک یہ کہ انسان کا نفس فطرتاً فرعونیت پسند واقع ہوا ہے، وہ سب سے اپنی برتری منوانا چاہتا ہے اور جب اس قسم کے بہت سے فرعون جمع ہو جاتے ہیں تو ان میں نمودو نماش کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شخص ہر چیز میں اپنی برتری کا مظاہرہ دوسروں سے بڑھ چڑھ کر کرتا ہے اس کی حلال کمائی کافی نہیں ہوتی تو ناجائز ذرائع سے دولت اکٹھی کرتا ہے اور نمودو نماش کے جوئے میں ہار دیتا ہے:

یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا  
ہو زینت زیل، ہو فیشن نزالا  
جیا کرتا ہے کیا یونہی مرنے والا  
تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا

جگہ جی گانے کی دنیا نہیں ہے  
یہ عبادت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے  
جن لوگوں کو وسائل میسر ہوں وہ دولت کا سب سے بڑا مصروف یہی سمجھتے  
ہیں کہ اسے نمودو نماش کے جہنم میں جھوک دیا جائے: "مال حرام بود جائے حرام  
رفت" (حرام کا مال تھا حرام کے راستے چلا گیا) اور جو نادار ہیں وہ سودی قرض لے  
لے کر فضول خرچی کرنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ ان کی ناک نہ کئے۔

فضول خرچی کا دوسرا بڑا سبب ہمارے سرکاری افسران کی غلط روشنی ہے،  
ایک صاحب بتاتے تھے کہ وہ تمیش شلوار میں ایک "صاحب بہادر" سے ملاقات کے  
لئے گئے، مگر صاحب بہادر نے ان کی طرف نگاہ غلط بھی نہیں ڈالی، یہ بھاپ گئے کہ  
صاحب کو میرا بابس پسند نہیں آیا، اگلے دن سوت بوٹ میں ان کے دفتر پہنچنے  
تو "صاحب" نے بے حد ملاقات و عنایت کا مظاہرہ کیا، چائے سے بھی تواضع کی، جس  
کام سے گئے تھے وہ کام بھی فوراً کر دیا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ دیکھو! آج تم  
آدمیوں کی شکل میں آئے ہو۔

اسلام سادگی، کفایت شعاری، قناعت پسندی اور ایثار و ہمدردی کی تعلیم دیتا  
ہے لیکن ہمارے کالے "صاحب بہادر" اسلام کے بجائے انگریز کی نقلی میں فخر محسوس  
کرتے ہیں، مثل مشہور ہے "الناس علی دین ملوکہم" کہ لوگ اپنے حکام کے  
طريقہ پر چلا کرتے ہیں اس لئے ہمارا پورا معاشرہ انہی "صاحب بہادروں" کے نقش  
قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ ہر شخص اپنی بساط سے بڑھ کر خرچ  
کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور چونکہ حلال آمدی اس فضول خرچی کی متحمل نہیں ہوتی  
اس لئے آمدی میں اضافہ کرنے کے لئے ہر جائز و ناجائز اور حلال و حرام و میلہ ڈھونڈتا  
ہے۔

شیطان نے لوگوں کے کان میں یہ افسوس پھونک دیا ہے کہ ”معیار زندگی بلند کرہ“ اور ہم نے حرام کمانے، حرام کھانے اور حرام راستے پر مال اڑانے کو معیار زندگی کی بلندی سمجھ لیا ہے، حالانکہ فضول خرچی اور غمود و نماش سے کسی قوم کا معیار زندگی بلند نہیں ہوتا بلکہ اس کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، اور وہ پستیوں میں جاگرتا ہے۔

### فضول خرچی کا انسداد کیسے کیا جائے؟

فضول خرچی کا اصل علاج تو یہی ہے کہ خدا ہماری قوم کو عضل و بصیرت اور ہمارے سرکاری افسروں کو ہدایت دے کہ وہ غریبوں کی ہمدردی، ناداروں کی کفالت اور کمزوروں کی مدد کے مجموعی طور پر پوری قوم کے معیار زندگی کو بلند کرنے کی کوشش کریں، صرف اپنی اونچائی کی نمائش کے لئے اللہ تملّک خرچ نہ کریں، پوری قوم اور قوم کے قائدین مل کر اس دشمن کے خلاف جناد کریں اور اس کے لئے مندرجہ ذیل تدابیر اختیار کی جاسکتی ہیں:

۱: سب سے پہلے تو فضول خرچی کے نقصانات ہر شخص کے ذہن میں بھائے جائیں مثلاً:

الف: ..... فضول خرچی کرنے والوں کو قرآن کریم نے ”احوان الشياطین“ کا لقب دیا ہے، یعنی وہ شیطان کے بھائی ہیں۔

ب: ..... فضول خرچی سے آدمی ہر انہیں بنتا، بلکہ حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔

ج: ..... جس گھر میں فضول خرچی ہواں گھر کا نظام تلبیک ہو جاتا ہے، اور جس ملک میں فضول خرچی کا رواج ہواں ملک کی معیشت درہم ہو جاتی ہے۔

۲: ..... کسی جگہ خرچ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا جائے کہ کل قیامت کے دن

مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، اور جب یہ سوال ہوگا کہ مال اللہ تعالیٰ کا عظیمہ تحاکم نے اس کو فضول کیوں بر باد کیا؟ تو اس کا جواب میرے پاس کیا ہوگا؟  
یہ بات خصوصیت سے سرکاری افسروں کے سوچنے کی ہے کہ تو قومی خزانہ ان کے پاس امانت ہے اگر بے ضرورت اس کو خرچ کریں گے تو امانت میں خیانت کے مرتكب ہو گے۔

۳: ..... پوری قوم سادگی اور کفایت شعاعی کو اپنا اصول بنائے، اور اس سلسلہ میں صدر مملکت، وزراء اور اعلیٰ افسران عملی حمومہ پیش کریں۔

۴: ..... جو لوگ معاشرے میں فضول خرچی کے مرتكب ہوں ان کی حوصل شکنی کی جائے، اور ان کی سرفراز تقریبات کا بایکاٹ کیا جائے، اگر قوم کا مجموعی مزاج فضول خرچیوں کو فخرت کی نگاہ سے دیکھے گا تو یہی حد تک یہ یہاں جاتی رہے گی۔

۵: ..... معاشرے کے نمط رسم و رواج کی ذرا بھی پابندی نہ کی جائے، نہ اس سلسلہ میں عورتوں کی فرمائش کو پورا کیا جائے، لوگ خواہ کچھ ہی کہتے رہیں نہایت سادگی اور کفایت شعاعی سے شادی بیاہ کیا جائے۔

۶: ..... بلا ضرورت کبھی قرض نہ لیا جائے، مقتوض بننے سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، چند روز وہ وہ کی خاطر دنیا میں ہمیشہ کی پریشانی ہوتی ہے اور آخرت میں عذاب سر لینا بڑی حماقت ہے۔

۷: ..... سب سے پہلے گھر میں نظر ڈالو، جتنی چیزیں کام آتی ہوں ان کو رہنے والو اور جو چیزیں کام نہ آئیں وہ گھر سے خارج کر دو، کسی ضرورت مند کو دیدو، صدقہ کر دو، گھروں میں ایسی بہت چیزیں ہیں جو بے کار پڑی ہیں، کوئی سرور ہی ہے، کسی کو دیکھ لگ رہی ہے، ایسی ساری چیزوں کو اپنی ملکیت سے نکال دینا چاہئے۔

۸..... روز مرہ معاشرت میں یہ اصول مقرر کریا جائے کہ کوئی کام بے سوچے سمجھے نہیں کریں گے، جو چیز خریدنی ہو پہلے اس بات کو سوچ لیا جائے کہ اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر میں یہ چیز نہ خریدوں تو اس میں دنیا کا یادیں کا کیا نقصان ہوگا؟ اگر قابل اعتبار ضرورت سمجھے میں آئے تو وہ چیز خریدی جائے، ورنہ نہ خریدی جائے۔

۹..... جن لوگوں کے پاس اپنی ضرورت سے زائد مال ہو وہ بھی اسے عیاشی اور فضول خرچی میں نہ اڑائیں، بلکہ وہ یہ سوچیں کہ یہ مال حلال ہے یا حرام؟ اگر حرام کا ہوتا ان کے اصل مالکوں کو واپس کر دیں، اور اگر حلال کا ہوتا اسے فضول کا محسوس میں اڑانے کے بجائے کسی اچھے اور مفید کام میں خرچ کریں، اس سے ان کا نام بھی روشن ہوگا (فضول خرچی بھی تو نام کی خاطر کی جاتی ہے) اور ملک و قوم کو بھی فائدہ پہنچے گا۔

ان ساری تجویز کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک پیسہ بھی فضول خرچ نہیں ہونا چاہئے، روپیہ بیسہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے نہیں دیا کہ اسے فس پرستی، عیاشی اور حسود و نماش میں اڑایا جائے، بلکہ اس مقصد کیلئے دیا ہے کہ آپ اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں، رزق حلال میں فضول خرچی کی کوئی گنجائش نہیں، مؤمن نہ فضول خرچ ہوتا ہے، اور نہ بخیل۔ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں درفعہ نہ کرو، اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں ہرگز خرچ نہ کرو، پھر دیکھو دل کو اطمینان اور راحت کی کیسی دولت میر آتی ہے۔

(افتتاحیہ صحیح اقراء روزنامہ جنگ کراچی ۲۲ ربیعہ جون ۱۹۷۸ء)

## نفرت اور محبت کا مدار اللہ کی خوشنودی

”وعنه أى معاذ بن جبل رضي الله عنه انه سأله  
الى صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان، قال ان  
تحب لله وتبعض لله، وتعمل لسانك في ذكر الله.  
قال وماذا يا رسول الله؟ قال وأن تحب للناس ما تحب  
لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. رواه أحمد.“

ترجمہ..... ”حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه سے  
روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ  
ایمان کا کون سائل سب سے افضل ہے؟ فرمایا: یہ کہ تم اللہ کے  
لئے محبت کرو، اللہ کے لئے بغض رکھو، اور اپنی زبان کو اللہ کے  
ذکر میں استعمال کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس کے  
بعد فرمایا: ”اور اس کے بعد یہ کہ تم دوسروں کے لئے وہی چیز  
پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو، اور دوسروں کے لئے وہی چیز  
وہی چیز ناپسند کرو جو اپنے لئے ناپسند کرتے ہو۔“

ایمان کا نور جب دل میں سما جائے تو آدمی کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجت کا ایک ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ محظوظ حقیقتی کی رضا کا حصول اس کی زندگی کا نسب امین بن جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں اس ”ایمانی انقلاب“ کی بڑی بڑی علامتیں بیان فرمائی گئی ہیں، پہلی علامت یہ ہے کہ آدمی کی مجبت اور بعض کا بیان اسے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بن جائے، وہ کسی سے مجبت کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر، اور کسی کے بعض رکھے تو وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لئے۔

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ:

”من أحب لله وأبغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكممل الإيمان.“ (الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۲۳)

ترجمہ: ..... ”جس نے مجبت کی تو اللہ تعالیٰ کے لئے، کسی سے بعض رکھا تو اللہ تعالیٰ کے لئے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ تعالیٰ کے لئے، اور نہ دیا تو اللہ تعالیٰ کے لئے، ایسے شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک منادی اعلان کرے گا کہ کہاں میں وہ لوگ جو صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں مجبت کرتے تھے؟ یہ اعلان سن کر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کے لئے جنت میں جانے کا حکم ہو گا، اور باقی لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔

دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ مومن کی زبان صرف ذکر الہی میں استعمال ہو، اور اس کی زبان سے کبھی کوئی ایسا لفظ نہ لکھے جو محظوظ حقیقتی کی ناراضی کا موجب

ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ایمان کا زیور اور روح کی غذا ہے، دنیا میں ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور ذکر الہی سے محرومی سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں، جو شخص ذکر الہی کی لذت سے نا آشنا ہے اس کی روح بہیش مغضوب اور اس کا دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔

”ایمانی انقلاب“ کی تیسری علامت اس حدیث پاک میں یہ بیان فرمائی کہ مومن، دوسروں کے لئے بھی اسی چیز کو پسند کرتا ہے جسے اپنے لئے پسند کرتا ہے، اور جس چیز کو اپنے لئے پسند نہیں کرتا، اسے دوسروں کے لئے بھی پسند نہیں کرتا۔

پہلی دو علامتیں ”حقوق اللہ“ سے متعلق تھیں اور اس تیسری علامت کا تعلق ”حقوق العباد“ سے ہے، مطلب یہ کہ مومن، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لئے سرپا خیر بن جاتا ہے اس کی زبان سے، اس کے باتحہ پاؤں سے، اس کے طور و طریق سے، اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو ایسا نہیں پہنچتی، جس طرح وہ یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے لوگ اس پر زیادتی کریں اس کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالیں، اسے ذلیل کریں، اسی طرح وہ خود بھی کسی پر ظلم و زیادتی اور کسی سے بے انصافی کا برتاؤ نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ”مومن سرپا افت ہے، اور اس شخص میں کچھ بھی خیر نہیں جو نہ کسی سے افت کرے اور نہ کوئی اس سے افت کرے۔“

اس حدیث پاک میں جو تین علامتیں بیان فرمائی گئی ہیں یہ ہمارے ایمان کو جانچنے پر کھٹے کے لئے صحیح پیانا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پیانا نے پر پورا اترنے کی توفیق بخشیں۔

(اقراؤ روز نامہ جگ کر پیچی ۱۹۷۸ء)

## وصیت کے احکام

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”عَنْ أَبِي عُمَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَقٌّ امْرٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ بَيْتٌ لِلْتَّيْنِ إِلَّا وَوَصِيتَهُ مَكْتُوبٌ عِنْهُ، مُتَفَقٌ عَلَيْهِ۔“

(مکملۃ ص: ۲۶۵)

ترجمہ: ..... ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اخھرست ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان آدمی، جس کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہو اس کے لئے مناسب نہیں کہ وہ دو راتیں بھی اسی حالت میں گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔“

تفسیر: ..... حدیث پاک کا مدعا یہ ہے کہ مسلمان آدمی کو اپنا روز نامچہ ہمیشہ صاف رکھنا چاہئے، اگر کسی سے لین دین ہو، یا کوئی اور معاملہ ہو اسے قید تحریر میں لا کر اس کی وصیت کر دینی چاہئے، متفہد یہ کہ ایک مسلمان آدمی کو دنیا میں ایسا رہنا چاہئے جیسا کہ محاذ پر سایہ ہوتا ہے، اسے جس لمحہ بھی یہاں سے منتقل ہونے کا حکم ہو وہ اس کے لئے پہلے ہی سے تیار ہو۔ یہاں وصیت کے چند مسائل ذکر کر دینا مناسب ہوگا۔

آدمی کے ذمہ جو حقوق واجب ہوں ان کی وصیت کرنا بھی واجب ہے، مثلاً ایک شخص کا دوسرے کے ذمہ قرض ہے، تو مقرض کے ذمہ یہ وصیت کرنا ضروری ہے۔

کہ اس کے مال سے اس کا قرض ادا کر دیا جائے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس قرض کا گھر کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، آدمی مر جاتا ہے اور گھر کے لوگ بے خبری کی وجہ سے اس کا قرض ادا نہیں کرتے اور یہ اس میں پکڑا جاتا ہے، جب تک قرض ادا نہ ہو اس کی رہائی نہیں ہو سکتی۔

جس شخص کی کچھ نمازیں یا روزے قضا ہو گئے ہوں، ان کو زندگی میں ادا کر لینا چاہئے، اور اگر خدا نخواست ان کے ادا کرنے کی نوبت نہیں آئی تو وصیت کرنا قرض ہے کہ میرے ذمہ اتنے روزے ہیں، یا اتنی نمازیں ہیں، ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے، اگر اس نے یہ وصیت بھی نہیں کی تو سخت گناہ گار ہو گا۔

کسی شخص کے ذمہ کئی سال کی زکوٰۃ واجب تھی اور اس نے مالدار ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی تو اس پر لازم ہے کہ گزشتہ سارے سالوں کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرے اور اگر زندگی میں ادا نہیں کر سکتا تو مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ زکوٰۃ کی اتنی رقم میرے ذمہ قرض ہے اس کو ادا کر دیا جائے، ورنہ گنہگار ہو گا۔

مسئلہ: ..... کسی شخص کے ذمہ جو قرض تھا، مگر وہ ادا نہیں کر سکا تو اس کے ذمہ قرض ہے کہ وہ یہ وصیت کر جائے کہ اس کی طرف سے ”حج بدل“ کر دیا جائے، اگر وصیت نہیں کی تو دو ہرا جرم ہو گا، ایک جرم یہ کہ قرض ادا نہیں کیا، اور دوسرے یہ کہ مرنے سے پہلے وصیت نہیں کی۔

مرنے والے کی وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے، بشرطیکہ اس نے کسی گناہ کے کام کی وصیت نہ کی ہو، اگر کسی ناجائز کام کی وصیت کی تو اس کا پورا کرنا حرام ہے۔

اگر کسی شخص کے ذمہ قرض ہو اور وہ اس کے ادا کرنے کی وصیت کر گیا ہو تو اس قرض کا ادا کرنا ضروری ہے چاہے اس کا سارا مال اس میں کھپ جائے۔

اگر کسی نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال فلاں نیک کام میں لگادینا، مثلاً مسجد بنادیں، یا دینی مدرسہ میں لگادینا، یا قرآن مجید خرید کر تقسیم کر دینا، یا بیواؤں اور تینوں کو اتنا مال دے دینا تو اس کے کفن دفن کے بعد اس کے کل تھائی مال کے اندر اندر تو وصیت کا پورا کرنا لازم ہے، وارث اگر اس وصیت کو پورا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اور اگر یہ وصیت تھائی مال سے زیادہ بھی ہو تو زائد حصے کا پورا کرنا لازم نہیں، وارثوں کی خوشی ہے اور اگر وارثوں میں کوئی نابالغ بھی ہو تو اس کے حصے میں سے تھائی سے زائد وصیت کا پورا کرنا جائز ہی نہیں، اور اگر وارث عاقل و بالغ ہوں تو ان کی رضامندی کے ساتھ تھائی سے زیادہ میں بھی وصیت نافذ کر سکتے ہیں۔

اگر کسی کے ذمہ نماز، روزہ یا حج و زکوٰۃ واجب تھی اور وہ ان کو ادا کرنے کی وصیت کرے گا تو تھائی مال کے اندر اندر تو اس کو پورا کرنا فرض ہے، اور تھائی سے زائد میں فرض تو نہیں لیکن جو وارث عاقل بالغ ہوں تو ان کو اپنے حصے میں سے ادا کر دینی چاہئے۔

جن لوگوں کو اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں سے حصہ نہیں پہنچتا اور یہ ان کو ضرورت مند سمجھتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ اس کی جائیداد ان کو بھی ملنی چاہئے تو یہ تھائی مال کے اندر اندر وصیت کر سکتا ہے کہ میرا اتنا مال یا اتنی جائیداد فلاں کو دے دی جائے، مثلاً ایک شخص کے چار لڑکے ہیں، ان میں سے ایک کا انتقال اس کی زندگی میں ہو گیا اور باقی تین اس کی وفات کے وقت زندہ تھے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد اس کی زندہ اولاد کو منتقل ہوگی، جو لڑکا اس کی زندگی میں مر چکا ہے اس کے نام یا اس کی اولاد کے نام اس کی جائیداد شرعاً منتقل نہیں ہوگی، اب اگر یہ چاہتا ہے کہ اس مر جنم لڑکے کی اولاد کو بھی اس کی جائیداد میں سے حصہ ملتا چاہئے تو ان کے حق میں وصیت کر دے کہ میری اتنی جائیداد یا جائیداد کا اتنا حصہ ان کو دیا

جائے، گویا مر جنم بیٹے کی اولاد کے حق میں یہ تھائی جائیداد کی وصیت کر سکتا ہے۔ چونکہ وصیت کسی وارث کے حق میں جائز نہیں تو اس کا پورا کرنا بھی لازم نہیں۔  
(مضمون صحیح، اقراء روز نامہ جنگ کراچی ۲۵ اگست ۱۹۷۸ء)

## میاں بیوی کے حقوق

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”قالت قاتل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم:  
خیر کم خیر کم لائلہ وانا خیر کم لائلی۔“

(مکہلة ص: ۲۸۱)

ترجمہ: ..... ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت  
ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے اچھا اور بھلا  
آدی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہو، اور میں  
اپنے گھر والوں کے حق میں تم سب سے اچھا ہوں۔“

”عن ابی هریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم: اکمل المُزْمَنِینَ ایمانًا احسنُهُمْ خلقًا  
و خیار کم خیار کم لنساءهم. رواہ الترمذی“

(مکہلة ص: ۲۸۲)

ترجمہ: ..... ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت  
ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمانوں میں سب سے کامل  
الایمان وہ ہے جو سب سے زیادہ خوش خلق ہو اور تم میں سب  
سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں زیادہ اچھے  
ہوں۔“

تشریح: ..... اس مضمون کی اور بھی احادیث وارد ہوئی ہیں، جس سے معلوم  
ہوتا ہے کہ آدی کی اچھائی، بھلائی کا خاص معیار اور نشانی یہ ہے کہ اس کا برداشت اپنی  
بیوی کے ساتھ کتنا اچھا ہے؟

اللہ تعالیٰ نے ازدواجی تعلق کو میاں بیوی دونوں کی راحت و سکون اور عفت  
و عصمت کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس تعلق کو اپنے خاص انعامات میں سے شمار فرمایا ہے،  
اگر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حق کی رعایت کریں تو یہ ازدواجی تعلق پورے  
ماحول کو خوشنگوار اور گھر کو رہک جنت بنا دیتا ہے، اور اگر خدا نخواست اس تعلق میں بھی  
آجائے تو ماحول میں تلخی گھول دیتا ہے، زندگی ایک بو جھ بن کر رہ جاتی ہے اور رفتہ رفتہ  
میاں بیوی کی راحت و سکون ہی کو نہیں بلکہ دین و ایمان اور دنیا و آخرت کو برپا کر دیتا  
ہے۔

بھی وجہ ہے کہ شیطان کو چنی خوشی میاں بیوی کے درمیان منافر ت پھیلانے  
اور ایک دوسرے کے خلاف ابھارنے سے ہوتی ہے، اتنی اور کسی حیز سے نہیں ہوتی۔  
صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ:

”عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
و سلم: ان ابليس يضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرايہ  
یفتون الناس فادناهم منه منزلة اعظم فتنة یجعی احدهم

فیقول: فعلت کذا کذا، فیقول: ما صنعت شيئاً، قال:  
ثم یجعی احدهم فیقول: ما ترکته حتى فرق ت بینہ و بین

امرأة، قال: فیدنیه منه ویقول: نعم! انت.“

(مکہلة ص: ۱۸)

ترجمہ: ..... ”شیطان پانی پر اپنا تنہ بچاتا ہے، پھر  
اپنے چلیوں کو لوگوں کے بہکانے کے لئے بھیجا ہے، جو جس قدر

لوگوں کو زیادہ بہکائے اسی قدر شیطان کی بارگاہ میں کامیابی پاتا ہے، شیطان ان سب کی کارگزاری منتہا ہے، ایک آکر کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں فلاں گناہ کروائیے میں شیطان کہتا ہے، ”تو نے کچھ نہیں کیا!“ پھر دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پیچے پڑا رہا، اور اسے یہوی کے خلاف اور یہوی کو اس کے خلاف بہکاتا رہا، یہاں تک کہ ان کے درمیان تفریق کراکے آیا ہوں، شیطان یہ سن کر اس کو گلے لگایتا ہے اور کہتا ہے: ”شabaش! تو نے کام کیا!“

شیطان کو میاں یہوی کی تفریق سے اسی لئے خوشی ہوتی ہے کہ ان کے ازدواجی تعلق کا بگاڑ ان کی، ان کے اہل و عیال کی، ان کے خویش و اقرباء کی اور ان کے دوست احباب کی زندگی میں زبرگحول دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بیسوں خرامیاں جنم لیتی ہیں۔

ازدواجی تعلق کی اسی اہمیت کے پیش نظر آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کو اسکی ہدایات دی ہیں کہ اگر ان پر ٹھیک ٹھیک عمل کیا جائے تو میاں یہوی کی گھر یہ اجھنوں سے نجات مل سکتی ہے، اور یہ تعلق ہزاروں سعادتوں کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

ان میں سب سے اہم تر ہدایت یہ ہے کہ آدمی اہل خانہ کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ چیل آئے، گھر میں قانون کی حکومت نہیں چلتی بلکہ الفت و محبت اور اخلاق و مرمت کا سکد چلتا ہے، جو لوگ گھر میں ذرا ذرا بات پر قانون کی میں منجھ نکالتے ہیں اور درشتی اور دھمکی کے زور سے ازدواجی پیسے کو گردش دینا چاہتے ہیں وہ خشک دماغی کے عارضہ میں بجا لیا ہے، خوش اخلاقی کے ساتھ چیل آنا یہوی کا سب سے بڑا حق ہے، اور کمال ایمان کی علامت ہے۔

آنحضرت ﷺ کی یہ ہدایت اگرچہ براہ راست مردوں کو ہے، اور گھر میں

خوش اخلاقی کی فضا پیدا کرنے کی ذمہ داری بھی سب سے بڑھ کر انہی پر عائد ہوتی ہے، مگر خواتین اسلام بھی اس مقدس ہدایت سے راہنمائی حاصل کر سکتی ہیں، اور انہیں کرنی چاہئے، میاں یہوی میں سے کامل الایمان وہی ہو گا جو دوسرے سے بڑھ کر خوش اخلاقی کو شعار بنائے، خوش اخلاقی کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ اپنے حقوق طلب کرنے کے بجائے دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے، اگر میاں یہوی میں سے ایک کسی موقع پر رنجیدہ اور آزردہ خاطر ہو تو دوسرافریق بھی مقابلے میں تنہی و تیزی کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ نرمی و خوش اسلوبی سے تعلق کرے۔ علامہ عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے شیخ سے یہوی کی زبان درازی کی شکایت کی، جواب میں شیخ نے لکھا کہ ”جو شخص یہوی کی ایذاوں پر صبر نہیں کر سکتا وہ اس سے برتری کا دعویٰ کیسے کرتا ہے؟“ ازدواجی زندگی میں خوش خلقی کا عنصر جتنا غالب ہو گا اس کے نتائج اسی قدر خونگھوار ہوں گے۔ اور میاں یہوی میں سے جو شخص بھی خوش اخلاقی کے زیور سے آراستہ ہو گا، اس کی شخصیت دوسرے سے زیادہ وزنی اور پرکشش ہو گی۔ خوش اخلاقی ہی وہ نجح کیا ہے جس سے ازدواجی راحت و سکون کی اکسیر میسر آ سکتی ہے۔

(نور ثہرست صفحہ اقرار روزنامہ جگ کراچی ۱۳ اکتوبر ۱۹۷۴ء)

## اسلامی اخوت اور شیطانی تدبیر

قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے بعد امت مسلم کے حق میں سب سے بڑی نعمت اتفاق و اتحاد ہے، اور سب سے بڑا عذاب ان کا باہمی انتشار و افراق ہے، قرآن کریم، مسلمانوں کو گروہ بندیوں کا حکم نہیں دیتا، بلکہ انہیں حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مصبوغی سے تھامے رکھیں اور انہیں حق تعالیٰ کا یہ انعام یاد دلاتا ہے کہ دیکھو! تم اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاس سے تھے، اللہ نے تم پر احسان فرمایا کہ تمہارے دلوں کو جوہر دیا (آل عمران: ۱۰۳)۔ اور مسلمانوں کو یہ بھی فہماش کرتا ہے کہ رسول کی اطاعت کو لازم پکڑو، اور اختلاف پیدا نہ کرو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا رب و دبدبہ جاتا رہے گا اور تم دشمنوں کی نظر میں ذلیل و خوار اور بے قیمت ہو جاؤ گے۔ (الافق: ۲۹)

قرآن کریم مسلمانوں کے اختلاف منانے کی تدبیر بھی بتاتا ہے اور اس کے لئے یہ کلیہ تجویز کرتا ہے کہ اگر تمہارے درمیان کسی مسئلہ میں نظریاتی اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پروردگار کے سب اس کے فیضے پر راضی ہو جاؤ (اشوری: ۱۰) اور اپنے تازمہ کو نہانے کے لئے اسے خدا رسول کی عدالت میں پیش کرو (الناس: ۵۹) پھر خدا تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق جو فیصلہ بھی سامنے آئے اس پر سرتلیم خم کردو۔ (الناس: ۶۵)

دو مسلمانوں کے درمیان اگر ذاتی اور نجی امور میں باہمی رنجش پیدا ہو جائے تو قرآن کریم اسلامی برادری کو حکم دیتا ہے کہ عدل و تقویٰ کے تقاضوں کو محیک محیک طہوڑ رکھتے ہوئے دو روٹھے ہوئے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کروادو۔ (الجرات: ۱۰) اور اگر خدا نحو است یہ رنجش گروہی جگہ کی شکل اختیار کر لے، اور اہل ایمان کی دو پارٹیاں آپس میں آمادہ پیکار ہو جائیں تو قرآن کریم اسلامی معاشرہ پر یہ فرض عائد کرتا ہے کہ وہ رنگ نسل، قوم و طین، قبیلہ و برادری کے تمام تعلقات سے بالاتر ہو کر یہ دیکھے کہ ان دونوں میں سے حق پر کون ہے؟ اور زیادتی کس کی طرف سے ہو رہی ہے، پس جو فریق زیادتی پر اترائے اس سے پورے معاشرے کو نہنا چاہئے، اور جب تک وہ اپنی زیادتی کو چھوڑ کر حکم الہی کے آگے بھجنے پر آمادہ نہ ہو اس سے مسلمانوں کی صلح نہیں ہوئی چاہئے۔ (الجرات: ۹)

قرآن کریم نے ان اسباب و ذرائع کی بھی نشاندہی کی ہے جن کے ذریعہ شیطان مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا ہے، اور جو ان کے انتشار و افراق کے لئے زمین ہموار کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز اسلامی اخوت کے رشتہ کا نکزوڑ پر جانا اور مسلمانوں کا خدا اور رسول کی احاطت سے روگروانی کرنا ہے۔ جب اسلام کی عظمت و تقدیس کا لحاظ نہ رہے تو ظاہر ہے کہ اسلامی اخوت و اسلامی اتحاد کا احترام بھی اٹھ جاتا ہے، اس صورت میں مسلمان آپس میں دست و گریبان ہونے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کریں گے۔

دوسری چیز جو اسلامی اخوت کی روح کو کچل دیتی ہے وہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے بدگمانی ہے، اسی لئے قرآن کریم نے بدگمانی سے احتراز کرنے کی بذات فرمائی ہے اور مسلمانوں کو بتایا ہے کہ جس بدگمانی کا صحیح منشاء موجود نہ ہو وہ گناہ

ہے، حدیث پاک میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”بدگانی سے احتراز کیا کرو کیونکہ بدگانی سب سے جھوٹی بات ہے۔“

تیسرا بات جو بدگانی سے جنم لتی ہے وہ غیبت اور بہتان ہے۔ جب ایک شخص کو دوسرا شخص سے سو‘ ظن ہو جاتا ہے تو انہمار نفرت کے لئے اس کی برا بیوں کی داستان بڑے ہرے لے کر بیان کرتا ہے، ایک مسلمان کا دوسرا مسلمان کی پس پشت برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی نظر میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، غیبت ایسا خبیث گناہ ہے کہ بڑے بڑے پرہیز گار لوگ اس میں نہ صرف بہلا ہو جاتے ہیں بلکہ اس کا اچھی چیز بھٹک لگتے ہیں، کیونکہ دوسرے کی برا بیوں بیان کرنے میں نفس کو لذت ملتی ہے، اور وہ ایسے زہر کو میٹھی گولی بھجو کر شوق سے کھاتا ہے اسی بنا پر حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ”غیبت زنا سے بھی زیادہ نگین جرم ہے۔“ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! یہ زنا سے نگین جرم کیوں ہے؟ فرمایا بدکار بدکاری کرتا ہے تو اسے برا بھجو کر کرتا ہے اور کرنے کے بعد اس پر پیشان ہوتا ہے، اس سے توبہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، مگر غیبت کرنے والے کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی گناہ کر رہا ہے۔ اس لئے اس کیا گناہ سے توبہ کرنے کی بھی اسے توفیق نہیں ہوتی۔“

چوتھی چیز غلط خبروں کی اشاعت ہے جب آدمی کو کسی سے نفرت ہو جائے تو بسا اوقات وہ صرف غیبت ہی پر اکتفا نہیں کرتا ہے بلکہ افسانہ طرازی بھی شروع کر دیتا ہے اور محض اپنے قیاس اور اندازے کو تخلیقات میں ڈھال کر واقعہ بنالیتا ہے۔ اور کبھی اصل بات کچھ اور ہوتی ہے مگر اس میں رنگ آمیری اور حاشیہ آرائی کر کے اسے کچھ کا کچھ بنالیما جاتا ہے۔ یہ حرکت بہت سے کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہے۔ جھوٹ،

بہتان، غیبت، کسی مسلمان کی دل آزاری و رسولی جیسے سب گناہ اس میں سوت آتے ہیں اس لئے قرآن کریم نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی ہے کہ جب انہیں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی خبر ملے تو اس پر بغیر تحقیق کے نہ تو یقین کیا کریں، اور نہ اس پر اپنے کسی روئی کا اظہار کریں، قرآن کریم ایسی خبریں اڑانے والوں کو ”فاسق“ کہ کر انہیں ناقابل اعتبار قرار دیتا ہے۔

پھر جب ایسی خبریں عام طور پر ایک دوسرے کے خلاف شائع ہونے لگتی ہیں تو طرفین میں عداوت کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں اور مسلمانوں کو اپنی جو قوت کفر کے مقابلہ میں خرچ کرنی چاہئے تھی وہ آپس کی گناہیں میں صرف ہونے لگتی ہے، ہر فریق دوسرے فریق کو بیجا دکھانے کے لئے اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کر دیتا ہے اس طرح مسلمانوں کی قوت، ان کا وقت، ان کا مال، انکی دماغی و جسمانی صلاحیتیں آپس کی سر پچھوں کی نذر ہونے لگتی ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن اٹھیں ان کا سانس لیتے ہیں اور انہیں مسلمانوں سے مقابلہ و مقاؤمت کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ ہے وہ سب سے بڑا عذاب جس سے اسلامی معاشرہ ووچار ہے۔

شیطان نے مسلمانوں کو لڑانے کے لئے جو بے شمار ذرائع ایجاد کئے ہیں ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ جن کی قباحت کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں جاتی، وہ اس کے لئے کبھی مذہبی میدان ہموار کرتا ہے اور چند سرپھروں کو مجھ نے شوئے چھوڑنے پر اساتا ہے، کبھی اس کے لئے سیاسی میدان تیار کرتا ہے۔ اور مسلمانوں کو مختلف گروپوں میں بانٹ کر سیاسی دلکل میں اتار دیتا ہے۔ کبھی قوم و وطن اور قیامہ و برادری کا بت تراش کر چند سامریوں کو اس کا سر پرست بنادیتا ہے، اور وہ اسلامی اخوت کے تمام رشتے کاٹ چھوٹتے ہیں، کبھی طبقاتی کشمکش برپا کر کے مسلمانوں کو ایک

دوسرے کے خون سے عدالت و دینی کی پیاس بخانے کی تدبیر بھاتا ہے۔ اور یہ ساری بیزیں اسلامی معاشرے کو جہنم کا نمونہ بنادیتی ہیں، بدقتی سے آج ہمارے گروہوں میں شیطانی الاؤ روش ہیں اور مسلمان اس کا ایندھن بنتے جا رہے ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ اہل اسلام کو اسلامی اخوت کے رشتہ میں مسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام شیطانی مداری سے انہیں محفوظ رکھے۔

(صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کراچی ۲۹ جون ۱۹۷۶ء)

## جرائم و سزا کا قانون الٰہی

دنیا کی یہ خصوصیت توہین سے نتے آئے ہیں کہ یہ پریشانیوں کا گوارہ ہے، مصائب و آلام کا گھر ہے اور انکار و حواوٹ کی آمادگاہ ہے۔ مگر نے زمانے کے نئے تقاضوں نے جن آفتوں کو جنم دیا (اور جن میں روز افزول ترقی ہو رہی ہے) ان کی مثل شاید کسی پسلے زمانے میں ڈھونڈنا عبث ہے۔ اور خدا ہی مسترحانہ ہے کہ انہی کیا کیا نقصے پیش آنے والے ہیں۔ صحیح بخاری میں زیبر بن عدی سے روایت ہے کہ ہم حضرت انس بن مالک صحابی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے "اور ان سے حاجج کی پیرو دستیوں کی شکایت کی تو فرمایا:

"اصبروا فانه لا يأني عليكم زمان الا الذى بعده  
اشرمنه حتى نلقوا ربكم سمعنه من نبيكم صلي الله  
عليه وسلم"

ترجمہ:- صبرو کرو! کونکہ تم پر ہونے والے بھی آئے گا اس کے بعد کا زمانہ اس سے بدتر ہو گا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جاملو، یہ بات میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔"

دنیا میں پیش آئے والی آفات کی بظاہر دو فتنیں ہیں۔ بعض تو وہ ہیں جن کے اسباب اختیاری ہیں، اور بعض بظاہر انسانی قدرت و اختیار سے خارج ہیں، اور اگر

وقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو پیشتر آفات و مصائب جو غیر اختیاری نظر آتے ہیں وہ بھی درحقیقت ہماری ہی بد عملیوں کی سزا ہوا کرتی ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَمَا أَصَابُكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسِبْتُمْ إِنْ بِدِينِكُمْ وَلَا يَعْفُوُ  
عَنِ الْكَثِيرِ۔  
(الغوری ۳۰)

ترجمہ : "اور جو پڑے تم پر کوئی بخشن سودہ بدلتے ہے اس کا جو کلیا  
تمہارے ہاتھوں نے" اور معاف کرتا ہے بت سے گناہ۔"

(ترجمہ شیعۃ اللہ)

اس زمانے میں بت سی آفات تو ہم نے اپنے اور پا اختیار خود لادر کی ہیں۔ اور جن آفتون کا نزول ہماری بد عملیوں کی بدولت ہو رہا ہے ان کا تو کوئی شماری نہیں۔

حق تعالیٰ کے یہاں قانون یہ ہے کہ جیسا جرم ہو سزا اس کے مناسب دی جاتی ہے۔ جرم خیہہ ہو تو سرا بھی خیہہ اور جرم اعلانیہ ہو تو سرا بھی اعلانیہ۔ جرم افسادی ہو تو سرا بھی افسادی اور جرم اجتماعی ہو تو سرا بھی اجتماعی رنگ میں دی جاتی ہے۔ آج جو سزا میں پورے اجتماع و معاشرے کو بلکہ کتنا چاہئے کہ کم و بیش پوری دنیا کو مل رہی ہیں۔ اور جن کی وجہ سے کیا امیر، کیا غریب، کیا مرد، کیا عورت، کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا اچھے اور کیا بے اچھی پریشان و فریاد کنال ہیں، یہ سب ہمارے اجتماعی گناہوں کا شہرو ہیں۔ جب فتن و فحور اعلانیہ ہو رہا ہو، جب خدا تعالیٰ کی یاد میں ہوئی حدود کو کھلے بندوں توڑا جانے لگے۔ جب خدا اور رسول کی شان میں بے ادبیاں عام طور سے گلی کوچوں میں ہونے لگیں۔ اور جب شر کے شرارے چاروں طرف پھیل جائیں اور کوئی ان کی روک تھام کرنے والا نہ ہو تو خدا کا اصل قانون حرکت میں آتا ہے اور مجرموں کے ساتھ نیک لوگوں کو بھی آفات اور فتنوں کی پھیلی میں پیس دیا جاتا ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ امانت المؤمنین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر دریافت کیا تھا "اپنہ کو وفیا الصالحون" کیا ہم ایسی حالت میں بلا ک کر دیجے جائیں گے جب کہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں؟" جواب میں آپ نے فرمایا نعم اذا کثرا الحب "جی ہاں! جب برائی اور خباثت کی کثرت ہو جائے تو یہی ہو گا۔"

حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

"اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے یا تو  
جسیں بھلائی کا حکم کرنا ہو گا، اور برائی سے باز رکھنا ہو گا۔ ورنہ بت  
جلد اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب مسلط کر دیں گے۔ پھر تم دعا میں کہ  
گے تو تمہاری دعا میں بھی نہیں سنی جائیں گی۔"

حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے  
نہا ہے کہ :

"لوگ جب برائی کو پھیلتا ہوا دیکھیں اور قدرت کے باوجود  
اس بدلنے اور منانے کی کوشش نہ کریں تو بت جلد اللہ تعالیٰ ان  
کو عذاب عام کی پیٹ میں لے لیں گے۔"  
(مشکوٰۃ المسن ۳۳۷)

اس مضمون کی اور بھی بت سی احادیث ہیں جن سے اہل علم واقف ہیں۔

ایک طرف ان ارشادات نبوت کو رکھیں اور دوسری طرف خود اپنا اور اپنے  
معاشرے کا جائزہ لیں۔ وہ کون ہی برائی ہے جو اس وقت وباۓ عام کی طرح پھیلتی نظر

نہیں آتی۔ اور کتنے لوگ ہیں جو برائیوں کے مٹانے کے لئے کمرستہ ہیں؟۔ دوسری  
برائیاں تو اپنی جگہ رہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں اور قریب  
قریب وہ نقشہ ہیں رہا ہے جس کی اطلاع آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد  
میں وی تھی :

بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلوم يصبح  
الرجل مومنا و يمسى كافرا و يمسى مومنا  
ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔

(صحیح مسلم۔ مکملہ ص ۳۴)

ترجمہ؟ ان فتوؤں سے پسلے اعمال کی طرف سبقت کرو، جو سیاہ  
رات کے نکلوں کی ماہنہ ہوں گے، آدمی صح کو مومن اٹھے گا۔  
شام کو کافر ہو گا۔ شام کو مومن ہو گا اور صح کو کافر اٹھے گا، وہ دنیا کے  
چند نکوں کے بد لے اپنادین بچتا پھرے گا۔

لیکن ان تمام روح فرسا حالات کو دیکھنے کے بعد بھی دیندار حضرات میں کوئی  
حس و حرکت محسوس نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ اپنے جمل و حفاظت کی وجہ سے دین و  
ایمان سے محروم ہو رہے ہیں ان کے بچانے کے لئے کوئی فکرمند نظر نہیں آتا۔ اور  
یہ دردناک صور تحمل پوری قوم پر عذاب الٰہی کو دعوت دے رہی ہے۔

آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو  
حکم فرمایا کہ فلاں ابستی کو اس کے نکنوں سمیت الٰہی دو انہوں نے عرض کیا، بار الٰہا!  
وہاں تیرا فلاں بندہ بھی رہتا ہے جس نے آنکھ جھکنے کی مدت میں بھی کبھی تیری نافرمانی  
نہیں کی۔ حکم ہوا کہ اس کے سمیت اس ابستی کو الٰہی دو، اس لئے کہ اس کی پیشانی پر  
میری خاطر کبھی ملک نہیں پڑی۔

(مکملہ ص ۳۴۹)

اس وقت ہمارا روئے تھن ان لوگوں کی طرف نہیں جو خود جرم میں بجلما  
ہیں۔ بلکہ ان نیک پاک اور مقدس حضرات کی طرف ہے جو حاجی نمازی اور دیندار  
کہلاتے ہیں۔ مگر انہیں اپنے انفرادی ائملاں کے بعد شر اور برائی کے بڑھتے ہوئے  
سیالاب کو رونکنے کی کوئی فکر نہیں۔ ان کے پڑوس میں لوگ بے نمازی مرتے ہیں تو  
مرتے رہیں، یہ کلمہ مرتے ہیں تو مرا کریں، مرتد ہوتے ہیں تو ہوا کریں، علائیہ فتن و  
نحوں میں بجلما ہیں تو ہوتے رہیں، وہ صحیح ہیں کہ ان پر کسی کی کوئی ذمہ داری عائد  
نہیں ہوتی۔

باخصوص حضرات علمائے کرام سے گزارش کرنا ہے کہ جو مانت نبوت کے حامل  
ہیں، اور امت کی اصلاح مسحروف کے پھیلانے اور مکرات کے مٹانے کی ذمہ داری  
جن پر بطور خاص عائد کی گئی ہے۔ وہ جس بستی میں بھس شر میں بھس مکھے میں  
رہتے ہیں، کیا انہوں نے خلق خدا کی راہنمائی اور دعوت الٰہی اللہ کا کوئی ٹھووس نظام  
قامم کر رکھا ہے؟۔ کیا ان کی ساری توانائیاں اور ان کی ساری صلاحیتیں باطل کو مٹانے  
اور برائی کا قلع قلع کرنے میں خرج ہو رہی ہیں؟ کیا انہوں نے مگر گھر جا کر اور ایک  
ایک کوبلا کر موعظت و فصیحت اور خیر خواہی کے سارے اسلوب آزاد کیجئے ہیں؟  
افسوں ہے کہ اس کا جواب نفی اور سکر نفی میں ہے۔ بلاشبہ دینی معاہد کام کر رہے  
ہیں، کوئی نیک نہیں کہ مسجدوں میں بھی پکھ لوگ آجائتے ہیں اور یہ بھی درست ہے  
کہ جلسوں مکانفرنسوں، خطبیوں، مجلسوں اور دعنوں کی شکل میں بھی دین کی تھوڑی  
بہت باشیں کافتوں میں ڈالی جا رہی ہیں مگر شر کا سیالاب جس رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ بدی  
کی قوتیں جس عزم و بہت اور منصوبہ بندی کے ساتھ اپنی دعوت منتظم شکل میں پھیلا  
رہی ہیں۔ اور شیطان نے خلق خدا کو بہکانے کے لئے جس طرح قدم قدم پر اپنے  
جال پھیلا رکھے ہیں۔ اپنے خیر و صلاح کی کوششیں (اگر ان کو کوششوں کا نام دینا صحیح

ہو) اس سلسلہ کی تکمیل ہوتیں، اس کا عشرہ عشیر بھی نہیں ہیں۔

اور پھر جو کچھ ہے وہ بھی خاص اس حلقے کے لئے ہے جو دین کی طلب اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور ہو خود طالب بن کر دین کا کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لئے آتا ہے۔ لیکن بد قسمتی سے قوم کو "سقوط اشتہا" کا مرض لاحق ہے۔ اس کے اندر دین کی طلب اور پیاس ہی ہاتھ نہیں رہی۔ ایک تدرست شخص کے لئے آپ نے خوردنوش کا سارا سلام میا کر دیا۔ اسے جب بھوک پیاس متاثر گی وہ از خود غذا کے لئے بے قرار ہو گا۔ لیکن جس مریض کی اشتہا ساقط ہو چکی ہو اور اسے غذا کی رغبت کے بجائے اس سے نفرت ہو گئی ہو اس کے لئے اچھے سے اچھے کھانوں کا اہتمام بے سود ہے۔ اس کی خیر خواہی یہی ہو سکتی ہے کہ اس کی اشتہا بحال کرنے کی تدبیر کی جائے اسے کسی معالج کے پاس لے جائیں اور اگر اس کا وہاں جانا ممکن نہ ہو تو معالج کو گھر بر بلالائیں، تبدیلی آپ وہاکی ضرورت ہو تو اس کا ماحول بد لیں، اور جب اس کی اشتہا عود کر آئے تو اسے مناسب غذائیں دینا شروع کریں۔ تھیک یہی حالت اس وقت مسلمان معاشرے کی ہے۔ اس کے ذہن اور تصور پر مادت اور شیطانی ماحول کا اس قدر تسلط ہے کہ دین کی رغبت و اشتہا کا عدم ہے۔ وینی مرکز موجود ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کا پورا سلام میا ہے۔ مگر اسے دین ہی سے نفرت و بیزاری ہو چلی ہے، اور مرض نے بڑھتے بڑھتے خونناک شکل اختیار کر لی ہے۔ ایسی حالت میں ناخدا یاں ملت کا فرض یہ ہے کہ مسلمانوں میں دین کی طلب و اشتہا پیدا کرنے کی تدبیر کی جائے، اور جس طرح ایک وہی مرض پر قابو پانے کے لئے تمام ممکنہ تدبیر بروئے کار لائی جاتی ہیں، اور اس کے لئے پوری قوم فکر مند ہوتی ہے اسی طرح موجودہ صورت حال کی اصلاح کے لئے ملت کے ایک ایک فرد کو فکر مند ہونے اور خدا کے بندوں کو اس سیلاں وبا سے بچانے کے لئے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔

ہماری موجودہ کوششیں پیاس کو سیراب کرنے کے لئے تو کافی ہیں۔ مگر جو مکین پیاس ہی سے محروم ہو چکے ہیں ان کے لئے نہ مساجد کی کوئی انتیت ہے، نہ مدارس کی نہ علم کی نہ علمائی نہ دین کی، نہ دینداروں کی۔۔۔ اس کا نتیجہ ہے کہ معاشرے پر برلنی کا دباؤ پر ابر بڑھ رہا ہے، اور بڑے بڑے جری اور حق کو حضرات بھی پاشکتہ ہو کر "سکوت مصلحت آمیز" میں عافیت کر رکھتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ والد پر رگوار اگر عالم و فاضل حاجی نمازی اور تجدیگزار تھے تو اولاد کثیر ہے دین، ملحد اور عقل و شرافت تک سے عاری ہو رہی ہے۔۔۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت سی براہیوں کی نفرت ہی دل سے نکل گئی ہے۔ کل جو کام شدموں اور لمحوں، فتنوں کے سمجھے جاتے تھے۔ اور جنہیں معاشرہ بے حد نفرت کی نظر سے ریکھتا تھا (بلکہ کہنا چاہئے کہ دیکھ نہیں سکتا تھا) آج وہ شرف کے گھروں میں "دیندار" حاجی نمازوں کے گھروں میں بغیر کسی روک ٹوک کے ہو رہے ہیں۔ خصوصاً عورتوں کی بے جا بی اور ریثیبو، فلم، ٹینی دی اور ویسی آر کے فتنوں نے عقل و شرافت کی ساری قدروں کو پالاں کر دالا ہے۔ بعض لوگوں کے کان میں شیطان نے یہ پھونک دیا کہ "میاں! آج برلنی کی اصلاح ممکن نہیں، زمانہ میرا آگیا ہے۔ تم لاکھ کموکون کسی کی سنتا ہے؟ بس تم اپنے کام سے کام رکھو"۔۔۔ اس القاء شیطانی کا اثر ہے کہ باطل اور شر نئے حوصلے نئے عزم اور نئے دلوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، مگر حق کے حاملین میدان وفا سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں اگر فرق و بخوبی کی پیش قدمی اور شروع باطل کی یلغار اسی طرح رہی، اور داعیان حق ایک ایک کر کے گوشہ عافیت میں پناہ لیتے رہے تو تو شہزادیوں سامنے ہے۔ اناللہ وانا الیه راجعون۔

ان تمام گزارشات کا مدعا یہ ہے کہ خیر و صلاح کے تمام حاملین اور بالخصوص

علمائے امت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس آفت زدہ معاشرہ کو خدا کے غصب سے بچانے کے لئے آگے بڑھیں۔ جب پورے محلے اور سیتی میں آگ پھیل جائے تو اس کا بچانا ہر اس شخص پر فرض ہو جاتا ہے جس میں اس کی ذرا بھی صلاحیت اور ہمت ہو جب کسی شہر اور سیتی پر غصیم (وشن کی فوج) حملہ آور ہو جائے اس وقت میدان جہاد میں کوڈ جانا ہر شخص پر فرض میں ہے۔ جسے فتنہ کی زبان میں ”نفیر عام“ کہتے ہیں۔ آج اسلامی معاشرہ فتن و نجور اور کفر و الحاد کی آگ میں جل رہا ہے، اور اس آگ کے شرارے گلی گلی اور کوچے کوچے پھیل رہے ہیں۔ آج اسلامی معاشرہ پر شروع باطل حق و نجور کا غصیم حملہ آور ہے۔ اور وہ تابعہ توڑ حملوں سے اسلامی عقائد اسلامی اثر ای اخلاق اور اسلامی معاشرت کو صفحہ ہستی سے منانے پر تلا ہوا ہے آج ہر اس شخص پر جو ذرا بھی مالی بدنی، سماں طاقت رکھتا ہو یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس آگ کو بچانے اور اس غصیم کا منہ توڑنے کے لئے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائے۔ اب بے فکری عافیت کوئی اور ہاتھ پر توڑ کر بیننے کی کوئی گنجائش نہیں:

وَكُرْنَتْ دِيْكَنْتَا سَاحِلَّ پَرْ سَارَهْ ذَوْ جَائِنْ گَے

وہا یہ کہ میں کیا کرتا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی ہمت و بساط کے مطابق خود بھی تبلیغ سے جڑ جائیے اور جہاں تک اپنا حلقہ تعارف ہے اس کو بھی دعوت کے کام میں جوڑا جائے۔ وَاللَّهُ الْمُوْفِقْ۔

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الْحَبْرِ حَذَنَدْ سِيرَنَا مُحَمَّدْ

رَدَلَدْ رَدِصَحَابَدْ رَدَارَلَدْ رَدِسَلْ

(ذوالحجہ ۱۳۹۹ھ)

## تعلیم برائے تعلیم نہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پدر رہوں صدی کے استقبال کی دو سالہ تقریبات کے پروگراموں میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ ان دوساروں میں تعلیم کو عام کیا جائے گا، بلاشبہ تعلیم انسانیت کا وہ خصوصی کمال ہے جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو مسحود ملائکہ بنایا گیا اور ان کے لئے خلافت (رضی) کی مندرجہ آرائی کی گئی۔ قرآن کریم نے علم کو حیات سے اور جہل کو موت سے تعبیر کیا ہے، اور آخری وجہ آسمانی کا پہلا پیغام ہی ”اُفْرَا“ سے شروع ہو کر ”وَعِلْمَ الْأَنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔“ پختہ ہوتا ہے، اس لئے نبی صدی کے استقبال کے لئے تعلیمی مہم کو بطور خاص پیش نظر رکھنا لائق تھیں انداز فکر ہے، لیکن اسی کے ساتھ، ہمیں یہ فرماؤش نہیں کرنا چاہیے کہ اسلام ”تعلیم برائے تعلیم“ کا نہیں بلکہ با مقصد تعلیم کا قائل ہے، اس لئے تعلیم کو عام کرنے میں ہم اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب کہ ہماری تعلیم کا ایک نظریاتی مقصد تھیں بھی ہو اور ہماری تعلیمی مہم اس مقصد کے حصول میں متعین و مفید بھی ہو، اس لئے اہم ترین سوال یہی ہے کہ ہماری تعلیم کا مقصد کیا ہے اور تعلیمی پالیسی اس مقصد کے حصول کے لئے کس حد تک مفید ہے؟ اس نکتے میں دو رائے ہیں ہو سکتیں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری

تعلیمی سرگرمیوں کا مرکز و محور اسلامی نظریہ ہے، اور اسلام و عالم اسلام کی سر بلندی اس کا پہلا اور آخری مقصد ہے۔ غالباً اس نکتہ میں کسی صاحب بصیرت کو اختلاف نہیں ہوگا کہ دنیا کا موجودہ تعلیمی نجح، تعلیم و تربیت کے وہ تقاضے پورے نہیں کرتا جو اسلام کی سر بلندی کے لئے ناگزیر اور عالم اسلام کے لئے لائق فخر کہلاتے ہیں، بلکہ دنیا کی موجودہ تعلیمی وبا نے اضطراب و بے چینی، جنسی انارکی و بے راہ روی، اساتذہ کی توہین اور مار پٹائی، انسانی اخلاق سے آزادی جیسے امراض کو عام کر دیا ہے، الغرض تعلیمی نجح کے بگاڑنے انسانیت کی کوئی خدمت نہیں کی، بلکہ تحریک پسندی کے جذبات کو فروغ دیا ہے، مغرب توہین سے اس نجح پر رواں دواں ہے، اب مغرب کی تقلید میں مشرق بھی اسی نجح پر چل لکا ہے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ موجودہ نظام تعلیم کو فروغ دیئے (یا دوسرے لفظوں میں تعلیم کو عام کرنے سے) کسی خیر کی توقع کی جاسکتی ہے؟

ہم ان کالموں میں تعلیمی بگاڑ کے اسباب و عمل کی نشاندہی اور اس کی اصلاح کے لئے تجویز پیش کرتے رہے ہیں، مگر فقارخانے میں طوپی کی آواز کے سنائی دیتی ہے؟ ہم ایک بار پھر مخلاصہ گزارش کریں گے کہ جب تک تعلیم، نظام تعلیم کو اسلامی خطوط پر مرتب نہیں کیا جاتا، جب تک ہمارے تعلیمی اداروں اور دانش گاہوں کو لا دین عناصر سے پاک نہیں کیا جاتا، جب تک مخلوط تعلیم کے رواج کو یکسر ختم نہیں کیا جاتا، جب تک تعلیم پانے والی نسل کی اسلامی اخلاق، اسلامی اعمال اور اسلامی نظریات کے مطابق تہذیب و تربیت کا صحیح انتظام نہیں کیا جاتا اس وقت تک ہماری تعلیمی مہم حصول مقصد میں ناکام رہے گی۔

تعلیم کی لائن میں ایک اور بات کی طرف بھی توجہ ضروری ہے، آج تقلید مغرب میں خواتین کی تعلیم بھی جدید نجح پر فرض سمجھ لی گئی ہے، اور کسی بندہ خدا کو

خواتین کی مغربی تعلیم کے بھائیک متاثر تک نہیں ہو رہا، آج سے نصف صدی قبل کے زمانے پر نظر دوڑائیے وہی ماگیں جنمیں آج کی مہذب دنیا "ان پڑھ" "ناخواندہ" اور "جالل" کہتی ہے، انہوں نے کتنی بڑی بڑی بلند و بالا شخصیتوں کو جنم دیا، سیاسی قائدین میں علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا حضرت موبائل، مولانا فخر علی خان اور مدھی قائدین میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمنی، مولانا مفتی محمد شفیع دغیرہ جو سیکڑوں نہیں ہزاروں نابغہ شخصیتوں ابھری ہیں انہوں نے کن ماوس کی آنکوش میں تعلیم و تربیت پائی تھی؟ اور اس کے مقابلے میں کانج اور یونیورسٹی کی تعلیم یافت مہذب خواتین کی آنکوش میں کون سی بلند پایہ شخصیتوں پر دان چڑھی ہیں، آپ وقت نظر سے ان دونوں کا موازنہ کریں گے تو اندازہ ہو گا کہ خواتین کی موجودہ تعلیم جدید انسانیت کے لئے کس قدر "زرخیز" ثابت ہوئی ہے؟

فہی اور ہمیشی دائرے میں ہم بے خدا قوموں سے بھی استفادے کر سکتے ہیں، لیکن دینی، اخلاقی، تہذیبی اور معاشرتی دائرے میں ہمیں کسی غیر قوم سے استفادے کی ضرورت نہیں، ہمارے تبی آخر ازماں ﷺ کی تعلیمات وہدیات نے ہمیں اس قدر مستحقی کر دیا ہے کہ ہم پوری دنیا کے معلم و مرشد کے فرائض انجام دے سکتے ہیں، جب کہ قرآن کریم نے "کُنُّتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ" میں اس کی صراحت فرمائی ہے، لیکن ہماری حالت اس کے برعکس یہ ہے کہ آج ہماری دینی تعلیم کا سلسلہ نب بھی مغرب کے یہودی مستشرقین تک پہنچتا ہے، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دینی موضوعات بھی ان اساتذہ کے پردو کے جاتے ہیں جو مستشرقین کے بلا واسطہ یا با واسطہ شاگرد ہوں، اور جنمیں نے کسی مغربی یونیورسٹی میں یا مغرب کے نجح پر مشرقی دانش گاہ میں ذاکریت

کیا ہو، اور پھر یہ سلسلہ مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور انہی حضرات کی کچھ کچی دینی معلومات کو رویہ یو، فی وی اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعہ قوم کے کافنوں میں ڈالا جا رہا ہے، اگر تعلیم کو اسلامی نظریہ سے ہم آہنگ کرنا اور اس کے ذریعہ ایک ایسی سلسلہ تیار کرنا مقصود ہے جو اسلامی تقاضوں کے مطابق انسانیت کی نازک ذمہ داریوں کو سنبھال سکے، تو ضروری ہے کہ اس صورت حال کی اصلاح کی جائے، اس لئے کہ جن حضرات نے یہودی اساتذہ کے مانند زانوئے تلمذ تھے کہ ہوں، وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔

(افتتاحیہ صفحہ اقرار دوز نامہ جنگ کراپچی ۷ دسمبر ۱۹۷۹ء)

## معاشرتی برائیوں کی اصلاح

گزشتہ میں کے ”بصائر و عبر“ میں جس درود کا اظہار کیا گیا تھا اور الہ علم اور الہ دین حضرات سے جس زخم کا مرہم تلاش کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ آج کی صحبت میں چند معروضات اسی سلسلہ میں پیش خدمت ہیں۔

ع ”من قاش فروش دل صدپارہ خویشم“

محرم الحرام ۱۴۰۰ھ سے چودھویں صدی کا آخری سال شروع ہو رہا ہے اور حکومتی و مین الاقوایی سطح پر پندرہویں صدی کے استقبال کی دو سالہ تقریبات اُسی سے شروع ہو رہی ہیں۔ جن کافشا اہمت مسلمہ کی اصلاح و ترقی اور اسلام کی سریلندي کی تداہیر سوچتا ہی ہو سکتا ہے۔ اس لئے۔ ”تقریب سخن“ کے طور پر اس مختصر سے اواریے کے چند فقرے دہرا دینے کو جی چاہتا ہے۔ جو راقم الحروف نے آج سے سات برس پہلے محرم الحرام ۱۳۹۳ھ کے شمارے میں ”شذور“ کے عنوان سے پرد قلم کیا تھا۔

”محرم الحرام سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ گواہیت نبوی“

(علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) سے اب تک (۱۴۰۰ھ کے آغاز تک)

زنادہ گروش ایام کی تیرہ سو بانوے مشریعیں مٹے کر چکا ہے اور آج سے تھیک آٹھ سال بعد زنادہ صد سالہ کوٹ بدل کر چودھویں

صدی سے پورہویں صدی میں منتقل ہو جائے گا۔

”صدی کا آخری حصہ عموماً تنزل و انتظام کا دور ہوتا ہے،“

گزشت چند سالوں میں امت جن حوادث سے دوچار ہوئی، انسانی قدریں جس تیزی سے پالا ہوئیں، انسانیت کے آلام و مصائب میں جس سرعت سے اضافہ ہوا، اور ملت اسلامیہ پر ابتلاء آزمائش کے ہو پہاڑ نوئے، اگر آئندہ آنھ سالوں میں پستی و تنزل کی یہی رفتار رہی تو نہیں کہا جا سکتا کہ چودھویں صدی کے اختتام تک دنیا انتظام کے کس نقطے تک جا پہنچ گی۔“

”..... آج جب کہ بجزی ہوئی انسانیت میں اپنے خالق سے بغاوت و برخشنک کی فضاعام ہے، احکام الیہ کو توڑا جا رہا ہے، مادیت کا قتنہ اطراف عالم کو محیط ہے۔ ایسے حالات میں جو لوگ اپنے کرم آتنا سے دفالواری کا ثبوت پیش کریں گے انہیں بیش بہاعلامات کی دولت سے نوازا جائے گا۔“

”..... مگر خود مادیت کے گرداب سے نکل کر ایمان و یقین کی لائن پر پڑنا، اور بندگان خدا کو اس کی دعوت دینا بغیر اس کے ممکن نہیں کہ وقف و قفة کے بعد کچھ وقت نکال کر اللہ والوں کی پاکیزہ مجلسوں میں حاضری دی جائے۔ ہر محلہ کی مسجد کو محلہ والوں کی دینی ضروریات، اور ایمان و عمل کی دعوت کا مرکز بنایا جائے۔ ہر گھر کو ذکر و تلاوت سے معمور کیا جائے۔ اور اس کے لئے اتنی محنت کی جائے کہ ہر مسلمان کا رابطہ مسجد سے استوار ہو جائے۔ بس یہ ہے آج امت کی سب سے بڑی ضرورت۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

اول صلاح ہند الامۃ الیقین والزهد واول فسانہا  
البحل والا ملن۔

(مختصر حسن ۴۵)

ترجمہ : اس امت کی درستگی و اصلاح کا آغاز آخرت کے یقین اور دنیا سے بے رغبتی سے ہوا، اور اس کے بگاڑ کی ابتداء بجل اور بھی امید سے ہوگی۔

آج الامان شاء اللہ امیر و غریب، مزد و زن پچھوئے بڑے اور عالم و جہل سب میں "زہد و یقین" کا وصف دھندا چکا ہے، اور اس کی جگہ دنیا کے مال و جہا "منصب و اعزاز" ساز و سلامان اور یہاں کی شان و شوکت ہی کو اصل مقصد بنا لیا گیا ہے۔ ایک مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محض رضاۓ خداوندی کے حصول اور آخرت کی تیاری میں صرف ہونا چاہئے، مگر ہماری زندگی کا شاید ہی کوئی لمحہ اس کے لئے فارغ ہو۔ دنیوی مشاغل، دنیوی آسانیں کی فکر، دنیوی عزت و جہا کے حصول کی وہن، اور دنیا کی لغویات میں ایک دوسرے سے برتری کا جذبہ کچھ ایسا غالب ہے کہ آخرت کے سب سے بڑے امتحان کی تیاری اور اس میں کامیابی و ناکامی کا خیال بھی (خوش نصیب لوگوں کے سوا) مدقوق نہیں آتا۔ تاجر اپنی تجارت میں ملازم اپنی نوکری میں، ماشینکار اپنی کھیتی باڑی میں، صنعت کار اپنی صنعت میں، مزدور اپنی مزدوری میں، امیر اپنی مادرت کے نش میں اور غریب اپنی غربت کے غم میں کچھ ایسا مگن ہے کہ اس کے شب و روز کے نظام الادوات میں آخرت کی تیاری کے لئے بظاہر گنجائش ہی نہیں — اور عجیب تر ہات یہ ہے کہ آخرت اور صرف آخرت کی بات کرنے والا اور خدا اور صرف خدا کی دعوت دینے والا احمد سمجھا جاتا ہے۔ — ان اللہ و ان اللہ الیہ راجعون۔

ہے۔ اور جن قلوب کو غفلت کی ویک چاٹ جائے وہ بالآخر متاع ایمان کے پچانے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ اس لئے آج امت کو ایک ایمانی دعوت کی ضرورت ہے جو اسے خواب غفلت سے بیدار کر دے۔

اسے تعلق مع اللہ اور شوق آخرت کے ایک ایسے والمانہ ولوں کی ضرورت ہے جو اس کے دنیوی مشاغل پر غالب آنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اسے ایسے نور بسیرت کی ضرورت ہے جو حق تعالیٰ شانہ کی خالقیت و رزاقیت اور اسباب سے بالآخر اس کی حکیمانہ روایت کا مشاہدہ کر سکے اور یہ بات دل کی گمراہیوں میں اتر جائے کہ معیشت کے تمام اسباب و ذرائعِ محض "اسباب" کی حیثیت رکھتے ہیں حق تعالیٰ کی روایت ان اسباب کی محتاج نہیں۔ بلکہ یہ اسباب خود مشیت اللہ کے تابع ہیں۔ اگر حق تعالیٰ سے بندے کی عبدیت کا رشتہ صحیح ہو تو حق تعالیٰ ان اسباب کے بغیر بھی اس کی پوری شرح فراہم کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے زمانہ کی شدت کا تذکرہ فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ایسی شدت اور ایسے سخت انتباک وقت مسلمانوں کا کیا حال ہو گا؟ فرمایا :

يَحْزُهُمْ مَا يَعْرِزُ أَهْلُ السَّمَاءِ مِنَ التَّسْبِيحِ  
وَالْتَّقْلِيدِ۔

(مکہۃ الرَّحْمَۃِ ص ۲۷)

ترجمہ : "جو تسبیح و تقلید آسمان والوں کو کام دیتی ہے وہی ان کو بھی کافی ہوگی۔"

اگر مسلمانوں کو ایسی ایمانی فضا اور ایسی ایمانی تحریک سے وابستہ ہونے کی سعادت نصیب ہو جائے تو یہود و نصاری اور بے خدا قوموں کی تقلید جس پر آج فخر کیا جاتا ہے۔ ان کے لئے موبہب نجک و عار اور باعث شرم و خجالت بن جائے۔ اور

دین سے یہ غفلت و بے پرواںی "محابیہ" آخرت سے اس قدر بے فکری اور دنیا کی لذات میں اس قدر انہاںک بڑے خطرے کی نشاندہی کر رہا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے "کلابیل ران علی فلوبهم" یہی غفلت بڑھتے بڑھتے والوں کا زنگ بن جاتی

رحمۃ اللعائین علی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ۔ ہے آج حیر سمجھا جاتا ہے۔ اس کی قیمت ہفت اقیم کی دولت سے بالآخر نظر آئے گے۔

## احساسِ ذمہ داری

بسم اللہ الرحمن الرحيم

زندگی احساس و شعور کا نام ہے اور احساس و شعور باقی نہ رہے تو اسے موت سے تعبیر کیا جاتا ہے، قوموں کی زندگی کا پیمانہ بھی ذمہ داریوں کا شعور ہے، ایک زندہ قوم وہی کہلاتی ہے جس کا ہر طبقہ بلکہ ہر فرد اپنے فرائض کا شعور رکھتا ہو اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض کو بجا لاتا ہو، اس کے برخلاف جب قوم اپنے فرائض کے شعور سے محروم ہو جائے تو یہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ایک زندہ قوم کی طرح اپنے اندر بگد و دو کی صلاحیت نہیں رکھتی۔

تو میں اپنے افراد و طبقات کے فرائض، رسم و رواج اور احوال و ظروف کے پیمانے سے متعین کرتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی یہ خصوصیت ہے کہ ان میں سے ہر فرد اور ہر طبقہ کے فرائض صرف معاشرتی رسوم و قیود کے رہیں ملت جیسیں بلکہ وہی آسمانی نے وہ فرائض ان کے ذمہ عائد کئے ہیں، اس لئے مسلمانوں کی قوی زندگی کی انشودہ نما اس پر مخصر ہے کہ ان میں سے ہر فرد اور ہر طبقہ ان حقوق و فرائض کو کہاں تک بجا لاتا ہے، جو حکم الحکمیں کی طرف سے اس پر عائد کئے گئے ہیں، اور پھر دوسری قوموں کے سامنے فرائض بجا لانے یا نہ لانے پر محاسبہ آخرت کا کوئی تصور نہیں، لیکن ایک

دین سے غفلت و بے پرواٹی کا ایک افسوسناک پلو یہ ہے کہ دنیا کی معمولی سے معمولی چیز کے بارے میں تو ہمارا تصور یہ ہے کہ وہ گھر بیٹھے بخالے نہیں مل جاتی۔ بلکہ اس کے لئے مخت لازم ہے۔ دنیا کا کوئی اونی سے اونی کب اور پیشہ بھی سکھے بغیر نہیں آتا۔ بلکہ اس کے لئے ناک رگڑنے کی ضرورت ہے۔ مگر دین کے بارے میں یہ تصور قائم کر لیا گیا کہ نہ اس کے سکھنے کی ضرورت ہے۔ اور نہ جدوجہد و عمل کی۔ بس گھر بیٹھے بخالے نہیں یہ دولت حاصل ہے۔ یہ دین کی حقیقت سے نا آشنا اور اس کی عظمت سے بے خبری کی دلیل ہے۔ اور اس تصور کا منشاء اور اصل یہ ہے کہ ہمیں دین کی ضرورت کا احساس نہیں۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زندگی دین اور دینی مشاغل کے بغیر بھی بہر حال گذر جاتی ہے۔ اور اگلی زندگی پر وہ غیب میں ہے۔ اس لئے بہت سے لوگوں کے لئے یہ سمجھنا بھی مشکل ہو رہا ہے کہ آخر دین کے حصول کے لئے مخت کرنے، جان و مال کھپانے، خون پیغد ایک کرنے اور دربار کی ٹھوکریں کھلانے کی ضرورت ہی کیا ہے، اسی تصور اور اسی احساس کا نتیجہ ہے کہ دینی اعمال و اشغال ہماری زندگی سے نکل رہے ہیں مگر ہمیں ان پر کوئی قلق نہیں۔ افسوس! کہ جو چیز سب سے زیادہ ضرورت کی تھی، جس پر ہماری ساری کامیابیوں کا انحصار تھا اور جس پر ابد الابد کے لئے ہماری قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے، آج ہمارے ذہن کا ایک ایک گوشہ اس ضرورت کے تصور سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔

(اسلامی صفحہ اور زندگی کا پیشہ ۱۹۷۹ء)

مسلمان کے لئے ہر قدم پر اس کا دھڑکا ہے کہ اس سے اس کی باز پرس ہوگی،  
آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

”عَنْ عَدَالِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كُلُّكُمْ رَاعٌ وَكُلُّكُمْ مَسْتَوْلٌ  
عَنْ رَعِيهِ. فَالْأَمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٌ وَهُوَ مَسْتَوْلٌ  
عَنْ رَعِيهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْتَوْلٌ عَنْ  
رَعِيهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوْلَدِهَا، وَهِيَ  
مَسْتَوْلَةٌ عَنْهُمْ، وَعَدَالُ الرَّجُلِ رَاعٌ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ  
مَسْتَوْلٌ عَنْهُ، إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٌ وَكُلُّكُمْ مَسْتَوْلٌ عَنْ رَعِيهِ.  
(مک浩ۃ ص: ۳۲۰)“

ترجمہ: ”یاد رکھو! تم میں سے ہر شخص کو نگہبان مقرر کیا گیا ہے، اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی ماتحت رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی، پس سربراہ مملکت جو سب لوگوں کا حاکم ہے وہ ان سب کا نگہبان ہے اور اس سے رعیت کے ایک ایک فرد کے بارے میں باز پرس ہوگی، ایک عام آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے، اس سے اپنے زیر رعیت لوگوں کے بارے میں باز پرس ہوگی، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگران ہے، اس سے ان کے بارے میں باز پرس ہوگی، اور گھر کا ہنور کے آقا کے مال کا نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی، یاد رکھو! کرم میں سے ہر شخص نگران ہے، اور

ہر شخص سے اس کی ماتحت رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔“  
ایک مسلمان اپنے فرائض حیکم اسی وقت ادا کرتا ہے جب کہ اسے  
یہ علم ہو کہ اس کے منصب و عنبدہ کے مطابق اس کے ذمہ حکم الحکمین کی طرف سے کیا  
فرائض عائد کے گئے ہیں؟ اور اسی کے ماتحت اسے یہ شعور و احساس بھی ہو کہ اگر میں  
نے اپنے فرائض میں ادا یا غلط و لاپرواہی یا خیانت و بدیدیانتی روکنے کی تو مکمل  
مجھے سب سے بڑی عدالت میں اس کی جوابدی کرنی ہوگی، اسی لئے شیخ سعدیؒ نے  
اپنے بادشاہ کو صحیح کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایسے لوگوں کو افسوس نہ بنائیے جو آپ سے  
ڈرتے ہوں، بلکہ ایسے لوگوں کو بنائیے جو خدا سے ڈرتے ہوں، کیونکہ آپ کی نظر سے  
ان کی کارروائی اچھی ہو سکتی ہے، مگر وہ خدا کی نظر سے چھپ کر کہیں نہیں جا سکتے۔

مسلمانوں کا کوئی فرد جو اپنے فرائض کا شعور و احساس بھی رکھتا ہو اور ”یوم الدین“ کے حساب پر اس کا لیندن بھی ہو وہ جانتا ہے کہ وہ اپنے فرائض کی ادا یا غلط میں  
کسی غلطی یا بدیدیانتی کا مرکب نہیں ہو سکتا اسے اگر رشتہ پیش کی جائے تو اس کا  
دین و تقویٰ اس کے ماتحت پکڑ لے گا، اور اسے یہ احساس دلائے گا کہ یہ ذہر ہے، اور  
زہر کھانے کے بعد ممکن نہیں کہ وہ تمہارے پورے وجود میں سراہیت نہ کر جائے، وہ  
سرکاری خزانے کو خدا کی امانت تصور کرے گا اور اسے یہ شعور ہو گا کہ اگر وہ اس امانت  
میں ایک پائی کی خیانت کا بھی مرکب ہوا تو حکم الحکمین کی عدالت میں اسے اگنا  
ہو گی، وہ وفتر میں کام کے اوقات کو گپٹ چپ چائے تو شی اور محفل آرامی میں ضائع  
نہیں کرے گا، کیونکہ اسے شعور ہو گا کہ اس کی تխواہ اسی وقت حلال ہو گی جب کہ وہ  
اس وقت کو جو اس کے فرائض کی انجام دتی کے لئے مقرر کر دیا گیا ہے، خدا کی امانت  
سمجھ کر استعمال کرے، اگر اس نے ان مقررہ اوقات میں اپنا ”فرض وقت“ ادا نہ کیا تو

وہ خدا کی عدالت میں خائن شاربوجا اور اس کی تجوہ مدحram میں تصور گی جائے گی، اور اس خیانت اور مدحram خوری پر اس سے باز پرس ہوگی۔

۱:.....انسان جب اس عالم رنگ و بو میں قدم رکھتا ہے تو تعلقات کی ایک وسیع دنیا ساتھ لاتا ہے، یعنی دو طرفہ تعلقات حقوق و فرائض کا تعین کرتے ہیں، وہ بیٹا ہے تو اس پر ماں باپ کے حقوق عائد ہوتے ہیں، باپ ہے تو اولاد کے حقوق اس پر لازم ہیں، شوہر ہے تو یہوی کے حقوق کا طومار اس کی پشت پر ہے، یہوی ہے تو شوہر کے حقوق کا ہمار اس کے گلے میں ہے، حاکم ہے تو زیر حکومت رعایا کے حقوق کے طوفان کا اس کو سامنا ہے اور حاکم ہے تو حاکم کے حقوق کا تاوان اس کے سر ہے۔ الغرض یعنی نوع انسان کا کوئی فرد ایسا نہیں کہ مختلف قسم کے حقوق و مطالبات کی زنجروں میں بندھا ہوا نہ ہو۔

۲:.....جو حقوق لوگوں کے آپ کے ذمہ ہیں وہ آپ کے لئے "فرائض" کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جو حقوق آپ کے لوگوں کے ذمہ ہیں وہ دوسروں کے "فرائض" میں شامل ہیں۔ گویا ایک ہی چیز ایک حیثیت سے "حق" کہلاتی ہے اور دوسری حیثیت سے فرض۔ مثلاً یہوی کا ننان و نفقہ اس کا حق ہے، اور شوہر کے ذمہ اس کی ادائیگی فرض و لازم ہے۔ شوہر کی اطاعت و فرمائیداری اس کا حق ہے اور یہ یہوی کے ذمہ فرض ہے، ماں باپ کی خدمت و تعلیم ان کا حق ہے اور اولاد کا فرض ہے۔ پھر کی تعلیم و تربیت ان کا حق ہے اور ماں باپ کا فرض ہے۔ رعایا کی مگہداثت اور اسے ظلم و عدوان سے بچانا، رعایا کا حق ہے اور حاکم کا فرض ہے۔ اور جائز امور میں حاکم وقت کی اطاعت اس کا حق ہے اور رعایا پر فرض ہے۔

۳:.....اگر پورا معاشرہ یا کم از کم اس کی غائب اکثریت اپنے وہ حقوق و

فرائض بجا لاتی ہو جو دوسروں کے اس کے ذمہ ہیں تو دنیا میں کسی کو کسی سے شکایت نہیں رہے گی۔ کیونکہ جب والدین، اولاد کے تمام حقوق پورے اخاس ذمداداری کے ساتھ ادا کر رہے ہوں، اولاد ماں باپ کے حقوق تجھیک تجھیک بجا لارہی ہو، شوہر یہوی کے اور یہوی شوہر کے حقوق میں کسی غلط و کوتاہی کی مرکب نہ ہو۔ حاکم اپنے ماتھوں کے اور ماتحت اپنے حاکم کے حقوق نہایت اخلاص اور تندی سے پورے کر رہے ہوں تو کسی کو کسی سے شکایت نہیں رہے گی۔

۳:.....ظلم و عدوان اور بے انصافی کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب آدمی اپنے حقوق کا مطالبہ تو خوب شدود کے ساتھ کرے، لیکن خود اس کے ذمہ جو حقوق عائد ہیں اور جن کا ادا کرنا اس کے فرائض میں شامل ہے، جن پر اس سے باز پرس ہوگی اور جب تک اس حقوق اپنے حقوق وصول نہیں کر لیتے یا اسے معاف نہیں کر دیتے اس کی رہائی کی کوئی صورت نہیں۔ ان کے ادا کرنے کی کوئی فکر نہ کرے۔

۴:.....اسلام کے فلسفہ اجتماع اور دور جدید کی تحریکوں کے درمیان بینادی فرق یہی ہے۔ اسلام لوگوں کو حق طلبی پر نہیں اسکا تاہم ہے بلکہ شخص کی گردن وبا کر اس سے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا خود مطالبہ کرتا ہے۔ مثلاً وہ حاکم وقت کو آگاہ کرتا ہے کہ:

"ما من درجل يلى امر عشرة فما فوق ذلك الا  
اتاه الله عز و جل معمولاً يوم القيمة يده الى عنقه فكه  
بره او اوبقه انهمه۔"  
(مشکوہہ ص ۳۲۳)

ترجمہ:...."جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دس آدمیوں پر بھی حاکم بنایا وہ قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں اس طرح

لایا جائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں حائل ہوں گے، پھر یا تو اس کا عدل و انصاف اس کو رہائی دلا دے گا، یا اس کا ظلم اس کوہلاک کر دے گا۔“

اسلام نے یہ اعلان کر کے رعایا کو مطالبات کا جمنڈا اخنانے سے بے گفر کر دیا اور حق ادائی کی ساری ذمہ داری حاکم پر ڈال دی کہ اس کے دور حکومت میں جن جن لوگوں کی بھی حق تلفی ہوئی ہوگی، احکم الحاکیین کی سب سے بڑی اور آخری عدالت میں اسے ایک ایک کا حساب چکانا ہوگا۔ اسی طرح اسلام یہ لوگوں کے حقوق متعین کرتا ہے اور شوہروں سے ان کے ادا کرنے کا مطالبه کرتا ہے، وہ مزدوروں اور محنت کشوں کے حقوق متعین کرتا ہے، اور آجروں سے ان کی ادائی کا مطالبه کرتا ہے۔ وہ ہمسایوں کے حقوق متعین کرتا ہے اور ان کی ادائی کا مطالبه کرتا ہے۔ الغرض اسلام کا فلسفہ اجتماع یہ ہے کہ وہ حق طلبی کی ذہنیت پیدا نہیں کرتا، بلکہ ذمہ دار یوں کا احساس دلا کر ہر شخص کو اس کے ذمہ عائد شدہ فرائض ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسلام کے نظام حقوق و فرائض کی فہرست اس قدر طویل اور اتنی دلکش ہے کہ اس پر ایک نظر ڈال لینے سے یہ یقین رانج ہو جاتا ہے کہ ان حقوق و فرائض کا تھیک تھیک تعین خدا تعالیٰ کے علم حیطے کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔

۶:..... اس کے بالکل برعکس دور جدید کا فلسفہ ہے جو "حقوق، حقوق" کا شور محشر تو برپا کرتا ہے، مگر کسی کو حق ادائی پر رامگنجت نہیں کرتا۔ وہ محنت کشوں سے کہتا ہے کہ تم اپنے حقوق کے لئے جنگ کرو مگر کام بالکل نہ کرو۔ اس کے نزدیک ہر قابل، تالہ بندی اور کام چھوڑ تحریک ہی کا نام مزدور کے حقوق کی حفاظت ہے۔ وہ سرمایہ کاروں سے کہتا ہے کہ محنت کشوں کے خون کا آخری قطرہ بھی چھوڑ لو۔ مگر ان کے

حقوق ادا کرنے کا کوئی احساس نہیں دلاتا اور جب تک ذمہ دے کے زور سے حقوق نہ مانگے جائیں سب تک ان کا کوئی مطالبہ قابل پذیرائی نہیں، وہ عورتوں کو تلقین کرتا ہے کہ شوہروں کے مقابلے میں صرف آرا ہو جائیں۔ اور اپنے حقوق کا مطالبہ لیکر سڑکوں پر تلقین، مگر عورتوں کو یہ تلقین کبھی نہیں کرتا کہ خود ان کے ذمہ جو حقوق ہیں ان کی بجا آدمی کی بھی کچھ فکر کریں۔ خاصہ یہ کہ دور جدید کا فلسفہ مطالبات اور حقوق طلبی کی آگ تو بھر کاتا ہے مگر معاشرے کے کسی فرد کے ضمیر پر دلکش دے کر اس بات پر آمادہ نہیں کرتا کہ وہ اپنے ذمہ عائد شدہ حقوق ادا کرے۔

۷:..... اب اسلام کے فلسفہ اجتماع اور دور جدید کے فلسفہ کا قائمی مطالعہ کیجئے۔ جب تک مسلمان اسلام کے پیدا کردہ احساس ذمہ داری سے آراستہ رہے، دنیا میں دسکون کا گہوارہ تھی، اور معاشرہ کا ہر فرد اپنی جگہ مطمئن تھا۔ لیکن جب سے احساس ذمہ داری کا فتنہ ان ہوا، اس کی جگہ خود غرضی اور حق طلبی کا طوفان برپا ہوا معاشرہ کا ہر فرد اپنی جگہ پریشان اور ایک دوسرے سے دست و گریبان ہے۔  
(روزنامہ جگ صحیح اقراء ۳ جولائی ۱۹۸۰ء)

## دورِ جدید کی مظلوم ترین صنف!

دورِ جدید کے ترقی یافتہ انسان کو بعض لوگ انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان سمجھتے ہیں لیکن ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ آج کی نئی دنیا میں نئی تہذیب، نئی تعلیم، نئی معاشرت اور نئی ایجادات کی بدولت انسان جس قدر مظلوم ہے شاید تاریخ کے کسی دور میں نہیں رہا ہوگا اور آج وہ (سب کچھ موجود ہونے کے باوجود) جس طرح خود اپنے ہاتھ سے روشن کئے ہوئے الاؤ میں جل رہا ہے شاید اس سے پہلے کسی نے اس حماقت کا بھی تجربہ نہیں کیا ہوگا!

دورِ جدید کا انسان نہیں جانتا کہ راحت و سکون کس چیز کا نام ہے؟ دل کا قرار، روح کی شادمانی، آنکھوں کی سختی اور جمعیت قلب کے کہتے ہیں؟ وہ شاندار بنگلے بتاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے سکون قلب ملے گا، محمدہ سے عمدہ فرنچیز اور پر لکف ساز و سامان سے گھر کو سجاتا ہے۔ سوچتا ہے کہ یہ چیزیں راحت پہنچائیں گی۔ بہترین فرش و فروش ہے، شاندار گاڑیاں ہیں، نوکر ہیں، لاٹکر ہے، کروفر ہے، محمود و نماش ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن لذت و سکون عمر بھر میں بھی ایک لمحے کے لئے بھی نصیب نہیں۔ حد یہ ہے کہ رات کی نیند بھی نہیں، بلکہ خواب آور گولیوں کے ذریعہ لائی جاتی ہے، آج کا انسان خوشنما چیزوں اور راحت کے ظاہری اسباب میں راحت و

سکون کا مثالی ہے، وہ نہیں جانتا کہ یہ چیزیں اسباب راحت نہیں بلکہ موجب پریشانی ہیں۔

نئی دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم نئی نسل خصوصاً لڑکیاں ہیں جن کی ہر انسانی قدر کوئی تہذیب، نئی تعلیم اور نئے سماج کے بے رحم پیہے نے پیش ڈالا ہے اور ان کے ”اندر کے انسان“ کو محمود نماش اور ظاہری رح و حج کی قربان گاہ پر ذبح کر دیا ہے۔ اس کی بدولت بہت سی لڑکیاں ہیں جو جو ہر نسوانی سے محروم ہو گئیں، بہت سی ابھننوں کے جال میں پھنسی ہوئی ہیں، بہت سی اندھے ماں باپ کی سلاکی ہوئی بھیں میں جل رہی ہیں۔ اسی طرح کی ایک مظلوم لڑکی کا خط پڑھئے:

”میں ایم، ایس، سی کرنے کے بعد ایک مقامی اسکول میں پڑھا رہی ہوں، تمین بھائی بڑے ہیں، میں اکلوتی بیٹی ہوں۔ ابا جان ریتا رہا ہے، خدا کے فضل سے گھر میں ہر چیز ہے، خوش حال ہیں، لیکن پریشانی اس بات کی ہے کہ بھائی تو اپنا اپنا رشتہ کروا پچھے ہیں، اپنی رضاہی سے۔ اب میرے بارے میں تو کوئی کبھی سوچتا ہی نہیں ہے۔ ویسے ہمارے خاندان میں تمام لڑکیاں سکونواری ہی ہیں (اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہی حکم ہو گا یا پھر والدین کو شش ہی نہیں کرتے) نتیجہ یہ لکھتا ہے کہ بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں، بہنیں ان کی خواجہ بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے ماں باپ کی آپس میں کچھ زیادہ بات چیت بھی نہیں۔ اب پریشانی یہ ہے کہ میں بھی یونہی بوڑھی ہوئی جا رہی ہوں، اور جب ماں باپ کی آنکھ کھلے گی تو رشتہ دیکھنے

دلے بڑی عمر کی لڑکی کہہ کر مکھرا دیں گے۔ اب آپ خدا را مجھے یہ بتائیے کہ میں کیا کروں، والدین کی مرضی مجھے سب سے زیادہ مقدم ہے، اور زندگی میں کبھی کوئی ایسا ویسا کرنے کی ذہن میں لاتی تھی نہیں ہوں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے نیک کرے۔ مجھے شادی کا قطعاً کوئی شوق نہیں، بلکہ صرف یہ سوچتی ہوں کہ ماں باپ کے بعد میرا بھی وہی ہوگا جو کہ دوسری لڑکیوں کا ہو رہا ہے۔ سارا وقت بس یہی پریشانی لگی رہتی ہے۔ اور گھر میں سب یہی کہتے ہیں کہ تم ناشکری ہو۔ اب دل کی بات تو میں کسی کو نہیں بتاتی، کہیں وہ لوگ میرے بارے میں غلط فہمی نہ لے آئیں۔ ساری داستان سنانے کا مقصد آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ میں کیا کروں؟“

یہ ان بے شمار خطوط میں سے ایک خط ہے جو ہمیں آئے دن بچوں کی طرف سے موصول ہوتے ہیں۔ اس پچی نے جس عجین سلسلہ کی طرف اشارہ کیا ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس میں آج ہماری ہزاروں بچیاں بتلا ہیں، اس نے سیکروں خاندانات بنا کر ڈالے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سے شریف خاندانوں کی عزت خاک میں مل گئی ہے۔

اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ لڑکی بالغ ہو جائے تو فوراً اسے اس کے گھر آباد کر دیا جائے، لیکن مسلمانوں کا عمل یہ ہے کہ والدین کی آنکھیں تب بھلیں ہیں جب لڑکی اپنا راست خود تلاش کر لیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس سماجی الجھن کے اسباب کیا ہیں؟ اور اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟

ہمارے نزدیک اس کا پہلا سبب وہ جھونٹا غرور و پندرہ ہے جس کی وجہ سے بہت سے لڑکے، لڑکیاں اور ان کے والدین اپنے آپ کو عام دنیا سے ایک الگ مخلوق سمجھنے لگتے ہیں، اور انہیں کوئی رشتہ پسند ہی نہیں آتا۔ وہ کسی کو اپنے معیار کا آدمی تصور کرتے ہیں، اس کا متوجہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ طے کرنے کا طبعی وقت گزر جاتا ہے اور پھر کوئی ”غیرمعیاری“ رشتہ بھی میر نہیں آتا۔

ایک سبب محمود نمائش اور معیار زندگی کو بلند کھینچنے کا جذبہ ہے، جب تک شادی پر لاکھوں کا خرچ نہ ہو شادی کو عار سمجھتے ہیں، اس نمائش کے لئے ہر جائز و ناجائز ذریعہ سے حرام کامال جمع کیا جاتا ہے اور سودی قرض لینا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ لڑکے والوں کے لئے شادی کرنا بھتی باندھنے کے متراوف سمجھا جاتا ہے، اور لڑکی والوں کے لئے جیزیز کی تیاری و بیال جان بن جاتی ہے، گویا ہمارے یہاں شادی، خانہ آبادی کا نام نہیں، بلکہ خانہ بر بادی کا مظہر ہو کر رہ گئی ہے حالانکہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد یہ ہے کہ:

”سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس پر سب سے کم اخراجات ہوں“

لیکن ہمارا جھونٹا جذبہ نمائش ہمیں ارشاد نبوی پر عمل کرنے نہیں دیتا، سادگی کے ساتھ سنت نبوی کے مطابق شادی کرنا عار سمجھا جاتا ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ آج کل لوگوں پر لڑکیوں کو پڑھانے لکھانے کا جنون سوار ہے، سولہ سترہ سے لے کر تیس بائیس برس تک پڑھائی میں خرچ ہو جاتے ہیں، پھر تعلیم سے فراغت کے بعد والدین چاہتے ہیں کہ جس کی تعلیم پر لاکھوں روپیہ خرچ ہوا ہے اب وہ انہیں کچھ کہا کر بھی کھلانے۔ یہ جنون بھی تقلید مغرب کی پیداوار ہے،

اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ لاکھوں کو بس ان کے دینی و عالمی فرائض کی تعلیم دی جائے اور ان کی اصلاح و تربیت اس انداز سے کی جائے کہ وہ اپنے گھر کو نمونہ جنت بنا سکیں اور اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں۔ ان ساری گزارشات کا مقصد یہ ہے کہ بچیوں کو جوان ہونے کے بعد خانہ آبادی سے محروم رکھنا ایک بدترین ظلم ہے، جسے اسلام کی قیمت پر گوارا نہیں کرتا، آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ:

”جس کی اولاد جوان ہوگی اس نے ان کا عقد نہ کیا اور وہ کسی گناہ میں ملوث ہو گئے تو اس کا وباں والدین کی گردان پر بھی ہوگا۔“

اس لئے والدین کا فرض ہے کہ جب بچی پدرہ سال کی ہو جائے تو نمود و نماش کے سارے قصوں کو چھوڑ کر فوراً اس کا عقد کر دیا جائے۔  
(روزنامہ جگ سلطہ اقراء ۱۸ جنوری ۱۹۸۰ء)

## دین و شریعت کا کھلاؤ مذاق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

کچھ عرصہ سے ہمارے یہاں رنچ الاول میں سیرت کافرنیس منعقد کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں صحیح مقصد، صحیح جذبے اور صحیح طریقے سے سرکار دو عالم ﷺ کی سیرت سننے اور سنانے کا اہتمام ہوتا تو نہ صرف ہم سب کے لئے وہ باعثِ سعادت ہوتا بلکہ اس سے ہماری بھروسی ہوئی زندگی سنور سکھی تھی، سیرت طیبہ کی تو خاصیت یہ ہے کہ اگر اسے صحیح جذبے اور صحیح طریقے سے سناؤ اور سنایا جائے تو اس کا ایک ایک لفظ زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کے لئے کافی ہے لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ ہم سالہا سال سے رنچ الاول کے مینے میں نہایت دھوم دھام سے سیرت کافرنیس منعقد کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں ان اجتماعات کا کوئی معمولی اثر بھی ظاہر نہیں ہوتا۔

غور طلب بات یہ ہے کہ کیا ان کافرنیسوں کے منعقد ہونے کے بعد کافرنیس کے معزز مقالہ تکار حضرات اور سامعین میں سے کسی نے بھی اپنی عملی زندگی، اپنے عادات و اطوار، اپنے کردار و عمل، اپنی سیرت و صورت، اپنے طرزِ معاشرت، لباس و پوشش، وضع قطع غرض کسی چیز میں کوئی تبدیلی کبھی پیدا کی؟  
انہائی حسرت و افسوس اور غیرت و شرم کا مقام ہے کہ جب کبھی ہم اپنے

گریبانوں میں منوال کر اس سوال کا جواب بتا شکر تے ہیں تو ہمیشہ جواب فتحی میں ملتا ہے، لہذا ہمارے لئے سب سے بڑا الحجہ فکر یہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ کی ہو سیرت طیبہ زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لئے آئی تھی، اور جس نے صدیوں تک یہ انقلاب پیدا کر کے دکھایا ہے، آج اسی سیرت کے نام پر منعقد ہونے والی یہ زرق بر ق مجلسیں اس قدر بے اثر کیوں ہو کرہ گئی ہیں؟

اگر ہمارا اس بات پر اعتمان ہے، اور یقیناً ہے کہ سرکار دو عالم رحمۃ للعالیین علیہ کی سیرت طیبہ اس روایت زمین پر شرافت و انسانیت کا سب سے زیادہ جامع، مکمل اور دلکش ثبوت ہے، تو پھر ہماری سیرت کافر نسوں کے بے اثر ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوانحیں ہو سکتی کہ ان کافر نسوں کو منعقد کرتے وقت ہمارا مقصد، ہماری نیت، ہمارا جذبہ اور ہمارا طریق کا درست نہیں ہوتا، ہم یہ کافر نسیں اس لئے منعقد نہیں کرتے کہ ان سے کوئی عملی سبق حاصل کریں، بلکہ ہم انے دین قوموں کی ولیں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن کا نہ ہب صرف اپنے آبا و اجداد کے نام پر کچھ تھوار منایتے سے عبارت ہے، ہم ان کافر نسوں میں اس غرض سے شریک نہیں ہوتے کہ سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر اپنی عملی گمراہیوں اور غلطیوں کا سد باب کریں، بلکہ صاف گولی معاف! ہمارے پیش نظر اپنے علم و فضل اور زور بیان کی نمائش ہوتی ہے، ہم ان کافر نسوں کے سامنے میں اس غرض سے شامل نہیں ہوتے کہ سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کر کے ہی اپنے انداز زندگی کو بد لیں گے، بلکہ ہمارا مقتضد عام طور پر ایک رکی خانہ پری سے زائد پیچھے نہیں ہوتا۔

یہ باقی مخفی بدگمانی پر نہیں ہیں، بلکہ ہمارا طرزِ عمل اس کا گواہ ہے، جس کی محلی محلی ولیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱: ..... سیرت النبی ﷺ کے متقدمی نام پر منعقد ہونے والی ان مجلسوں کے شین در میان ہم کھلمن کھلا جھنور سرور دو عالم ﷺ کے واضح احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، مثلاً ان کافر نسوں میں مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہوتا ہے جس میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی بے محابا، بے پروگی اور زیست و آرائش کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، جو جھنور سرور دو عالم ﷺ کے احکام کی کھلی خلاف ورزی ہی نہیں بلکہ سیرت النبی ﷺ کے ساتھ (غیر شرعی طور پر ہی کی) ایک ٹکین مذاق معلوم ہوتا ہے۔

۲: ..... ان کافر نسوں کے انتظام و انصرام اور ان کی رکھی کا رہدا بیجوں کی تکمیل میں ایسا اوقات نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا، جماعت کا اہتمام تو درکنار، بعض اوقات انفرادی نمازوں بھی قضا ہو جاتی ہیں اور جس کافر نسیں میں نماز جسیا دین کا ستون منہدم کر دیا جائے، اس کا سیرت و سنت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور اس کے موثر ہونے کی کیا امید کی جاسکتی ہے؟

۳: ..... مقالہ نگاروں کے لئے وہ منف کا محترم وقت مجین کر کے انہیں اس وقت کا پابند بنا دینا بھی سیرت نبوی ﷺ کے ساتھ ایک رکی خانہ پری معلوم ہوتی ہے، ورنہ اس وقت کی پابندی سے کسی بھی شخص کو سیرت و سنت کے بارے میں کوئی مہوش یا نتیجہ خیز بات کہنے کا موقع نہیں مل سکتا، حالانکہ مقالہ نگاروں کی تعداد بڑھانے کے بجائے، پیش نظر یہ ہونا چاہئے کہ جو مقالہ پیش ہو یا جو تقریر کی جائے وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق عملاً موثر اور مفید ہو۔

۴: ..... عام طور پر حکومتی سطح پر سیرت کی جو کافر نسیں منعقد کی جاتی ہے اس کے لئے ایسی جگہ منتخب کی جاتی ہے جہاں سامعین زیادہ نہیں آسکتے، چنانچہ اس میں

داخل دعوت ناموں کے ذریعہ ہوتا ہے اور یہ دعوت نامے عموماً صرف ہر لوگوں کو تقسیم ہوتے ہیں، اور عام مسلمان و بہائی نہیں پہنچ سکتے، حالانکہ سیرت و سنت کا پیغام کسی خاص طبقے کے ساتھ مخصوص ہونے کے بجائے تمام انسانوں کے لئے عام ہونا چاہئے۔

۵:..... یہ بھی مشاہدہ میں آرہا ہے اور اظہر میں اشتمس ہے کہ ایک طرف تو سیرت نبوی کے جلسے منعقد ہو رہے ہیں اور دوسری طرف گرد و چیش میں مکانوں اور دکانوں پر ریڈیو کے ذریعہ راگ راگی اور ملکرات و فوائل نشر کے جارہے ہیں، یہ ہماری شامت اعمال نہیں تو اور کیا ہے؟

۶:..... اسی طرح ربیع الاول کے ماہ مبارک کے احترام کا حالی مشاہدہ ہے کہ روزانہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر ہر طرح کے خلاف شرع پرogram پر عمل ہو رہا ہے، اور غصب بالائے غصب یہ ہے کہ بڑے جذبہ تقدیس کے ساتھ تو جوان عورتیں برہنہ سر، غیر شرعی لباس میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی کریم ﷺ کی نعمت، نہایت تر نعم اور خوش گوئی کے ساتھ سامیعنیں کے سامنے بے محابا پیش کرتی ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کے صریح احکامات ناطق ہیں کہ عورت کا بے محابا نامحرموں کے سامنے آنا گناہ کبیر ہے۔

۷:..... ایک قیامت بالائے قیامت یہ بھی برپا ہے کہ سیرت نبوی ﷺ کے موقع پر ہر شاندار جلوس نکالے جاتے ہیں اور نفرہ تکمیر کی آوازیں بلند ہوتی ہیں جس کے آگے ساجد کی اذانیں پست ہو جاتی ہیں، اور مسجدیں خالی رہتی ہیں، اور سڑکوں پر ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، جگد جگد خاتم کعبہ اور روضہ مبارک کی شبیہ بنا لی جاتی ہیں، اور جامائیں اور مردان پر نذرانے پیش کرتے ہیں، ان جامائانہ رسکوں کا ن

صرف یہ کہ دین سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ ساری باتیں ابتو و لعب کا ذریعہ بنانے کے مراد ہیں۔

۸:..... ایک ستم یہ ہے کہ سیرت طیبہ کے نام پر کئے جانے والے ان جلوسوں اور کانفرنسوں میں اس مقدس موضوع کا بھی کوئی احترام نہیں کیا جاتا، چنانچہ مقررین و سامیعنین نائی پتلون اور بوث سوت میں ملبوس تشریف لاتے ہیں، دعوت نامے انگریزی میں جاری ہوتے ہیں، مقالے انگریزی میں پڑھتے ہیں جاتے ہیں، محفل سیرت کو انگریزی وضع پر سجا یا جاتا ہے، الفرض زبان و تہذیب لباس و پوشش، محفل و مجلس اور ہر چیز پر چھاپ سیرت طیبہ کے بجائے انگریزیت کی نمایاں نظر آتی ہے، کاش! جس ذات عالی صفات کی سیرت پر یہ سارا زبانی جمع خرچ کیا جا رہا ہے، ان کے اسوہ حسن کو علم و عمل اخلاق و کردار اور تہذیب و معاشرت کے دائرہ میں عملی طور پر اپنائے کی بھی کسی بندۂ خدا کو توفیق ہو جاتی۔

(افتتاحیہ صلی اللہ علیہ اقرار اردو نامہ جگہ کراچی ۳۱ جنوری ۱۹۸۰ء)

## خدا را! اس کا مدارک کیجئے

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حق تعالیٰ شاد کسی قوم پر اچاک عذاب نازل نہیں کرتا، بلکہ بار بار تنبیہ کی جاتی ہے اور مختلف طریقوں سے اسے آگاہ کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی جب وہ خواب غلط سے بیدار نہیں ہوتی تو عذاب الہی اپنی خوفناک شکل میں آتا ہے، اور اس وقت کوئی تدبیر کا رگ نہیں ہوتی، دنیا میں جتنے مصائب پیش آرہے ہیں وہ سب حق تعالیٰ شاد کی طرف سے تنبیہات ہیں اور ہماری بدمالیوں کی پاداش ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

وَمَا أَصَابُكُمْ مِنْ مُصِبَّةٍ فَبِمَا كَسِطَ إِيْدِيكُمْ  
وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ۔

ترجمہ..... "اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کئے ہوئے کاموں کی بدولت ہوتی ہے اور بہت سی باتوں سے تو اللہ تعالیٰ درگزیری کر دیتا ہے۔"

الله تعالیٰ کا عذاب مختلف شکلوں میں نازل ہوتا ہے، کبھی رزق کی تکلی کی شکل میں، کبھی لڑائی جھنڑا اور سرپختوں کی صورت میں، کبھی پریشانی و بے اطمینانی کی شکل میں، کبھی آفتوں اور خادتوں کی شکل میں، کبھی دکھوں اور بیماریوں کی شکل میں، کبھی مقدموں اور عدالتوں کے پکروں کی شکل میں، کبھی فتنہ و فساد کی شکل میں، کبھی خالم

حاکموں کے تسلسل کی شکل میں، کبھی قحط، وبا، طاعون، ہمہنہ جیسی ہوش ربانیوں کی شکل میں۔ الغرض جس طرح انسان کی بدعملیاں بے شمار ہیں اسی طرح ان کی پاداش میں عذاب الہی کے نازل ہونے کی صورتیں بے شمار ہیں۔

عذاب الہی کی ایک شکل بہت خطرناک ہے جس کے سمجھنے میں لوگوں کو اکثر غلطی ہو جاتی ہے وہ وہ یہ ہے کہ عذاب الہی نعمت کی شکل میں نازل ہو اور آدمی یہ محبوں ہی نہ کر پائے کہ وہ عذاب الہی میں گرفتار ہے قرآن کریم میں ہے

"فَلَمَّا نَسُوا هَا ذَكْرَ رَبِّهِ فَسَخَّنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرَحُوا بِمَا أُوتُوا أَخْدَنَاهُمْ بَعْثَةً فَإِذَا هُمْ فُلْسُونَ۔"

(الانعام: ۲۲)

ترجمہ..... "پس جب انہوں نے بھلا دیا اس بات کو جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دئے، بیہاں تک کہ جب وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اترانے لگے تو ہم نے ان کو ایسے طریقہ سے کپڑا کہ انہیں پیدا بھی نہ پلا۔"

اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا نافرمان ہو، اس کے باوجود اس کے جان و مال، عزت و آبرو اور اہل و عیال میں ترقی ہو رہی ہو، تو وہ شخص عذاب الہی میں گرفتار ہے، جو اس پر نعمت کی شکل میں نازل ہو رہا ہے، اور چونکہ اس کو یہ احساس بھی نہیں ہو پاتا کہ اس پر حق تعالیٰ شان کا قبیر نازل ہو رہا ہے، اس لئے اسے تو، انہات کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی اور وہ اپنی بدستیوں اور خوش غلطیوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے، حق تعالیٰ شان کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ انفرادی اعمال کی جزا اوسرا تو

انفرادی طور پر ملتی ہے لیکن پورے کا پورا معاشرہ یا اس کی موثر و غالب اکثریت کی بگاڑ میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس پر پورا معاشرہ قبہ خداوندی کی پیٹ میں آ جاتا ہے اور اس وقت اگر کچھ اچھے لوگ بھی ہوں، مگر معاشرتی بگاڑ اور اجتماعی گناہوں کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو ان کی بھی پرانیں کی جاتی۔

ان امور کو سامنے رکھ کر آج ذرا اپنے معاشرے کا جائزہ لجھے ہم نے ایک عرصہ کی جدوجہد کے بعد یہ نظر پاک اس مقصد کے لئے حاصل گیا تھا کہ ہم یہاں ایک مثالی اسلامی معاشرہ تشكیل دیں گے، جس میں احکام الہی کا نفاذ ہوگا اور مسلمانوں کی زندگی خدا تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے ارشادات مقدسہ کے ساتھ میں ڈھلنے کی، ہم اپنے قول و فعل، عقیدہ و عمل، ظاہر و باطن اور قلب و قابل ہر لحاظ سے کچھ پچ سلطان بنیں گے، لیکن جو کچھ ہوا، اور جو کچھ ۳۳ سال میں ہم نے کیا اسے ہر شخص سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، بلاشبہ ہم نے فیکریاں بنائیں، اندھیریاں چلائیں، سریکیں بنائیں، سر بلک عمارتیں بھری کیں، ورآمد و برآمد میں ترقی کی، بیرونی ممالک سے سفارتی تعلقات قائم کئے، ترقیاتی منصوبے بنائے، سودی قرضے لے لے کر مصنوعی ترقی کی نمائش کی، بینک کھولے، انشواف کا جال پھیلایا، تسبیح بنائے، سینما چلائے، اچھے اچھے ہوتی تغیر کے ریڈیو اسٹیشن قائم کئے، اُل وی اسٹیشن لگائے، الغرض وہ سب کچھ کیا جو آج خدا فراموش قوموں کا طرہ، امتیاز ہے۔ ہم نے کبھی مدنی تمدن مدنی معاشرت، مدنی اخلاق و آداب اور مدنی سیاست و معیشت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، ہمارا کارناصل میں گمراہ، بے وین اور مغضوب علیہ قوموں کی بھوٹی نقائی کرنا ہے، جوئے، شراب، گانے بجانے اور کھیل تماشے میں دوسروں قوموں کو پیچے پھوڑنے کی کوشش کی، عورتوں کو برباد کیا، سیرتوں کو بگاڑا، صورتوں کو سخ کیا، گانے

جانے والے طائفوں کو درآمدہ برآمد کیا، لاکھوں کروڑوں روپے بے حیائی و عریانی کو فروغ دینے پر بر باد کئے، گھر گھر سے راگ رنگ اور رقص و سرود کی آوازیں بلند ہونے لگیں، عورتوں کے سر سے دوپٹہ چھین کر بازاروں، محفلوں، دفتروں، کلبوں میں حسن عریان کے جلوے دیکھئے، ہر کفر و الحاد کی حوصلہ افزائی کی، سچائی کو دبایا، جماعت کو اچھالا، رشتہ کا بازار گرم کیا، حق کو باطل اور باطل کو حق بنانے میں کوئی کسر اتنا نہ رکھی، خالموں کے آگے بھکنے اور غریبوں، مزدوروں اور مظلوموں کو دبانے اور لوٹنے کو اپنا شعار بنایا، مسجدیں ویران اور سینما پال آباد کئے — خدا را بتائیے کہ قبہ الہی کو دعوت دینے والی وہ کون سی محصیت ہے جو ہم نے نہیں اپنائی؟ کیا ہم موقع رکھتے ہیں کہ ہماری اس قبہ آسودہ زندگی پر خدا تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی؟ خدا کا قانون تدرست اُل ہے، جو زہر ہلکا ہلکا ہے گا وہ مرے گا، جو شعلہ فشاں آگ میں کوئے گا وہ جلتے گا، جو متلاطم سمندر کی موجودوں میں چھلانگ لگائے گا وہ ذوب ہے گا، اور جو قوم خدا سے برکتی و بغاوت کا راستہ اختیار کرے گی اس پر قبہ الہی کا کوزہ ضرور برے گا۔ ”فَوَرَّ بِاللَّهِ مِنْ خَفْنِ اللَّادِ خَفْنِ رَسُولِهِ“

آج ہماری ان بد عملیوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے نہ زیندار کو راحت ہے نہ کسان کو، نہ کارخانہ دار کو سکھ ہے نہ مزدور کو، نہ دوکاندار مطمئن ہے نہ ملازم، گرانی میں مسلسل اضافے ہو رہا ہے، سامان خورد و نوش سے برکت اٹھ گئی ہے، اخراجات اتنے پھیل رہے ہیں کہ آدمی ان کا ساتھ دینے سے قاصر ہے، حادث کی رفتار روز افزوں ہے، ہبھتا لوں اور عدالتوں میں جا کر دیکھو تو ایسا لگتا ہے گویا پورا شہر یہیں اند آیا ہے، ڈاک، چوری، غصب، بربریت اور قانون شکنی کی وجہ سے نہ کسی کی جان ححفوظ ہے نہ مال، نہ عزت و آبرو۔

اہم اپنی ہوں رکشی میں پاگل ہو رہے ہیں، اور روس کا سیلا ب پاکستان کی دیواروں سے گمراہ رہا ہے، یہ ملک جو پہلے ہی سے دولخت کیا جا پڑتا ہے، اب پھر زین الاقوامی خطرات اور سازشوں میں آجائا گا ہے، لیکن صد حیف! کہ مسلمانوں کو کسی واقعہ سے عبرت نہیں ہوتی، کوئی عادش اپنیں خواب غفلت سے بیدار نہیں کرتا، کوئی تازیانہ دروداں کے ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم اور اس ملک پر رحم فرمائے۔

ہم پاکستانی معاشرے کے تمام اکابر و اصغر کی خدمت میں نہایت دردو و نسوزی سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا را! قهر الہی کو مزید دعوت نہ دیجئے، خواتین اسلام کو شریق پرداہ لازم ہے اور ان کا بن بھن کر برہمن سر بازاروں میں نکلنا، اسلامی شریعت اور انسانی غیرت دونوں کے لحاظ سے گناہ کبیرہ ہے، اس کا اندرا بیکھیج، مردو زن کا اختلاط تمام فواحش کی جڑے، گانا بجانا ان فواحش کی غذا ہے، خدا را! اس کا تدارک بیکھیج۔ ریزو، شیلی و پریش، ریکارڈنگ وغیرہ کی لعنت عام قوم پر مسلط کردی گئی، اس سے چھکارا حاصل کرنے کی تدبیر بیکھیج، عذاب الہی کا سیلا ب ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اس سے بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر کے خدا تعالیٰ کی ہارگاہ میں رجوع ہوں، احکام الہی کی پابندی کریں، خدا کے گھروں کو آباد کریں، فرشی کے اڑوں کو پہنادیں، اے اللہ! اس قوم اور اس ملک پر رحم فرمائے، اے اللہ! ہماری ساری غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرمائے، قبر و غصہ سے محفوظ فرمائے۔

(افتتاحی صفحہ اقراء روزنامہ جنگ کراپنی ۲۸ فروری ۱۹۸۰ء)

## اصلاح معاشرہ، لا جھ عمل

بہر رنہر بر حسن بر صحیح

خبرات میں ایک جھوٹی سی خبر چھپی ہے کہ صدر جنرل محمد فیاض الحق نے پرزاں کے علاقے میں یونیورسٹی کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ماہ کے آخر میں اسلام آباد میں علماء اور مشائخ کا ایک کونسل ہو گا جس کی سفارشات کے مطابق معاشرے کی اصلاح کے لئے لا جھ عمل وضع کیا جائے گا۔

اس خبر میں جہاں صرفت کا یہ پہلو ہے کہ ہمارے مقتندر حضرات کو "اصلاح معاشرہ" کی ضرورت کا نہ صرف ابھی تک احساس ہے، بلکہ وہ اس کے لئے "لا جھ عمل" مرتب کرنے کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں، وہاں یہ نہایت، رنجیدہ پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ ۳۲، ۳۳ سال تک معاشرے کے بگاڑ کی تو سیکاروں شکنیں چا لو ہو گئیں لیکن اصلاح کی ایک بھی صحیح تدبیر نہیں کی گئی، ہمارے اس طرز عمل کے نتیجے میں آج ہمارے معاشرے کی کیفیت اسی فارسی شہر کی مصدقہ ہے:

در میان قصر دریا تختہ بندم کر دے

باز می گوئی کہ دامن ترکیں ہشیار باش

معلوم نہیں کہ ہمارے ان دانشوروں کے ذہن میں جن کا کونشن اسلام آباد میں بلایا جا رہا ہے، "اسلامی روایات کے مطابق اصلاح معاشرہ" کا کیا تصور ہے؟ وہ اس کے لئے کیا لا جھ عمل وضع فرمائیں گے؟ اور ہمارا معاشرہ جو ہم جھنی بگاڑ کا دکار ہے اور جو فساد کی آخری حدود کو چھوڑ رہا ہے، اسے اس "لا جھ عمل" پر گامزن کرنے کے

لئے کیا تدابیر کی جائیں گی؟ اور یہ کہ اصلاح کا عمل کس نقطے سے شروع کیا جائے گا اور اس کا آخری ہدف کیا ہوگا؟ نیز یہ کہ یہ کنوش ہماری تاریخ کے دھاروں کو بدلتے کے لئے کوئی ٹھوس موثر اور قابل عمل پروگرام وضع کرنے میں کامیاب ہوگا، یا ہماری عام روایات کے مطابق "نشستند و خوردنہ و برخواستند" تک اس کی سرگرمیاں محدود رہیں گی؟ بہر حال ہماری دعا ہے کہ دانشوروں کے اس کنوش کو اصلاح کے صحیح و موثر اقدامات تجویز کرنے اور ہماری حکومت اور معاشرت کو ان کی تقلیل کرنے کی توفیق فضیب ہو۔

حکیم مشرق علام محمد اقبال مرحوم نے قوموں کے عروج و زوال کی تشخص یہ فرمائی ہے:

آ تھھ کو بتاتا ہوں، تقدیرِ ام کیا ہے  
شیشِ دن اول، طاؤس و رباب آخر

گویا جو قوم جہد و جہاد کے میدان میں سرپا عمل بن جائے، سمجھنا چاہئے کہ اس کے مقدر کا ستارہ عروج پر ہے، اس کے بر عکس جو قوم کھیل تماشوں اور طاؤس و رباب سے دل بھلانے لگے تو سمجھو کر اس کا مقدر گہن میں ہے، اس اصول تشخص کو ہم اپنے معاشرے پر چھپا کریں تو معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم صحیح سمت کی طرف سفر کر رہے ہیں یا ہمارا قافلہ حیات الٹی سمت جا رہا ہے، ہمارا رخ ترقی و عروج کی طرف ہے یا پتھی و زوال کی طرف؟

آج اس ملک کی یہ حالت ہے کہ طاؤس و رباب کی لمحت سے خدا کے گر تک محفوظ نہیں، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، مگر امام کی قرأت کے بجائے مقتدوں کے کافوں سے ریکارڈنگ کی آوازیں لکھ رہی ہیں، مگر گھر میں ریڈیو اور میلی دیشیں پر ایمان سوز اور حیا سوز نئے نئے جا رہے ہیں اور اگر خوش قسمت گھر طاؤس و رباب کی

اس لمحت سے پاک ہے تو ہمایوں کے گھر سے اسے یہ سوغات مل رہی ہے، گویا پاکستان میں کسی مومن کو اس سے امان نہیں، اور کوئی عالم و درویش اور زاہد و متقی ایسا نہیں جس کے کافوں میں یہ گندگی زبردستی نہ ٹھونکی جا رہی ہو، مگر وہ قلب تک اچھی یا بُری غذا پہنچانے کے دو ہی راستے قدرت نے رکھے ہیں، ایک کان اور دوسری آنکھیں، کافوں کا حال آپ نے سن لیا، اب ذرا آنکھوں پر بھی نظر وال بیجھے، ہمارے ملک میں ملعون و منظوب قوموں کی تقلید میں عربیانی و بے جا بی کا جو طوفان برپا ہے، وہ خطرہ کے نشان سے اور پر بہہ رہا ہے، مگر ابھی تک اس میں کسی کے کوئی آفار نظر نہیں آتے، بلکہ اس کی شدت روز افزود ہے اس کی وجہ سے آج کوں اسی نظر ہے جو ناجرم سے آبودہ نہ ہو، جو معاشرہ چنگ و رباب، مرد و زن کے بے جا بی کے سیالب میں بہہ رہا ہو، اسلام آباد میں دانشوروں کا کنوش اس کی اصلاح کی کیا تدبیر کرے گا؟

ان آفتوں کے علاوہ اس وقت ہمارے معاشرے پر گھٹیا لٹریپر کی یلغار ہے، اخباروں، رسائلوں اور ڈاگسٹوں میں عربیان تصاویر، جنپی فیچروں اور جاسوسی و ڈرامائی کہانیوں نے توجانوں کو برپا کر رکھا ہے، سہنماوں کی پکچر اور بکبوں میں رقص و سرود کی مغلیلیں الگ تم ہماری ہیں اور تجرب معاشرہ کا یہ سارا سامان "تفصیع" کے خوشن عینزان سے کیا جا رہا ہے۔ ہمارے دانشوروں کو اصلاح معاشرہ کا لائچی عمل وضع کرتے وقت سوچنا چاہئے کہ جب تک شر و فساد کے یہ دہانے بند نہیں کئے جاتے، اس وقت تک ان کی اصلاحی تدبیر کیا کر سکتی ہیں؟ اصلاح کا پہلا قدم تو یہی ہوتا ہے اور یہی ہونا چاہئے کہ سب سے پہلے شر و فساد اور تجرب کے راستوں کو بند کیا جائے، قومی راہنماؤں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ قوم کو غلط راستہ پر نہ چلنے دیں، اور حسن تدبیر سے انہیں صحیح راہ پر ڈالیں، مگر ہمارے ہاں قوم کی راہنمائی کا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ قوم کی جائز و

نماز خواہشات کی گاڑی جس سمت جاری ہو اسے نہ صرف پلٹنے دیں، بلکہ اس کی تحریک ففاری میں مدد و معاون ہوا کریں:

اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر

خاص ہے ترکیب میں قوم رسول باشی

پس اگر ہمارے راجہنا اور دانشور حضرات صدق ول سے اس معاشرہ کی اصلاح چاہتے ہیں، اگر وہ قوم کو پستی و ذات کی گراوٹ سے نکال کر عزت و وجہت کی رفتوں سے ہمکار رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اس معاشرے کو جھوٹ، فریب، کھوٹ اور منافقت سے پاک کرتا چاہتے ہیں تو انہیں اقوام مغرب کے معاشرے کو نہیں، بلکہ اس معاشرے کو جمونہ بنانا ہوگا جو خدا کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے تخلیل دیا تھا اور انہیں معاشرے سے ان تمام چیزوں کی نفعی کرنا ہوگی جن کو آخری حضرت ﷺ نے موجب لعنت تھے ایسا ہے، جب تک یہ نہیں ہوتا اصلاح معاشرہ کی کوئی تدیر کا رگ نہیں ہوگی، بلکہ

”ایں خیال است و محال است و جنون“

اصلاح معاشرہ کے سلسلہ میں یہ نکتہ بھی ہمارے دانشوروں کو نہیں بھیونا چاہئے کہ خواص، طرز معاشرت میں اپنے حکمرانوں کی تقلید کیا کرتے ہیں، اسی بنا پر کہا گیا ہے ”الناس علی دین ملوکهم“ یعنی لوگ اپنے حکمرانوں کا طور و طریق اپنالا کرتے ہیں، بگاڑ جب بھی آتا ہے اس کی ابتداء خوش حال، متول اور بااثر طبقہ ہی سے ہوتی ہے، اس لئے اصلاحی پروگرام کی ابتداء بھی سب سے پہلے اسی طبقے سے ہوئی چاہئے، اگر یہ طبقہ آمادہ اصلاح ہو جائے تو پورے معاشرے کی اصلاح آسانی سے ہو سکتی ہے۔  
(انتباہ صفحہ اقراء روزنامہ جنگ کراچی ۱۸ اپریل ۱۹۸۰ء)

## خاتونِ جنت کا پیغام

بڑے لوگوں کے یوم ولادت و یوم وفات منانا ایک رسم ہے۔ گزشتہ ہفتہ میں حضرت فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا کے یوم ولادت پر بھی بعض اخبارات نے خصوصی طبیعتی شائع کئے، اور اہل قلم نے ان کی حیات طبیبہ کا مرقع قلم بند کیا۔ جگر گوشنے رسول ﷺ کی عظمت و رفتہ اور ان کے فضائل و ناقب احاطہ تصور سے بالاتر ہیں۔ انہیں لسان نبوت سے ”سیدۃ نساء العالمین“ کا خطاب ملا ہے۔ اور ان کی زندگی خواتین اسلام کے لئے ایک مثالیٰ معمود ہے۔ ان کے نکاح پر شہنشاہ مدینہ ﷺ نے سیدۃ عالم کو جو جیزیر دیا وہ بان کی چار پیاری، چجزے کا گدا، جس کے اندر رولی کے بجائے کھجور کے پتے تھے۔ ایک چھاگل، دو مٹی کے گھڑے، ایک میلیزہ اور دو چکیاں۔

آخری حضرت ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان تقسیم کا رکا اصول یہ طے فرمادیا تھا کہ گھر سے باہر کے کام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ ہوں گے، اور گھر کے اندر کے کاموں کی ذمہ داری حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ہوگی۔

سیدۃ عالم کی خانگی زندگی کا نقشہ یہ تھا کہ کچھی پیتے پیتے ہاتھوں میں چھائے پڑے تھے۔ مشک میں پانی بھر بھر کر لانے سے یہنے پر گئے پڑے گئے تھے۔ لیکن

ہاں ہم جب انہوں نے آنحضرت ﷺ سے ایک بار گھر کے کاروبار کے لئے خادم مانگی اور ہاتھ کے چھالے دکھائے تو ارشاد ہوا کہ ”جان پدر ابدر کے شیم تم سے پہلے اس کے مستحق ہیں“، اور آپ ﷺ نے حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ دونوں کو ان تمام مشقتوں کا مدد ادا یہ بتایا کہ رات کو سوت وقت ۳۳ بار بجان اللہ، ۳۳ بار الحمد اللہ، ۳۳ بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ کلمات ”تبیحات فاطمہؓ“ کے نام سے معروف ہیں اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے آنحضرت ﷺ نے ان تبیحات کے پڑھنے کا حکم فرمایا، میرا یہ معمول بھی قضا نہیں ہوا۔

صرف یہی نہیں کہ آنحضرت ﷺ خود ان کو آرائش و آسائش اور زیب و زینت کی کوئی چیز نہیں دیتے تھے، بلکہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں کسی دوسرے ذریعے سے ملتی تو اسے بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علیؓ نے ان کو سونے کا ہار دیا، آنحضرت ﷺ کو معلوم ہوا تو فرمایا: ”کیوں فاطمہؓ لوگوں سے یہ کہلوانا چاہتی ہو کہ رسول اللہ ﷺ کی بیٹی آگ کا ہار پہنچتی ہے؟“

ایک دفعہ آنحضرت ﷺ کسی غزوہ سے واپس تشریف لائے، حضرت فاطمہؓ نے آپ ﷺ کے استقبال کے لئے گھر کے دروازوں پر پردہ اور حضرات حسین کو چاندی کے لکنگن پہنائے، آپ ﷺ حسب معمول حضرت فاطمہؓ کے یہاں آئے تو اس دنیاوی ساز و سامان کو دیکھ کر دروازوہ ہی سے واپس تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہؓ کو آپ کی اس ناپسندیدگی کا علم ہوا تو پردہ چاک کر دیا اور بچوں کے ہاتھوں سے لکنگن اتار دیئے۔ پچھے روتے ہوئے آپ ﷺ کی خدمت میں آئے، آپ ﷺ نے حضرت بالاؓ کو حکم فرمایا کہ: ”فاطمہؓ کے لئے سیپ کا ہار اور ہاتھی دانت کے دو لکنخن خرید لاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میرے الیں بیت زخارف دنیا سے آلودہ ہوں

اور نعمتوں اور آسانشوں کو دنیا ہی میں بہت لیں۔“

امام ابو الحیم اصفہانی نے ”حلیۃ الاولیاء“ میں یہ واقعہ اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ ایک موقع پر آنحضرت ﷺ نے صحابہ کرامؓ سے دریافت فرمایا کہ ”عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟“ صحابہ کرامؓ اس کے جواب سے قاصر ہے۔

حضرت علیؓ پچکے سے اٹھے اور گھر جا کر حضرت فاطمہؓ سے اس سوال کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے بردست فرمایا: ”آپ نے یہ جواب کیوں نہ دیا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر کی نظر اس پر پڑے۔“ حضرت علیؓ نے واپس آ کر یہی جواب بارگاہ رسالت میں عرض کر دیا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”یہ جواب تمہیں کس نے بتایا ہے؟“، انہوں نے حضرت فاطمہؓ کا نام لیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیوں نہ ہو؟ آخر قاطر ہے بھی تو میرے جگر کا گلوا،“۔

حضرت فاطمہؓ پر شرم و حیاؓ کا اس قدر غلبہ تھا کہ مرض وفات میں حضرت علیؓ کو وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ رات میں اٹھایا جائے۔ اور کسی کو اس کی اطلاع نہ دی جائے۔ تاکہ نا محروم نظریں ان کے جنازے کے پرده پر بھی نہ پڑیں۔

یہ ہے سیدہ عالم، خاتون جنت اور جگدگوشہ رسول ﷺ، حضرت فاطمہؓ بتول رحمی اللہ عنہا کی زندگی کا نقش اور ان کی سیرت طیبہ کا پیغام۔ ہمیں سوچنا چاہئے کہ کیا امت کی بیانیاں، رسول اللہ ﷺ کی بیٹی کے نقش قدم پر چل رہی ہیں؟ حیف! صد حیف!! کہ تہذیب جدید کی لعنت نے خاتون خانہ کے سر سے دو پشتہ تک نوج لیا ہے، اور ”مسلمان خواتین“ گلے میں دو پتے ڈالے برہنہ سر بازاروں اور سڑکوں پر گھوم رہی ہیں، اس عربیانی اور بے حیائی پر نہ باپ کو غیرت آتی ہے نہ بھائی کو۔ مغرب کے

سوداگرنے اپنی دوکان چکانے کیلئے عورت کو شرم و حیا کے زیور سے محروم کیا۔ اس کی نسوانیت کو گلیوں اور بازاروں میں رسوایا کیا، آج شاذ ہی کوئی عورت اسی ملے گی جو نفیاتی الجھنوں کا شکار نہ ہو اور چونکہ ”عورت، قتل زندگی کی کلید ہے“ اس لئے آج پوری کی پوری زندگی۔ الا ماشاء اللہ۔ ذہنی پریشانیوں اور نفیاتی الجھنوں سے عمارت ہے۔ یہ نتیجہ ہے اس بغاوت کا، جو انسان نے انسانی فطرت سے روکر کی ہے۔ مشہور ہے ”بھاڑ پڑے وہ سونا، جس سے ٹوٹیں کان۔“ لخت ہے اس تہذیب و معاشرت پر جس نے انسانیت کو یہ ”تھنے“ دیے ہیں۔ تف ہے اس تعلیم پر جس نے نصف انسانیت کو بازار کا بکاؤ مال بنا کر رکھ دیا ہے۔ حیف ہے اس ”معیار زندگی“ پر جس نے شرم و حیا اور عرفت و عصمت پر جھاڑو پھیر دی ہے، یہ جدید تعلیم، یہ جدید معاشرت، یہ جدید تہذیب، یہ جدید سامان تیش و آرائش وہ قرقاق ہے جس نے انسانیت سے سکون و اطمینان کی دولت لوٹ لی ہے۔ ہم بعد احترام اپنی بہنوں سے عرض کریں گے کہ وہ سیدہ، عالم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے اس پیغام کو گوش ہوش سنیں کہ:

”عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر کو دیکھنے کوئی غیر اسے دیکھے۔“

اور ہم اپنے ان بھائیوں سے، جن پر عورتوں کی گمراہی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، نہایت خلوص اور لجاجت سے عرض کریں گے کہ خدارا! مسلمان عورتوں کو بازار کا تماشہ نہ ہاؤ، ان کے سروں پر دوپٹہ اور چہرے پر تقباب ڈالو۔  
(روزنامہ جگ صحیفہ اقراء ۹۸۰ء)

## پندرہویں صدی کا استقبال

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قوی اور بین الالامی سلطن پر پندرہویں صدی کا پر جوش استقبال کیا جا رہا ہے، اسلامی ممالک میں مزید ایک سال تک ”جشن استقبال“ منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں جتاب صدر کی بدائیت پر پندرہویں صدی کے پہلے دن شکراند کی نمازیں ادا کی گئیں اور طویل طویل دعا کیں مانگی گئیں۔

یوں تو بھرت نبوی کو چودہ صدیاں ہو چکی ہیں، لیکن جشن استقبال کا جو جوش و خروش پندرہویں صدی کے استقبال کے سلسلے میں دیکھنے میں آیا، وہ گزشتہ صدیوں کے مسلمانوں کے یہاں نہیں ملتا، اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ بعض شاعروں نے اپنے غلط وجوہوں کی ترویج و اشاعت کے لئے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ چودھویں صدی آخری زمانہ ہے، اس لئے قرب قیامت کی جو علامات کبریٰ قرآن کریم اور حدیث نبوی میں بیان کی گئی ہیں (ظہور مہدی، خروج دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام، خروج یا جو جو، ما جو جو، دلیل الارض اور سورج کا مغرب کی سمت سے نکلا وغیرہ) وہ اسی صدی میں پوری ہوں گی، بہت سے ضعیف الاعتقاد لوگ اس پروپیگنڈے سے متاثر بھی ہوئے، چونکہ چودھویں صدی کے اختتام اور پندرہویں صدی کے آغاز سے ان تمام ہوائی دعوؤں کا

خلط ہونا ثابت ہوا اس لئے قدرتی طور پر پندرہویں صدی کے آغاز پر جوش و خروش کا اظہار بھی زیادہ کیا گیا۔

تاہم تھی صدی کے استقبال کی صحیح صورت یہ ہے کہ ہم اپنی قومی و ملجمی زندگی میں اس بات کا جائزہ لیں کہ گز شہنشہ صدی میں ہم سے کیا کیا فلسطین سرzed ہوئیں؟ ہم نے خدا تعالیٰ سے بغاوت و نافرمانی کی کیا کیا طرح نوایجاد کی؟ کن کن بدعتوں اور جدتوں کو فروغ دیا؟ اور حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی کون کون سے سنتوں کو منایا اور پامال کیا؟ ہم اپنی پوری زندگی کا جائزہ لے کر ان تمام گناہوں سے جو ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی میں پیش آئے ہیں، استغفار کرتے، ان کی اصلاح کی فکر کرتے اور نئی صدی میں اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشأ کے مطابق چلنے کا عہد کرتے۔

نیز تھی صدی کے استقبال کا ایک تقاضا یہ بھی تھا کہ نئی صدی جن متوقع فتنوں کو اپنے دامن میں لئے ہوئے ہے، ہم ان سے اللہ تعالیٰ کی پیਆں مانگنے کا اجتنام کرتے اور ان سے بچنے کی تدبیروں میں مشغول ہوتے۔

(افتتاحیہ صفحہ اقرار روزنامہ جنگ کراچی ۲۱ نومبر ۱۹۸۰ء)

## مادیت کا سیلا ب اور ہماری حالت

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى :

اس وقت چاروں طرف مادیت کا سیلا ب امنڈ رہا ہے، انسانی قدریں بڑی تجزی سے مت رہی ہیں۔ قلب و نگاہ کے زاویے بدل چکے ہیں، یا بدل رہے ہیں۔ قلوب سے ایمان رخصت ہو رہا ہے اور انسانی عقولوں اور شکلوں پر مسخ کا عذاب نازل ہوتا ہوا صاف نظر آ رہا ہے، نسل نو کی بے چینی و بے راہ روی اور صفت نازک کی بے محابی و بے شرمی جدید معاشرے کو خالص چوپا یوں کے معاشروں میں — اگر اسے معاشروہ کہنا صحیح ہے — تبدیل کر رہی ہے۔

بچپن میں یہ حکایت سنی تھی کہ کسی بادشاہ کو نبوی میون نے بتایا کہ فلاں تاریخ کو ایک ایسی مسوم ہوا چلے گی جس سے آدمی پاگل ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے وزیر سے احتیاطی تدبیر کے بارے میں مشورہ کیا۔

اس نے کہا، جمال پناہ! اس قدرتی آفت سے ساری رعایت کی حفاظت کی تو کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ سلامت اپنے خاص لوگوں کے ساتھ اس دن کسی تھے خانے میں چلے جائیں جمال اس منحوس خارجی ہوا کے اثرات نہ پہنچ سکیں۔ بادشاہ نے وزیر کی تجویز کو پسند کیا اور اس منحوس گھری کے آنے سے پہلے اپنے خاص خاص لوگوں کو ہمراہ لے کر بادشاہ سلامت کسی تھے خانے میں روپوش ہو گئے

وقت گذرنے کے بعد جب باہر نکلے تو دیکھا کہ پورا ملک پاگل ہو چکا ہے، ستم یہ کہ یہ پاگل معاشرہ، ان محدودے چند افراد کو، جو مسموم ہوا سے محفوظ رہ گئے تھے، پاگل سمجھتا تھا۔

یہ حکایت — خواہ واقعی ہو یا فرضی — ہمارے موجودہ معاشرہ کی نمیک ترجیحی کرتی ہے۔ اسلام کی تعلیمات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے آج کے معاشرے کا جب موازنہ کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ تعلیمات اور یہ ارشادات برحق ہیں — تو آج کا پورا معاشرہ اور اس کے سارے طبقات ایک عمومی پاگل پن کا شکار ہیں، محدودے چند افراد کو مستثنیٰ کر کے اوپر سے نیچے تک پوری کی پوری قوم، خدا فراموش اور غیر فردوس سے بے پروا ملعون قوموں کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سینماوں کے ایکٹروں اور ایکٹروں کے لباس و پوشاک، وضع قطع اور چال ڈھانل کی نقلی پر فخر کرتے ہیں، تعلیم اور و انشوری کے نام پر جدید تعلیم گاہوں میں نئی نسل کا قتل عام ہو رہا ہے اور مانع حمل ادویات کی پیشتر مقدار سے بن بیاہتے جوڑے مستفید ہو رہے ہیں۔ ایک طرف اسلام کا ڈھول شدت سے بیٹا جا رہا ہے دوسری طرف فی ہزار ۹۹۹ آدمی کلمہ اور نماز جسے اسلام کے بنیوی ارکان سے محروم ہیں۔ فواحش و مکرات کا طوفان بڑھ رہا ہے۔ اور بدعالت والحاکی تاریکیاں زیادہ گھری ہوتی جا رہی ہیں۔ جو لوگ صحیح ایمان کی نعمت سے بھی محروم ہیں انہیں مجدد اسلام کے خطابات دیے جا رہے ہیں :

بے نادینی را دیدہ ام من  
مرا اے کائے مادر نہ زاوے

# اسلام اور انسانی حقوق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

کویت یونیورسٹی کے زیر انتظام "اسلام میں انسانی حقوق" کے موضوع پر منعقدہ چھوڑ روزہ و رکشاپ میں اقتضائی مقالہ پیش کرتے ہوئے جناب اے، کے بروہی نے کہا کہ اسلامی قانون کی بنیاد انسانی حقوق پر ہے، اپنے مقالہ میں جناب اے، کے بروہی نے حضرت محمد ﷺ کے آخری خطبہ کو انسانی حقوق کا پہلا منشور قرار دیا، انہوں نے کہا کہ اسلام نے انسانی آزادی کا منصور لوگوں کے سامنے نہ صرف پیش کیا، بلکہ انہیں ان کی ذمہ داریوں اور فرائض سے بھی آگاہ کیا، انہوں نے انسانی حقوق کی تشریع کرتے ہوئے کہا کہ قرآن شریف فرقان بھی ہے وہ انسان کو تیز اور تفریق کرنا سختا ہے، وہ انسان کی ان راستوں پر راہنمائی کرتا ہے جو اس کے لئے کھل رکھے گئے ہیں، وہ اس عمل کی دعوت دیتا ہے کہ انسان کو حق کا ساتھ دینا چاہئے اور سچائی کو منتخب کرنا چاہئے اور براہی کے خلاف مخدود ہونا چاہئے، انہوں نے مغربی و انشوروں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے انسانی حقوق کو فرد واحد اور ریاست کے درمیان تعلق نہ کر دیا ہے اس کے مقابلے میں اسلام نے نہ صرف ان حقوق کو وضع کیا، بلکہ ان کی تشریع اور حفاظت بھی اس طرح کی کہ یہ خدا کے احکامات ہیں اور ان پر آخری رسول محمد ﷺ نے عمل کیا، لہذا ان کو تسلیم کرنا ہمارا فرض ہے۔

انسانی حقوق کی تعمین و تنزیح کے سلسلے میں اسلام کو بہت سے ایسے امتیازات حاصل ہیں، جن میں دنیا کا کوئی دین و مذہب اور کوئی دستور و قانون اس سے چشم نمایی نہیں کر سکتا، اس کا پہلا امتیاز تو یہ ہے کہ اس نے انسانی حقوق کا دائرہ اس قدر وسیع رکھا ہے کہ پوری زندگی اس کے احاطہ میں آجاتی ہے، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، عزیز و اقرباً کے حقوق، پڑوسیوں ہمایوں کے حقوق، دوست احباب کے حقوق، راغی، رعایا اور حاکم، حکوم کے حقوق، فرد اور ریاست کے حقوق، مددوروں کے حقوق، نادار اور ضعفاً کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق، عام انسانوں کے حقوق، وغیرہ وغیرہ۔

اسلام نے صرف انسانی حقوق ہی کا دائرہ وسیع نہیں کیا، بلکہ چوپائیوں اور حیوانات تک کے حقوق سے بھی آگاہ کیا ہے۔ اگر بخاطر غائزہ دیکھا جائے تو اسلام نام ہی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ادا کرنے کا ہے۔

اسلام کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ اس نے انسانی افراد کو حق طلبی کا خونگ نہیں بنایا بلکہ ادائے حقوق کی تلقین فرمائی ہے، آج کے نام نہاد مہذب معاشرے کا سب سے بڑا بکار یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حقوق کی فہرست لئے پھرتا ہے اور ہر روا و ناروا طریقہ سے ان کا مطالبه کرتا ہے، لیکن اس کے ذمہ لوگوں کے جو حقوق واجب ہیں ان کی ادائیگی سے بے فکر ہے، جب معاشرے کا ہر فرد حق مانگنے والا بن جائے اور حق ادا کرنے والا کوئی نہ رہے تو اس کا نتیجہ وہی شروع فساد ہو گا جو آج کی دنیا میں رونما ہے۔ اسلام ہر فرد کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تمہارے ذمہ جو حقوق ہیں ان کے ادا کرنے کا اہتمام کرو، اس لئے کہ فروائے قیامت تم سے ان کی باز پرس ہو گی، اسلام مددوروں کو بتاتا ہے کہ ان کے ذمہ عورتوں تک کے درمیان یہاں تک انصاف ہو گا، تو جن انسانوں نے عقل و شعور

مزکوں پر نکل آؤ، عورتوں کو یہ بتایا ہے کہ ان کے شوہروں کے ذمہ کیا حقوق ہیں، مددوں سے یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے حقوق کے مطالبہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ، اور گھر میں کسی کا جینا دو بھر کرو، اسلام آجروں کو تلقین کرتا ہے کہ اجر کا حق اس کا پہنچنے دشک ہونے سے پہلے ادا کرو، مگر اجروں کو یہ کہہ کر نہیں ابھارتا کہ تم کام چھوڑ کر بیٹر اٹھاؤ، خلاصہ یہ کہ اسلام ہر شخص کو یہ تلقین کرتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے ذمہ کیا کیا حقوق ہیں؟ اور یہ کہ کیا وہ ان حقوق کو تھیک نہیں نمائے خداوندی کے مطابق ادا کر رہا ہے؟ اس طرح اسلام پوری قوم اور پورے معاشرے کو سو فیصد حقوق ادا کرنے والے دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ بات اسلام کے مزان اور اس کی تعلیمات کے بکسر خلاف ہے کہ حقوق کی مانگ تو ہر شخص کی طرف سے ہو لیکن حقوق کی سو فیصد ادا یگی کسی ایک فرد کی طرف سے بھی نہ ہو رہی ہو۔ آج مسلم معاشروں میں جو افراتفری اور بد امنی و نساد پایا جاتا ہے وہ اسلام کے اس مزان سے اخراج کا نتیجہ ہے۔

اسلام کی تیسرا خصوصیت یہ ہے کہ حقوق و فرائض کے سلسلہ میں وہ صرف قانون کا استعمال نہیں کرتا، بلکہ انسان میں ادائے حق کا ایک ایسا شعور اور ذمہ داری کی ایک ایسی حس بیدار کرتا ہے کہ آدمی محض قانون کی گرفت سے بچنے کے لئے نہیں بلکہ حق تعالیٰ شانہ کی رضا جوئی، اس کی ناراضی کے خوف اور حسابہ آخرت کے اندریش سے وہ اپنے ذمہ کے حقوق کو تھیک نہیں کرے، اسلام بتاتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی نے کسی کی حق تلفی کی تو قیامت کے دن اس سے ایک ایک ذرہ کا معاوضہ دلایا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کے دنیا میں سینگ مارا تھا تو قیامت کے دن دونوں کو زندہ کر کے بے سینگ بکری کا بدله دلایا جائے گا، جب بے شعور حیوانوں تک کے درمیان یہاں تک انصاف ہو گا، تو جن انسانوں نے عقل و شعور

کے باوجود لوگوں کے حقوق سب کے ان کا کیا حال ہوگا؟

الغرض اسلام اپنی پاکیزہ تعلیم کے ذریعہ انسانی حقوق کا اس قدر تحفظ کرنا ہے کہ بعض صورتوں میں انہیں حقوق اللہ سے بھی زیادہ عظیم قرار دیتا ہے، اور اہل اسلام میں ایسی حس پیدا کرنا چاہتا ہے کہ کسی کی حق تلفی کی انہیں بھی جرأت نہ ہو، اور اگر خدا نخواست کسی سے کسی کی حق تلفی ہو ہی جائے تو جب تک اس کی مکافات نہ کر لے اسے کسی کروٹ چین نہ آئے، آنحضرت ﷺ کے تربیت یافتہ حضرات، جنہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مبارک نام سے یاد کرتے ہیں سو فصد انسانی حقوق کے گھبہاں اور ان کے ادا کرنے والے تھے اس لئے ان کے زمانہ سعادت میں اُن و سکون کا جو نثارہ جسم فلک نے دیکھا انسانی تاریخ اسکی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے اور آج کی مہذب دنیا میں اگر مسلمان حقوق و فرائض میں تعالیٰ سے کام لیتے ہیں تو یہ تہذیب فرنگ اور یہود و نصاریٰ کی تعالیٰ کا اثر ہے، اس ملعون تہذیب کے نتیجے میں جب سے مذہب کی گرفت ڈھیلی ہوئی ہے مسلمان بھی اسی شفاق و نفاق اور بد دینی و حق تلفی کو ہنر بھختے لگے ہیں جو بے خدا اور ملعون و مغضوب قوموں کا شعار ہے، اس لئے ضرورت "اسلام اور انسانی حقوق" پر مقابلے پڑھنے اور جلسے منعقد کرنے کی نہیں، بلکہ اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان عملی طور پر اپنے مذہب کا نمونہ پیش کریں اور یہود و نصاریٰ کی تقلید سے آزاد ہو کر محمد رسول اللہ ﷺ کے اسوہ حست کو رہ بہرا کیں۔

(افتتاحی صفحہ اقرار اور زندگی جنگ کراچی ۱۹ دسمبر ۱۹۸۰ء)

## نئی صدی... کیا کھویا؟ کیا پایا؟

حق تعالیٰ شانہ نے جب سے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، تب سے یہل و نمار کی گروش کا نظام جاری ہے، جس سے زمانے کی مقدار کا تعین کیا جاتا ہے۔ دن، ہفتہ، صین، سال اور صدی اسی مقدار کے اصطلاحی نام ہیں۔ ورنہ زمانہ بذات خود ایک سیال چیز ہے جس کو ایک دم کے لئے سکون و قرار نہیں، بلکہ ہر آن اس میں آمد و شد، وجود و عدم اور فنا، و بقا کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ اور اس کی کڑیاں باہم دیگر اس طرح پیوستہ و مروط ہیں کہ جو لمحہ گزر جاتا ہے وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ زمانے کا یہ دھارا کب سے بہنا شروع ہوا اور کب تک بہتار ہے گا؟ یہ بات قطعی و یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ:

اول و آخر ایں کتاب کمند افتاد است

چونکہ زمانے کی ابتداء کا علم نہیں اس لئے اقوام عالم اپنی تقویم کا آغاز بڑے بڑے حوادث و واقعات سے کرتی ہیں۔ مسلمانوں میں سن بھری رائج ہے، جس کی ابتداء حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ

کرام رضوان اللہ علیہم امعین کے مشورے سے فخر عالم سید الکوئین صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ بھرت سے فرمائی تھی، کیونکہ بھرت بیوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے غلبہ و اشاعت کا دور شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے یہاں سوالوں اور صدیوں کا حساب بھرت بیوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا ہے۔

تاریخ ۲۹ نومبر ۱۹۸۰ء کی شام کو ۳۰ مارچی الحجہ کا آفتاب غروب ہوا تو زمانہ دفعہ کروٹ لے کر چودھویں صدی سے پدر چودھویں صدی میں منتقل ہوا اور چودھویں صدی پر دہ ماضی میں روپوش ہو کر تاریخ کا حصہ بن گئی:

یکی کن اے فلاں وغیمت شار عمر  
زان پیش کے باکے در آید فلاں در جہاں نماند

چودھویں صدی کی اعتبار سے ہنگامہ خیز، یہ جان انگیز اور پر آشوب ثابت ہوئی، اس صدی میں مادی ترقی اپنے نقطہ عروج کو پہنچی۔ مگر انسانی و روحانی تقدیریں شدت سے پماں ہوئیں، انسانی محنت کا سارا زور انسان سازی کے بجائے اشیاء سازی پر صرف ہونے لگا اور مادت کے عروج اور روحانیت کے نقدان سے انسانی مزاج کا توازن صحیح نہ رہا۔ انسانیت اور بیسمیت کے حدود مدد ہم پڑ گئے، اور یہ عدم توازن انسانیت کے لئے بے حد مملک ثابت ہوا۔

مجموعی طور پر اس صدی کو جدیدیت کی صدی کہا جاسکتا ہے۔ جس کی زمام قیادت مغرب کے ہاتھ میں رہی، اور جدت پسندی کے شوق میں مشرق نے مغرب کی امامت و قیادت قبول کر لی۔ مغربی ذوق و مزاج، مغربی تندیب و ثقافت، مغربی تعلیم و تربیت، مغربی میہشت و معاشرت، مغربی سیاست و قانون اور مغربی افکار و نظریات کا کابوس مشرق پر کچھ ایسا مسلط ہوا کہ وہ اپنی قوی و ملی اور سماجی

و معاشرتی روایات سے دستکش ہو کر مغرب کا تابع محل بن کر رہ گیا۔ اہل مغرب نے کہا تھا کہ ”مشرق مشرق ہے اور مغرب مغرب“ اور یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن مشرق نے ہر کج ادائی میں مغرب مشرق کا ساتھ نہیں دے سکتا تو شر و فساد اور شیطنت و بیسمیت کے ہر کام میں مشرق مغرب کے نقش قدم پر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چنانچہ چودھویں صدی میں مشرق نے اس صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کر دکھلایا، اور وہ ہر نقل و حرکت میں مغرب کی اندر میں تقلید اور زہنی غلائی پر فخر کرنے لگا۔ اس وفاوار شاگرد نے استاد مغرب کی ایسی نقلی کی کہ رنگ کے سوا ”کالے صاحب“ اور ”گورے صاحب“ کے درمیان کوئی فرق و انتیاز باقی نہ رہا۔

مشرق نے جب استاذ مغرب سے تعلیم جدید حاصل کی تو مغربی تعلیم و تربیت کے بطن سے نیچپریت، عقلیت پرستی اور الحاد و تکلیف نے جنم لیا، اور یہ تعلیم یافہ شاگرد خیدا پنے دین و مذہب کی ایک ایک بات کو شک و ارتیاب کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ اسے اپنے اسلاف اور بزرگوں سے شرم آنے لگی، اور وہ دینی شعائر اور اہل دین سے گھن کھانے لگا۔ چنانچہ دین اور حاملین دین کا نذاق اڑانا ایک فیشن بن گیا۔ دینداری کی علمتوں کو ”آہارِ قدیمہ“ کہہ کر پائے احترام سے محکرا دیا گیا۔ خدا و رسول کے فرمودات اور دین و شریعت کے احکام کی وقت دلوں سے نکل گئی۔ یہ ایک ذہنی ارتہ اور تھا جو مغربی تعلیم و تربیت کے راستے سے آیا، اور اس مذہب بیزاری کی وباۓ عام سے صرف وہی لوگ محفوظ رہے جن کو اہل حق کی صحبت میر سمجھی، یا جن کا رابطہ و تعلق مشرقی روایات سے قائم رہا۔ باقی لوگ یا تو صاف صاف مرتد ہو گئے، یا انہوں نے اپنے ذہن میں اسلام کا ایک خود

ساختہ مصنوعی خاک تیار کر لیا، جو فلاسفہ کے ہیولی کی طرح قطعی بھم تھا، اور جس میں ہر لادینیت کھپ سکتی تھی۔ اس کا جو ز آگر نہیں بیٹھتا تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔

مغربی تعلیم و تربیت کے ہدوشِ مشرق نے تندیب و ثقافت اور تمدن و معاشرت کے اصول بھی استاذ فرنگ سے سیکھنے شروع کئے، جس نے وضع قطع، لباس پوشائی، نشست و برخاست اور رہن سمن تک میں مشرق کو مغرب کا شئی بنادیا۔ مشرق کی ایک ایک چیز تندیب فرنگ کا نمونہ بن کر رہ گئی۔ یہ عملی ارتاداد تھا، جو چودھویں صدی میں مشرق کو مغرب سے تختے میں ملا، آج اسلامی ممالک کی اکثریت اسلامی تندیب و ثقافت کا نمونہ نہیں، بلکہ مغرب کی نقل ہے۔

ایسی صدی میں مغرب کے سرمایہ داری نظام کی کوکھ سے اشتراکیت کا کپوت پیدا ہوا۔ (جسے سرمایہ داری کا رو عمل کہا جاتا ہے) اس کے واسطیں بھی مغرب کے یہودی تھے۔ مشرق، جو اپنے مرکز، اسلام سے کٹ جانے کی وجہ سے ذہنی طور پر تکشیت خورده، مظلوم اور ناکارہ ہو چکا تھا اور جس کا کام ہر چیزیں طرف آنکھیں بند کر کے لپکنا رہ گیا تھا، اس سے قطع نظر کہ وہ مفید ہے یا مضر، تریاق ہے یا زہر۔ اس نے اشتراکیت کو بھی انسانیت کی نجات دیندہ سمجھ کر اس سے اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کی۔ حالانکہ جن ممالک میں اشتراکیت کا تجربہ کیا جا چکا ہے ان کے حالات نے واضح کر دیا ہے کہ اشتراکیت زخم خورہ انسانیت کے لئے نجات دیندہ نہیں، بلکہ یہ بد قسم انسانوں کی معاشی و معاشرتی اور سیاسی حیثیت سے "اجتماعی غلام" بیان کی ایک مذہب مگر ہولناک ترکیب ہے۔ اس کے لئے نعرو تو "مزدور راج" کا بلند کیا جاتا ہے، لیکن عملًا جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ معیشت کے سارے وسائل حکمران ٹولے کے باتحہ میں دے کر باقی سب

تکھلوں میں انجی کی جیب میں واپس لوٹ جاتا ہے۔ مگر قرض بہرہ سود پسندہ ممالک کے ذمہ باقی رہ جاتا ہے۔ جو صحیح قیامت تک ادا نہیں ہو سکت۔ مشرق کی یہ حالتِ زار اس قدر لا اُن رحم ہے کہ اس کی ٹیکس بجض اوقات ان کے خونخوار بھیڑوں کو بھی متاثر کئے بغیر نہیں رہتیں، لیکن اسلامی ممالک اس سودی قرضے کی دلیل میں اس طرح پھنس کر رہ گئے ہیں کہ بظاہر اسباب ان کی رہائی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی ممالک بظاہر سیاسی طور پر آزاد ہوئے کے باوجود آج بھی اقتصادی لحاظ سے غلام و حکوم ہیں۔ وہ اپنی غرفت و پسندگی کا مرغیہ پڑھ کر رحم کی اپلیں ضرور کرتے رہتے ہیں لیکن ان میں اتنی جرأتِ رندانہ نہیں ہے کہ مغرب کے اس دامِ تلیس کو توڑ کر آزاد ہو جائیں۔

ایسی صدی میں مغرب کے سرمایہ داری نظام کی کوکھ سے اشتراکیت کا کپوت پیدا ہوا۔ (جسے سرمایہ داری کا رو عمل کہا جاتا ہے) اس کے واسطیں بھی مغرب کے یہودی تھے۔ مشرق، جو اپنے مرکز، اسلام سے کٹ جانے کی وجہ سے ذہنی طور پر تکشیت خورده، مظلوم اور ناکارہ ہو چکا تھا اور جس کا کام ہر چیزیں طرف آنکھیں بند کر کے لپکنا رہ گیا تھا، اس سے قطع نظر کہ وہ مفید ہے یا مضر، تریاق ہے یا زہر۔ اس نے اشتراکیت کو بھی انسانیت کی نجات دیندہ سمجھ کر اس سے اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کی۔ حالانکہ جن ممالک میں اشتراکیت کا تجربہ کیا جا چکا ہے ان کے حالات نے واضح کر دیا ہے کہ اشتراکیت زخم خورہ انسانیت کے لئے نجات دیندہ نہیں، بلکہ یہ بد قسم انسانوں کی معاشی و معاشرتی اور سیاسی حیثیت سے "اجتماعی غلام" بیان کی ایک مذہب مگر ہولناک ترکیب ہے۔ اس کے لئے نعرو تو "مزدور راج" کا بلند کیا جاتا ہے، لیکن عملًا جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ معیشت کے سارے وسائل حکمران ٹولے کے باتحہ میں دے کر باقی سب

کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ گویا پورا ملک ایک میل ہے جس کا جیل حکمران طبقہ ہے، اور ملک کے تمام شری قیدی کی حیثیت رکھتے ہیں، جن سے بیگار لی جاتی ہے، اور اس کے معاوضے میں ان بیگاریوں کی خوراک و پوشک کا اپنی صوابید کے مطابق انتظام کر دیا جاتا ہے۔ آج اسلامی ممالک اشتراکیت اور سرمایہ داری کے دورا ہے پر کھڑے ہیں وہ ایک اثردھا سے بھانگے کی کوشش کرتے ہیں تو سامنے دوسرا عفیت کھڑا نظر آتا ہے۔ مگر ان میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ ان دونوں سے ہٹ کر اپنا راستہ الگ اپنالیں۔

چودھویں صدی میں سائنس اور نیکنالوجی کی ترقی نے دنیا کو بے شمار ایسی ایجادوں سے روشناس کیا، جن کا تصور بھی گزشتہ زمانوں میں نہیں کیا جاسکتا تھا، مگر مغرب کی قیادت کی وجہ سے، چونکہ یہ ترقی ایمان و اخلاق، روحانی اندار اور فکرِ فرد کے احساس سے عاری تھی، اس لئے یہ جدید ایجادوں انسانیت کے لئے راحت سکون کا ذریعہ بننے کے بجائے عذابِ اللہ کا مظہر بن کر رہ گئیں، یہی وجہ ہے کہ جس شخص کے پاس یہ اسباب راحت جتنے زیادہ ہوں گے وہ اسی قدر پریشان اور بے چین نظر آئے گا۔ یہاں تک کہ بہت سے افراد تمام تر اسباب راحت و آسانی کے باوجود طبعی بھوک اور طبعی نیند کی نعمت سے محروم ہیں۔ دو ایسا غذا کی طرح کھلائی جا رہی ہیں، اور تھوڑی دری آرام کے لئے خواب آور دوائیوں گولیوں اور انجکشنوں کا سارالیا جا رہا ہے۔ اور بسا اوقات وہ بھی بے کار ثابت ہوتے ہیں۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان ترقیاتی ایجادوں کے ساتھ خدا فراموشی کا زہر آمیزہ ہے، جو روح اور باطن کو ہر دم بے چین کئے رکھتا ہے۔ اجتماعی نقطہ سے دیکھئے تو آج انسانیت کے سر پر ایسی جگہ کی تواریخ رہی ہے، اور شدید خطرہ کا احساس پیدا ہو چکا ہے کہ یہ نیکنالوجی کی ترقی کسی وقت بھی

انسانیت کو خود کشی کی راہ پر ڈال دے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہے جیتا جاتا جماعت کھنڈرات میں تبدیل ہو کر رہ جائے۔

فطرت کا اصول یہ ہے کہ جو چیز انسانوں کی سرکشی اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا ذریعہ بن جائے اسی کو باغیوں کی گوشہ نمایا کے لئے استعمل کیا جاتا ہے، یہ سائنسی ترقی، جس کے بھرپور خدا تعالیٰ سے بغاوت کی کنیٰ باذنِ اللہ بگزی ہوئی انسانیت کی تاریب کا کام دے سکتی ہے، اور وہ وقت شاید اب زیادہ دور نہیں۔ دیگر ایجادوں کے علاوہ چودھویں صدی میں پرنسپس عام ہوا، کافنڈ اور قلم کی صنعتوں کو روان ہوا، اور یہ رکس و ناکس کو ان سے فضیاب ہونے کا موقع ملا، جس کے نتیجے میں وہ فتنہ نمودار ہوا جسے احادیث طیبہ میں "قصو قلم" کا فتنہ کہا گیا ہے یعنی قلم کا پھیل جانا (اور بعض روایات میں علم کا پھیل جانا آیا ہے)۔

اس فتنہ کا ایک پسلو، جس کی طرف عموماً نظر نہیں جاتی ہے، اور جو واقعہ ہو لتا ہے، یہ ہے کہ گلیوں میں، سڑکوں میں، کوڑے کے ڈھیروں پر، گندی نالیوں میں اور نجاست خانوں میں کافنڈ کی بے ادبی عام ہو گئی ہے، روزانہ کروڑوں ایسے کافنوں کو گندی جگنوں میں پیلا جاتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوتے ہیں، یا جن پر قرآنی آیات یا احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل ہوتی ہیں۔ خدا اور رسول کے نام اور قرآن کریم و احادیث شریفہ کی اس طرح بے حرمتی ہوتے ہوئے دیکھ کر دل کاپ جاتا ہے کہ کہیں اس بے ادبی پر قدرِ اللہ نازل نہ ہو جائے، یہ بات بظاہر بہت معمولی سی معلوم ہوتی ہے، اور گناہ کی یہ خاصیت ہے کہ جب وہ عام ہو جاتا ہے تو معمولی نظر آنے لگتا ہے، لیکن خود مسلمانوں کے ہاتھوں اسلامی ممالک میں خدا اور رسول کے پاک ہاتھوں کی بے ادبی بہت بڑا قدر ہے۔

اس قلم کی قندہ سلطانیاں ہی کیا کم تھیں کہ چودھویں صدی میں ہمیں استاذ مغرب نے تصویر سازی، آواز بندی اور آواز رسالی کے جدید آلات بھی عنایت فرمائے اور مشرق کو رفتہ رفتہ ان چیزوں کا خونگر بنایا۔ آج۔ الاماشاء اللہ۔ گھر گھر تصویریں آؤ رہا ہیں۔

خوبصورتی کے لئے جاندار چیزوں کے مجسمے مسلمانوں کے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، بازار میں کوئی چیز لینے جائے تو پہلے تصویریں استقبال کرتی ہیں۔ چاروں طرف راگ باجے اور قلم کاظموں بربا ہے، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی بدولت گلی گلوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ ایک ایک گھر سینماہل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تمام افراد خانہ مل کر رومانی گاؤں سے دل بملاتے ہیں، اور فلموں پر تبصرے کرتے ہیں۔ نہ باپ کو بینی سے شرم ہے، نہ ماں کو بینی سے، نہ بھائی کو بہن سے۔ کیونکہ ابھیں مغرب نے تقریح کے نام پر ان چیزوں کو رواج دیا تھا، اس لئے مشرق نے شرم و حیا اور غیرت و انسانیت کے سارے تقاضوں کو پشت انداز کر کے ان "تقریحات" سے لطف انداز ہوتا شروع کر دیا ہے۔

اور جمل مرکب نے جو پر پر زے نکالے اس کی داستان طویل بھی ہے اور ہاگفتی بھی۔ جسے شیخ سعدیؒ نے ایک نظر میں او اکر دیا ہے :

"چہ مرد مانند کہ سکدارا بستہ و سکمارا کشادہ"

چودھویں صدی کے پارے میں بعض خود غرض شاطروں نے اپنے غلط دعووں کی ترویج کے لئے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ چودھویں صدی آخری زمانہ ہے، اس لئے قرآن کریم اور حدیث نبویؐ میں قرب قیامت کی جو بڑی بڑی علاماتیں میان کی گئی ہیں (مثلاً حضرت مهدی علیہ الرضوان کاظموں، جمال کائلنا، میں علیہ

السلام کا نازل ہونا، یا جو جو مباحثہ اور ارض کا نکلنا، سورج کا مغرب کی سمت سے طلوع ہونا) وہ سب اسی صدی میں پوری ہوں گی، بہت سے خام عقل اور کم حوصلہ لوگ ان گندم نما جو فروش مکاروں کے دھوکے میں آگئے اور نقد ایمان ان کے ہاتھ فروخت کر بیٹھے، بحمد اللہ چودھویں صدی تکریبیت گزر گئی، اور اس میں قیامت کی بڑی بڑی قیامت خیز علامات میں سے کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی، بلاشبہ ان علامات کا ظہور اپنے مقررہ وقت پر ہو گا اور ضرور ہو گا، جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ لیکن قرآن کریم اور حدیث نبویؐ میں ان علامات کے ظہور کا کوئی وقت معین نہیں کیا گیا، اور نہ اس کا کسی کو علم دیا گیا ہے۔ اس لئے ان خود غرض نو سریازوں اور نہ ہی قراقوں نے قیامت کی علامات کبھی کے لئے چودھویں صدی کا ہو زمانہ تجویز کیا تھا، یہ خالص جھوٹ اور افتراء تھا، اور چودھویں صدی کے افتخام نے ثابت کر دیا کہ ان لوگوں کا دعویٰ غلط تھا، اور جن لوگوں نے کم علمی یا سادگی کی بنا پر ان کے دعووں کو قبول کیا وہ فریب خوردہ تھے۔ اس حتم کے جھوٹے لوگوں کو، جو جھوٹ پر تاویل کا غلاف چڑھا کر اسے بچ پور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، حدیث نبویؐ میں ان کو "وجالون کذابوں" کا خطاب دیا گیا ہے۔

بد قسمی سے چودھویں صدی کی سرحد عبور کرتے ہوئے ہم اپنے ایمان و اخلاق اور انسانیت و شرافت کا بڑا قیمتی اٹاٹہ پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اور ہماری مثال ان لئے پیٹے قافلوں کی سی ہے جو ۷۴ء کے غدر میں اپنا سب کچھ لٹا کر پاکستان کی سرحد میں داخل ہوئے تھے۔ ایمان و اخلاق کی تباہی و بریادی کی طرف چند اشارے اور کئے جا چکے ہیں۔

نئی صدی کے بارے میں بڑے زور و شور سے یہ نظرے ہیں گائے جا رہے

یہ کہ یہ صدی اسلام کے غلبہ اور نشانیہ کی صدی ہوگی۔ اور مسلمان ذات کی پستیوں سے نکل کر عزت و عظمت کی رفتار سے پھر ہمکار ہوں گے۔ آرزو اور خیال کی حد تک یہ خیال بُدا مبارک اور خوش آئند ہے، اور ہر مسلمان کے سینے میں یہ خواہش ضرور موجزن ہوگی کہ وہ اپنی آنکھوں سے دنیا پر اسلام کی حکمرانی کا مشاہدہ کر لے، اور مسلمانوں کو مغرب کے مقتندی اور مقلد کی حیثیت سے نہیں بلکہ دنیا کے لام و قائد کی حیثیت میں انسیں دیکھے، کیونکہ حق تعالیٰ شانے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اقوام عالم کی امامت و پیشوائی کا منصب بخشنا ہے اور "کنتم خبر امة اخر جلت للناس" (تم ہو بہتر امت، بھیجی گئی عالم کے لئے)۔ کاتاچ کرامت اس کے سر پر رکھا ہے، بشرطیکہ وہ "نامر عن بالمعروف و تنهون عن المنكر و تو منون بالله" (حکم کرتے ہو نیک کاموں کا) اور روکتے ہو برے کاموں سے، اور یقین رکھتے ہو اللہ پر کی راہ پر گامزن ہو، لیکن موجودہ حالات میں بدی کی قوتیں جس تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور خیر و صلاح جس سرعت کے ساتھ سمت رہی ہے وہ کسی خوش فہمی کا یقین نہیں دلاتی، بلکہ کسی ہوناک خطرے کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اگر مسلمانوں کی عاصب اکثریت صلاح و تقویٰ سے آرasta اور امر بالمعروف اور نهى عن المنکر کی علمبردار ہوتی تو کسی خطرے کی بات نہیں تھی، لیکن بد قسمتی سے عالم اسلام کی زمامِ قیادت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور جن کا طرز عمل پورے اسلامی معاشرے کو متاثر کر رہا ہے، وہ امر بالمعروف، نهى عن المنکر اور ایمان باللہ کے مفہوم ہی سے نہ آشنا ہیں۔ وہ امر بالمعروف، نهى عن المنکر اور ایمان باللہ کے معراج انسانیت تصور کے بیٹھے ہیں۔ ان کا وجود شر کو مٹانے اور خیر کے پھیلانے میں استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ دانتہ یا نادانتہ ان کے وجود سے شر پھیل رہا ہے اور

خیر و صلاح دم توڑ رہی ہے۔ اس لئے بظاہر اسباب کوئی توقع نہیں کی جاسکتی کہ یہ اپنی حالت کے تبدیل کرنے پر آمادہ ہوں، یا ان سے غلبہ اسلام کا کام لیا جائے۔ پرہہ غیب میں کیا ہے؟ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، لیکن یوں نظر آتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو غلبہ اسلام منثور ہو گا اس سے پہلے راجح الوقت نظاموں کو توڑ پھوڑ ڈالیں گے، اور ان کے تمام سراغنوں کو چن چن کر ہلاک کر دیں گے۔ خدا کی زمین کو ان کے بخوبی وجود سے پاک کیا جائے گا، تب اللہ تعالیٰ اسلام کی نشانہ ہانیہ فرمائیں گے۔ موجودہ باطل نظاموں کی نکست وریخت جب تک نہیں ہوتی، ان شیاطین کو، جنمیوں نے تندب و ترقی کے فریب سے انسانیت کو شیطنت اور بھیت کی راہ پر ڈال دیا ہے، جب تک ترس نہیں نہیں کرویا جاتا، اور غلطاتوں کے یہ ذھر، جو مادیت زدہ پچباوں نے گھر گھر میں لاڈالے ہیں، ان کو جب تک صاف نہیں کرویا جاتا، نہ بدی کی قوتیں پسپا ہو سکتی ہیں، اور نہ دنیا میں کوئی صالح نظام برباد ہو سکتا ہے۔ یہ باطل نظام اور ان نظاموں کو چلانے والے اب موت کی دہنیز پر کھڑے ہیں، یہ خود توڑو بیس گے گمراہنے ساتھ انسانیت کی اکثر آبادی کو بھی لے دویں گے۔ یہ قرآنی کائنات نہیں گے، خواہ یہ قرآنی جگلوں کی شکل میں نازل ہو، یا زرزلوں کی شکل میں، یا طاعون اور وباوں کی صورت میں۔ خدا کی زمین ان سے عاجز آچکی ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کے استدرج و ہملت کا وقت شاید بہت جلد ختم ہو جاہتا ہے۔

نئی صدی کا استقبل کرتے ہوئے مسلمانوں کو بھی نہیں بھونا چاہئے کہ مشیت الٰہی کے فیصلے قوموں کے کردار و عمل کے مقابل ہوتے ہیں، اگر نئی صدی میں مسلمان اس محیط عام عذاب سے بچنا چاہئے ہیں جو بے خدا تندب اور شیطانی تہذیب کی بدولت آنے والا ہے تو ان کا فرض ہے کہ وہ بارگاہ خداوندی میں

بھیں، یہود و نصاریٰ کی نقلی چھوڑ کر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں۔ یہ مغربی تعلیم، جس نے مسلمانوں کے شاہین بجھوں کو زاغ و زاغن بنادیا ہے، بدلتا ہے۔ یہ عورتوں اور دو شیزادوں کی بے جمال و شیم عربی، اور بے حیائی و بے غیرتی، جس سے انسانیت و شرافت سرگوں ہے، اس کا قطعی انسداد کریں۔ یہ ریڈیو کے نفعے اور ٹیلی ویژن کی فلمیں اور تصویریں، اپنے گھروں کو ان سے پاک کریں۔ سینماوں، ہمپتاں اور پکھڑوں کو آباد کرنے کے بجائے خدا کے گھروں۔ مساجد۔ کو آباد کریں، مل حرام اور کسب حرام سے پرہیز کریں۔ عدالتوں میں اسلامی قانون نافذ کریں۔ یہود و نصاریٰ کے ساختہ پروانہ طور طریقوں کو یکسر چھوڑ دیں، اور اپنی اجتماعی والغروی زندگی میں ظاہر اور باطن اسلامی احکام کی تعلیم کریں۔ صرف یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعہ ہم اس عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں جو رسول پر منذرا رہا ہے۔ اگر ہمارے ارباب حل و عقد اور ہمارے جدت پسند حضرات اس کو "ملائیت" "وقیانویت" اور "رجعت پندی" کہ کر لے خدمہ استخزا کی نذر کر دینا چاہتے ہیں تو جو عذاب ان نافرمان قوموں پر آئے گا اس کا رخصب سے پسلے اس مسلمان قوم کی طرف ہو گا، جو اسلام کیلئے ننگ و غار کا موجب بن چکی ہے۔

حافظ وظیفہ تو دعا گھنن است وہی  
دریند آں مباش کے شیند یا شنید

حق تعالیٰ شان امت مسلم کی حفاظت فرمائیں، اور نبی صدر میں جن فتنوں کا ظہور مقدر ہے ان سے پناہ میں رکھیں۔ اے اللہ! اپنے محبوب صلی اللہ

علیہ وسلم کی امت کو رسوانہ فرم۔ اے اللہ! ہمارے تمام جرائم، تمام قصوروں اور تمام گناہوں کو معاف فرم۔ اے اللہ العالمین! جن بے خدا قوموں نے انسانیت کو بکارا ہے ان کو ہدایت عطا فرم۔ اور جن کے حق میں ہدایت مقدر نہیں ہے ان کو چن چن کر بلاک فرم۔ ان کے وجود سے صفحہ ہستی کو پاک کر دے، ان پر زمین کو چھاڑ دے، اور ان کو عاد و ثمود کی طرح تباہ و برباد فرم۔ اے اللہ! ان تمام ملحدہ وزنادقہ کو جنمون نے تیرے دین کو بکارا ہے تو ان کو بکارا ہے، جنمون نے امت محمدیہ (علیٰ صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) کو تکڑے تکڑے کیا ہے تو ان کے تکڑے اڑاؤ۔ اے اللہ! جنمون نے تیرے دین کی بے حرمتی کی ہے، تو ان کو پاش پاش کر دے۔ اے اللہ! جنمون نے تیرے دین کے مقابلے پر بد عات ایجاد کی ہیں ان کے دلوں کو، ان کے چہوں اور ان کے جسموں کو مسخ کر دے۔ اے اللہ! جن عارٹ کر دے۔

نَنِيْنِ يَا ربِ الْعَالَمِينَ۔

وَصَلَى نَعَلَى عَلِيٍّ خَبَرُ خَلْقِهِ صَفْوَةُ الْبَرِيَّةِ سَبَبَ  
مُحَمَّدًا وَآلَهُ وَاصْحَابِهِ وَابْنَهُ وَصَلِحَاءِ امْتَهَا جَمِيعِينَ

(ابن مدد بیانات ۱۹۸۰ء)

## سیاہ فام لوگوں کی

# اسلام کی طرف رغبت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سیاہ فام لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں اس بات کا اکشاف اسلامی نظریاتی کوئل کے چیزیں ڈاکٹر تنزیل الرحمن نے گزشتہ دنوں ایک مذاکرہ میں کیا جس کا موضوع "انسانیت کے مستقبل کی تخلیل میں اسلام کا حصہ" تھا، ملائشیہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا۔ اس وقت اسلام کی طرف سب سے زیادہ جو قوم آری ہے وہ سیاہ فام لوگوں ہی کی قوم ہے، اس سے اسلام کی حقانیت کا ایک دوسرا پہلو، خود مخدود واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام واقعی مساوات کا سبق دیتا ہے۔

پچھلی صدی میں، دنیا کی سب سے مظلوم قوم سیاہ فام قوم ہی تھی، دنیا میں ہر جگہ یورپی اقوام نے ان سیاہ فاموں پر مظالم ڈھانے، ان کو غلاموں سے بھی بدتر رکھا، یعنی وجہ ہے کہ آج یہ قوم یورپ اور یورپی اقوام سے بیزار اور نفرت کر رہی ہے اور اسلام کی طرف راغب ہو رہی ہے، مگر کپا ہم ان لوگوں کو صحیح اسلام کی دعوت بھی دے رہے ہیں، یا یہ تیکارے ایک غلط جگہ سے نکل کر دوسری غلط جگہ میں پھنس رہے ہیں؟ کہیں یہ تیکارے "آسمان سے گرا اور کھور میں انکا" کے مصدق تو نہیں بن رہے

ہیں؟ ایک اور بات اس میں یہ بھی قابل ذکر ہے کہ اسلام دنیا میں اخلاق و کردار کی بنا پر پھیلا ہے، اور غیر مسلموں نے مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ اس لئے اس وقت اس بات کی بے حد ضرورت ہے کہ یہ روشنی محاکم میں ایسے افراد کو تبلیغ کرنے بھیجا جائے جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوں اور ان کے عقائد صحیح ہوں اور وہ عقیدہ توحید پر غیر مترابط یقین رکھتے ہوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کی اپنی زندگی بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوتا کہ وہ ان سیاہ فام لوگوں کو ایک تو اسلام کی صحیح دعوت دیں دوسرے ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کرو وہ لوگ ایسے متاثر ہوں کہ ان میں خود مخدود اسلام قبول کرنے کا جذبہ ابھر آئے، اس لئے ہماری اسلامی نظریاتی کوئل اور حکومت سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس سلسلہ میں بذات خود پھیلی لے اور تبلیغ پر جانے والے افراد کا خود ذمہ لے تاکہ اسلام کے نام پر دوسرے غلط لوگ ان لوگوں کو ایک جہنم سے نکال کر دوسری جہنم میں نہ دھیل دیں۔

(افتتاحیہ صحیح اقراء روز نامہ جگ کراچی ۱۳ افریوری ۱۹۸۱ء)

## اتحاد و اتفاق کی برکت

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى : اما بعد ،

قرآن کریم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام کا ذکر کرتے ہوئے حق  
تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں :

وَإِنْ يَرِيدُوا أَنْ يَخْدُعُوكَ فَإِنْ هُوَ إِلَّا فِي  
إِيَّاكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَالْفَيْضُ  
أَنْفَقَتْ مَا فِي الْأَرْضِ حَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ  
وَلَكُنَّ اللَّهُ أَكْبَرُ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
(انقل، ۳)

ترجمہ : "اور اگر وہ (کافر) لوگ آپ کو دھوکا دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ  
آپ کے لیے کافی ہے وہ وہی ہے جس نے آپ کو اپنی (نیبی) امداد (ملا نکمہ)  
سے اور (ظاہری امداد) مسلمانوں سے قوت دی۔ اور ان  
کے قلوب میں اتفاق پیدا کر دیا۔ اور اگر آپ دنیا بھر کا مال خرج  
کرتے تب بھی ان کے قلوب میں اتفاق پیدا نہ کر سکتے۔ لیکن اللہ  
نے ہی ان میں باہم اتفاق پیدا کر دیا ہے شک وہ زبردست ہیں حکمت  
والے ہیں۔"

اس آیت کریمہ میں حق تعالیٰ شانہ نے اس انعام عظیم کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ  
تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور عنایت خاصہ سے اہل ایمان کے دلوں میں جوڑ پیدا کر  
کے انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق کی نصرت و حمایت پر لگا دیا۔ یہ  
ارشاد خداوندی ہمارے سامنے حکمت و بصیرت کے بہت سے پہلو رکھتا ہے۔

اول یہ کہ اہل ایمان کا اتحاد و اتفاق ایک نعمت عظیمی اور ان کا مشتمل و افتراء۔  
آفت کبھی ہے، قرآن کریم میں جہاں ان عذابوں کا ذکر کیا گیا ہے جو منجانب اللہ  
آسمان سے نازل ہوں یا زمین سے پھوٹ پریں، وہاں انہیں کے پہلوویں یہ عذاب بھی  
ذکر فرمایا کہ تمہیں مختلف جماعتوں اور گروہوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے گمرا  
دے :

فَلَمْ يَرَهُوا مَنْ يَعْتَذِرُ عَنْكُمْ عَذَابًا مِّنْ  
فُوقِكُمْ أَوْ مِنْ نَحْنٍ تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يُلْبِسُكُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْبِقُ  
بَعْصُكُمْ بَأْسًا بَعْضُكُمْ كَيْفَ يُنْفِرُ كِفْرَ الْأَيَّامِ لِعِلْمِهِمْ  
يَعْمَلُونَ۔  
(انعام، ۴۶)

ترجمہ : "آپ کہئے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب  
تمارے اوپر سے سمجھ دے یا تمارے پاؤں تلمے سے یا کہ تم کو  
گروہ گروہ کر کے سب کو بھرا دے اور تمارے ایک کو دوسرے کی  
لڑائی چکھا دے۔ آپ دیکھئے تو سی ہم کس طرح دلائل مختلف  
پہلوویں سے بیان کرتے ہیں شاید وہ سمجھ جائیں۔"

(بیان انعام)

اور منافقوں کی ناگفتہ حالت پر تبہہ کرتے ہوئے جہاں ان کے اور بہت سے

اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق و نصرت شامل حال نہ ہو اور مسلمان عنایت خداوندی کا مسرونه بن جائیں ان کے درمیان الفت و اتحاد اور ایثار و احتمال کی فضاید انہیں ہو سکتی۔ دنیا بھر کے افلاطون مل کر تمدیریں کریں اور اس کے لیے دنیا بھر کے خزانے خرچ کر دلے جائیں مگر اس مم میں کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اور مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کا خواب کبھی شرمندہ تبدیل نہیں ہو سکتے۔

**سوم۔** — مادی اسباب و وسائل اور مال و دولت کے ذریعہ تو الٰ ایمان کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون ہی چیز تھی جس کی وجہ سے حق تعالیٰ شانہ نے صحابہ کرامؐ کے بکھرے ہوئے شیرازہ قلوب کو جمع کر دیا اور وہ کون ہی مقناطیسی قوت تھی جو ان کے لئے رحمت خداوندی کو آسمان سے کھینچ لائی؟ اس کا جواب اسی آیت کریمہ میں موجود ہے کہ یہ حضرات صحبت نبویؐ کے فیضان کی برکت سے دو دولتوں سے مشرف تھے اور یہی ان کے اتفاق و اتحاد اور شیرازہ بندی کی کلید تھی۔ ایک یہ کہ وہ ایمان کامل کے حامل تھے۔ دوسری یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کو انہوں نے اپنی زندگی کا واحد مقتضیہ بنا لیا تھا، اور اس تائید نبویؐ سے وہ جارحانہ ایسی کی حیثیت اختیار کر چکے تھے:

”هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرَهُ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔“

ترجمہ: ”وہی ہے جس نے آپ کو قوت دی اپنی مدد سے اور الٰ ایمان کے ذریعہ۔۔۔“

ایمان کامل جد ملت کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے، انسان جب زندہ ہو اور تمرست و توانا بھی ہو تو اس کے اعضاء ”جس و الحمد“ کہلاتے ہیں۔ ان کے درمیان نہ صرف یہ کہ کوئی اختلاف و امتحان نہیں ہوتے بلکہ وہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ اور جب آدمی کی روح نکل جائے تو اس کے اعضاء کش

عیوب و جرمائی کو ذکر کیا گیا ہے وہاں ان کی یہ حالت بطور خاص ذکر کی گئی ہے:

وَنَحْسِبُهُمْ حَمْعًا وَقَنْوِيهِمْ شَتِّي۔ ذالک بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقُلُونَ۔  
(بیت ۲۷)

ترجمہ: ”اے مخاطب تو ان کو ظاہر میں متفق خیال کرتا ہے حالانکہ ان کے قلوب غیر متفق ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو (دین کی) عقل نہیں رکھتے۔“

(یاں القرآن)

اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ الٰ ایمان کے درمیان آپس کا جوڑ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کس قدر پسندیدہ ہے، اور کسی قوم میں انتشار و افتراء کا پیدا ہو جانا کس قدر مکروہ و ناپسندیدہ ہے۔

**دوم۔** — صحابہ کرامؐ کے درمیان اتفاق و اتحاد اور ان کے دلوں میں جو ز پیدا کر دینے کو حق تعالیٰ شانہ نے اپنی قدرت کاملہ کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اور اس امر کی تصریح فرمائی ہے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کے خزانے اور تمام مادی وسائل صرف کر کے ان کے نوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی کوشش فرماتے تو اس میں آپؐ کو کبھی کامیابی نہ ہوتی۔ یہ محض حق تعالیٰ شانہ کا انعام و احسان تھا کہ ان کے درمیان فوق العادت اتفاق و اتحاد پیدا کر دیا۔ اور پوری ”قوم یک جان دو قلب“ کا مصدقہ بن گئی۔ اس الفت و اتحاد کی برکت سے صحابہ کرام رضوان اللہ سلیم اعلیٰ میں کے درمیان باہمی اعتماد و ایثار کی فضاید پیدا ہو گئی۔ ان میں سے ہر ایک اپنی رائے پر دوسروں کی رائے کو۔ اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو اور اپنی جان پر دوسروں کی جان کو ترجیح دیتا تھا۔

کٹ کر الگ ہو جاتے ہیں، اور اگر روح تو موجود ہو لیکن جسم و اعضاء مغلوب و مسلول یا نتوال ہوں تو وہ خواہش کے باوجود ایک دوسرے کی مدد سے قاصر رہتے ہیں۔ تھیک اسی طرح جب جد ملت میں ایمان کی روح کار فرمایو تو اس کے تمام اعضاء "جذ و احمد" کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حدیث میں ارشاد ہے :

نَرِيَ الْمُؤْمِنِينَ فِي نَرِاحِهِمْ وَنَوَادِهِمْ وَنَعَاطِفَهُمْ  
كَمَثَلِ الْحَدَدِ إِذَا أَشْتَكَى عَضُواً ثَلَاثَةَ عَلَى لِهِ  
سَأَنِرِ الْحَسَدَ بِالسَّهْرِ وَالْحَسْنِ۔

(متن علی)

ترجمہ : "تم اہل ایمان کو باہمی رحمت، باہمی محبت اور باہمی شفقت و ہمدردی میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے کہ اگر ایک عضو کو تکلف ہو تو پورا بدن اس کی وجہ سے بے چینی اور بخار میں جلا ہو جاتا ہے۔"

ایک اور حدیث میں ہے :

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْانِ يُشَدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَكَرْ  
بَيْنَ أَصَابِعِهِ

(متن علیہ شکوہ ص ۳۳۲)

ترجمہ : "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکلیاں ڈال کر فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لئے ایسا ہے جیسے ایک ہمارت ہے کہ اس کے بعض اجراء بعض کو قابل ہوئے رہتے ہیں۔"

ایک اور حدیث میں ہے :

الْمُؤْمِنُونَ كَرِحْ وَاحِدَانَ أَشْتَكَى عَيْنَهُ أَشْتَكَى كَلَهُ

وان اشتکی راسہ اشتکی کلہ

(محض مسلم)

ترجمہ : "تمام اہل ایمان کی خلل فرد واحد کی ہے، کہ اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا بدن درود مند ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو بھی پورا بدن بے چین ہوتا ہے۔"

دوسری چیز جو کسی قوم کے اتحاد و اتفاق کی ضامن ہے وہ ہے اس کی اپنے نصب العین سے والائیگی۔ اہل ایمان کا عظیم الشان نصب العین، جو نہ کوہہ بالا آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے لائے ہوئے دین کی نصرت و حمایت ہے۔ امت جب تک اس نصب العین پر قائم رہے گی اور اس کے لئے جان مل اور خواہشات کی قربانی دیتی رہے گی اس وقت تک ہتوںقش اللہ محدود متفق رہے گی۔ اور جب اس کا یہ نصب العین اس کی نظر سے او جمل ہو جائے گا اور وہ اپنے مقدس نصب العین سے ہٹ کر خواہشات کے پیچے دوڑنے لگے گی اس میں ضعف و اختلال پیدا ہو گا۔ اور اس کے متوجہ افتراق و انتشار کی صورت میں نمایاں ہوں گے۔

ہمارے وانشور اٹھتے بیٹھتے قوی اتفاق و اتحاد کے وعاظ کرتے ہیں، ان کی کوئی تقریر اس موعد حصہ سے خلی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر صرف پیکھوں، تقریروں، تحریروں، رسالوں، اخباروں اور ذرا رائج ابلاغ کے پر دیگنڈے سے "لنجہ اتحاد" حاصل کیا جا سکتا تو امت مسلمہ سب سے بڑھ کر محدود ہوتی جس سے معلوم ہوتا ہے اتفاق و اتحاد کی کلید وہی ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے یعنی قوم میں ایمان صحیح پیدا کیجئے اور اسے دین گیم کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی میشن کرائیے۔ ایمان سے محبت اور نصب العین سے عشق ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ منشر قوم کو

جمع کرتے ہیں اور ان کے ٹوٹے ہوئے قلوب کو جوڑتے ہیں :

بِاِيمَانٍ امْنَوا اَنْ تَنْصُرُوا اللَّهُ يَنْصُرُكُمْ وَيُثْبِتُ

اَقْدَامَكُمْ

(مکہ، ۲)

ترجمہ : "اے ایمان والو اگر تم ہو کو گے اللہ کی توجہ تمہاری مدد  
کرے گا اور جماوے گا تمہارے پاؤں"۔

(ترجمہ شیخ النبی)

وَصَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَلَّمَ مُحَمَّدٌ

وَعَلَى الْهُوَاصِحَّابِهِ وَأَنْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ — آمِنٌ۔

(یحییٰ ربيع الثانی ۱۴۰۳ھ)

## خواتین کا مطالبه... حق طلاق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عَبْدِهِ الَّذِينَ أُصْطَفَيْتُمْ

ایک اخباری اطلاع کے مطابق مصر میں خواتین کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ وہ  
اپنے شوہروں کو طلاق دے سکتی ہیں۔ اور ہمارے یہاں کی بروے گھرانوں کی بیگنات کا  
مطالبه بھی سامنے آیا ہے کہ خواتین کو طلاق کا حق دیا جائے۔

نکاح ایک ایسا مقدس رشتہ ہے جس سے بے شمار اخلاقی، معاشرتی اور معاشی  
سائل وابستہ ہیں۔ اس لیے شریعت نے اس کی بنیاد باہمی الفت و محبت پر رکھی ہے۔  
حدیث شریف میں ہے :

لَمْ تُرِكْ لِلْمُنْتَحَابِينَ مِثْلُ النِّكَاحِ۔

(مشکلۃ حجۃ، ۲۸۸)

ترجمہ : "تمہیں دو محبت کرنے والوں کے لئے نکاح بھی چیز نہیں  
ملے گی"۔

یہی وجہ ہے کہ شیطان کو جس قدر خوشی زو جھیں کی ناقابلی و ناجاہتی اور ان کے  
درمیان تفرق پیدا کرنے سے ہوتی ہے ایسی خوشی کسی بڑے گناہ سے بھی نہیں ہوتی۔  
ہماری شریعت نے اس رشتہ کے بقا و احکام اور اس میں خوشنگواری پیدا کرنے کے  
لئے میاں یہودیوں کو ایسی ہدایات سے سرفراز کیا ہے کہ اگر ان کی پابندی کی جائے  
تو نہ صرف یہ کہ زو جھیں کے درمیان منافرت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ان کا گھر دنیا میں

جنت کا نونہ بن جاتا ہے۔ لیکن بساوقات دونوں کے درمیان طبعاً موافق پیدا نہیں ہوتی۔ یا ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے اخلاقی و معاشرتی حقوق نہیں بجا لاسکتے ان حالات سے عمدہ برآ ہونے کے لئے شریعت نے طلاق اور خلخ کی صورتیں تجویز فرمائی ہیں، طلاق کا حق مرد کو تفویض کیا ہے اور خلخ کے مطالبات کا حق عورت کے لیے رکھا ہے۔

انسان میں اللہ تعالیٰ نے جمال عقل و تدریب، معاشرہ فہمی اور انجام بینی کا جو ہر دویعت فرمایا ہے وہاں اس کے اندر کچھ طبیعی جذبات بھی رکھے ہیں، اگر آدمی ان جذبات سے مغلوب ہو جائے تو بساوقات اسے غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں اس لئے حکم یہ ہے کہ جذبات پر عقل کو غالب رکھنا چاہئے اور عقل کی عکیل شریعت کے ہاتھ میں رہنی چاہئے، آدمی اپنے جذبات کے مقتضی پر عمل نہ کرے جب تک عقل اس کے جواز کا فتویٰ نہ دے۔ اور مجرد عقل کے فیصلے پر عمل نہ کرے جب تک کہ شریعت مطہرہ اس کے صحیح ہونے پر مرقدیق ثبت نہ کرے۔ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ بساوقات جذبات کی رو میں بہہ کر خلاف عقل فیصلے کر جیتا ہے۔ بعد میں جب جذبات کا جوش ٹھہڑا ہوتا ہے تو آدمی اپنے عاجلانہ فیصلے پر پیشمن ہوتا ہے، اور یہ جذباتیت مروں کی بہ نسبت صفت نازک میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ نکاح کے بعد ہن کو ختم کرنے کے لئے شریعت نے مرد کو تو طلاق کا اختیار دیا ہے لیکن عورت کو طلاق کے بجائے خلخ کا اختیار تفویض کیا ہے، کیونکہ خلخ کا فیصلہ اگر فریقین کی رضامندی سے رضا کار نہ طور پر ہو تو عورت کا اپنے اہل قربت اور خیر خواہوں (والدین وغیرہ) سے مشورہ ناگزیر ہوگا اور اگر عدالتی سلطیح پر ہو تو عدالت کا فیصلہ ضروری شرط ہو گا۔ اور یہ دونوں چیزیں (یعنی پہلی صورت میں والدین اور عزیزو اقارب کا مشورہ اور دوسرا صورت میں عدالت کا فیصلہ) بڑی حد تک عورت کی

جدبائیت کا تدارک کر سکیں گی۔

آج کل پاکستان میں گھریلو معاملات و تباہیات کو نہیں نے کے لئے جو مخصوص عدالتیں فیملی کورٹس کے نام سے قائم کی گئی ہیں، ان میں ۹۹ فیصد فیصلے عورتوں کے حق میں ہوتے ہیں۔ مشکل سے ایک فیصد کیس ایسے ہوں گے جن میں عدالت نے عورت کے بجائے مرد کے حق میں فیصلہ کیا ہو۔ کسی خاتون کی جانب سے جب بھی خلخ کی درخواست کی جاتی ہے، بلا کلف عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا جاتا ہے (اس سلسلے میں یہ عدالتیں بساوقات شرعی اصول و قواعد کو بھی محوظ نہیں رکھتیں اور ان کا فیصلہ شرعی نقطہ نگاہ سے غلط ہوتا ہے)۔ اس صورت حال کو پیش نظر رکھا جائے تو ہرے گھرانوں کی یہ خواتین جس حق کا مطالبه کر رہی ہیں وہ تو انہیں ان کے مطالبه سے بھی پہلے مل چکا ہے، اور اس کا انہیں علم بھی ہے۔ پاکستان میں کسی عورت کو اپنے شوہر سے گلوغاصی کرنے میں قطعاً کوئی دشواری ہی نہیں۔ اب ان کا یہ مطالبه کہ عورتوں کو طلاق کا حق دیا جائے محض عورتوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو حل کرانے کی خاطر نہیں بلکہ اس کا ہفتا مغرب کے نقش قدم کی پیروی ہے۔ یعنی جس طرح مغرب میں طلاق کا حق مردوں کے بجائے عورتوں کو دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ خواتین چاہتی ہیں کہ طلاق کا حق عورتوں کو ملنا چاہئے کہ جب بھی ان کا بھی شوہروں سے بھر جائے فوراً شوہروں کو چھٹی کر دیں۔ اگر یہ معزز خواتین اپنے تباکار شوہروں سے الی ہی تک ہیں تو ان کو اس مطالبة سے کون روک سکتا ہے، لیکن اس مطالبه کو قانونی مشکل دینے کے لئے ایوب خان کے عائلی قوانین کی طرح شریعت محمدیہ کے خلاف ایک نئی شریعت تصنیف کرنے کی ضرورت ہو گی۔ قرآن کریم نے جمال جمال طلاق کا ذکر کیا ہے اسے مردوں کی یہ طرف منسوب کیا ہے، اور خود عقل سلیمان کا تقاضا بھی یہی ہے، جیسا کہ اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ ازدواجی بندھن کو ختم کرنے کا

اہم ترین معاشرت کی جذباتیت کے حوالے نہ کیا جائے۔ یہ معزز خواتین اگر اپنے شوہروں کو طلاق دینے پر بھند ہیں تو اس سے پسلے ان کو قرآن اور عقل دونوں کو طلاق دینی ہو گی۔ پھر ان پڑھی لکھی خواتین کو جو شاہراہ مغرب پر پکڑت دوڑ رہی ہیں، یہ معاشرہ صرف طلاق تک محدود نہیں رکھنا ہو گا بلکہ اسی کے ساتھ ان کا یہ مطالباً بھی سامنے آئے گا کہ مردوں کو چار عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے اسی طرح ان کو بھی چار مردوں سے نکاح کی اجازت ہی جائے۔ اسی کے ساتھ وہ سارے مناظر اور سارے تماشے ان کے سامنے آئیں گے، جو آج مغرب میں دیکھے جا رہے ہیں۔ کھلی پار کوں میں سب کے سامنے اور بے غیرت شوہروں کے سامنے جنمی ملاب کے واقعات بھی مغربی معاشرت کا روزمرہ ہیں، حرای پچھس کا تقدس بھی تندب مغرب کا لازم ہے۔ اور عقد نکاح اور رشتہ ازدواج کی ضرورت بھی مغرب میں مخفی ملکف کی حیثیت اختیار کر چکی ہے اور اس قسم کے بے شمار ناگھنی و ناکردنی مناظر آج مغرب میں سرکی آنکھوں سے دیکھے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے مغربی معاشرہ انسانوں کے بجائے بندروں بین مانسوں بلکہ کتوں اور خنزروں کا معاشرہ کھلانے کا زیادہ سحق ہے؟ وہاں بیسیت و جنسیت کا ایسا بازار گرم ہے جس سے وہاں کے اہل خرد بھی نالاں ہیں، مگر اس طوفان کے سامنے بند باندھنے کی کوئی تدبیر ان کی سمجھ میں نہیں آتی؛ وہاں جنسیت کے دست جنوں نے عورت کے دامن عفت کو تار تار کر دیا ہے، وہاں ایک فیض خواتین کے عغیف و پاکد امن ہونے کی بھی قسم نہیں کھلائی جاسکتی۔ جب کہ مغربی تعلیم کے "فیضان" سے پسلے مشرق کی "ان پڑھ" خواتین میں سے ۹۹ فیصد کی عفت و پاکد امنی کی قسم کھلائی جا سکتی تھی۔ کیا یہی وہ تحفہ ہے جو مشرقی خاتون کو دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟

ان خواتین کے یہ مطالبات یا اس سے بڑھ کر کچھ اور مطالبات دراصل تعلیم

جدید کے متعلق متوجہ ہیں، جو نظام تعلیم ہمارے یہاں راجح ہے جس تعلیم کے حصول کو مایہ اختصار تصور کیا جاتا ہے، اور جس کی ترغیب و تشویق شب و روز دی جا رہی ہے اس سے مرد و زن کے بے محابا اخاطط، عورتوں کی عربانی اور مرد و زن کی تمیز اٹھانے کے سوا اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے:

دیبانتوں یافت ازاں پشم ک رشم  
خرمانتوں یافت ازاں خیار ک رشم

اس تعلیم جدید ہی کی غاریگری ہے کہ اس نے قدروں کے سانچے بدل دیا، اور انسانیت کا حلیہ بگاڑ دیا اس نے مرد کی مردگانگی اور عورت کی نسوانیت کو کچل کر رکھ دیا۔ جب تک موجودہ مغربی طرز تعلیم حاری ہے اور جب تک اسکوں، 'کالجوں' یونیورسٹیوں کی شکل میں انسانیت کے مقابل موجود ہیں، ہمارے یہاں وہ سب کچھ ہو گا جو مغرب کے کافروں بے خدا معاشرے میں ہو رہا ہے، ہمارے طریف شاعر نے صحیح کہا تھا:

یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا  
افسوس کہ فرعون کو کانج کی نہ سو جھی

آج ہمارے معاشرے میں مغربی تعلیم کی سمیت پوری طرح رچ بس چکی ہے، اور گلی کوچلوں میں، بازاروں میں، کلبوں میں، سینماوں میں، تعلیم کا گھوں میں، دفاتر میں، اسپلیوں میں عورتوں کے آرائش صن کے مناظر اسی زہر آسود مغربی تندب و تعلیم کے آثار ہیں جو ایک صدی سے قوم پر مسلط ہے۔ اور ناخدیاں قوم میں سے کوئی ایسا تو کیا ہوتا، جو اس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتا، اثاثاں تعلیم کو عام کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ اور اٹھتے بیٹھتے اس کی تلقین کی جا رہی ہے۔ حضرت

حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ نے آج سے پون صدی پلے قوم کو اس خطرہ سے آگہ کرتے ہوئے فرمایا تھا :

”بعضے آدمی اپنی لوگوں کو آزاد لور بے باک عورتوں سے تعلیم دلاتے ہیں، یہ تجربہ ہے کہ ہم صحبت کے اخلاق و جذبات کا آدمی میں ضرور اثر آتا ہے۔ خاص کر جب وہ شخص ہم صحبت ایسا ہو کہ متیوع اور معظم بھی ہو، اور ظاہر ہے کہ استاذ سے زیادہ ان خصوصیات کا کون جامع ہو گا تو اس صورت میں وہ آزادی و بیجانی ان لڑکیوں میں بھی آؤے گی۔ اور میری رائے میں سب سے بڑھ کر جو عورت کا حیا اور انتہاض طبعی ہے، اور یہی مقلح ہے سب خیر کی، جب یہ نہ رہا تو اس سے نہ پھر کوئی خیر متوقع ہے نہ کوئی شر مستبعد ہے۔“

آج جدید تعلیم گاہوں کے اعداؤ شمار جمع کیے جائیں تو اساتذہ اور استادیوں کی اکثریت ادینی نظریات کے حاملین کی نظر آئے گی۔ جب تک اس نظام تعلیم کی اصلاح نہیں ہوتی ہی نسل سے کسی خیر کی کیا توقع کی جاسکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ امت مرحومہ کے حال پر رحم فرمائیں اور اہلیں کے جال سے اس کی حفاظت فرمائیں۔ آئین۔

وَصَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَيْرِ حَدِيقَةِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ

وَاتَّبَاعِهِ اجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔

(بیانات دادا جی ۵۷۰)

# پاکستان میں تعلیم یافتہ خواتین

بسم اللہ الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الدين اصطفى۔ اما بعد  
روزنامہ جنگ لاہور اور کراچی (ٹکافروری ۸۶ء) میں جتاب پروفیسر وارث میر کا  
ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے ”پاکستان میں تعلیم یافتہ خواتین کے لئے مغرب  
زدگی کی اصطلاح گمراہ کن ہیں“ اس مضمون میں عورتوں کی فرضی مظلومیت کا اظہار کرتے  
ہوئے جدید طبقہ کی خواتین کو خدا اور رسولؐ کے خلاف اکسانے کی کوشش کی گئی۔  
ناصل مضمون نگار نے اپنے مضمون کی بنیاد مغرب کے ان معاشروں پر رکھی ہے  
جہاں خواتین اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں مضمون نگار کو یہ شکوہ ہے کہ ماہرین نفیات  
نے اب تک عورت کی نفیات اور مستقبل میں اس کے انکافی کردار کا کوئی سائنسی  
مربوط و مبسوط معالعہ پیش نہیں کیا۔ انہوں نے مغرب میں خواتین کی مردوں کے خلاف  
بخلافت کے مناظر پیش کر کے ایک فرانسیسی خاتون بوائزکی کتاب کا بطور خاص ذکر کیا ہے  
جس نے عورتوں کو مردوں کے خلاف بھڑکانے میں برا اہم کردار ادا کیا ہے، مضمون نگار کو  
عورتوں کا مردوں کے خلاف جنگ مغرب سے گزر کر مشرق میں بھی چھیڑا نظر آتا ہے،  
اس نے انہوں نے بڑی دلسوzi سے پاکستان کے سیاسی رہنماؤں اور مذہبی علماء کو چند  
پر خلوص مشوروں سے نوازا ہے۔

مغرب کے مرد یا عورتیں اگر اپنے حقوق و فرائض کے اڑے متعین رہے میں  
اب تک بھڑک رہے ہیں تو اس پر ذرا بھی حرمت نہیں کیونکہ وہ ایمان و ہدایت کی دولت  
سے محروم ہیں نہ ان کے پاس کسی نبی کا لالیا ہو اکوئی عادلانہ نظام حیات ہے، نہ آسمانی کتاب

ہے نہ خدا تعالیٰ کی حکایت وحدانیت کا صحیح تصور ان کے پاس موجود ہے، جس قوم کا رشتہ نبوت و رسالت سے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و حکایت سے، ایمان بالآخرت سے، اور آسمانی پدایت سے کٹ چکا ہوا، اگر افراط و تفریط کی وادیوں میں سرگردان نظر آتی ہے، وہاں کے ماہرین نفیات اگر عورت کی نفیاتی شخصیت کی عقدہ کشائی سے قاصر نظر آتے ہیں اور وہاں اگر مرد و عورت کے حقوق و فرائض کے دائرے تھیں کرنے کے لئے دونوں فرقوں کی جنگ جاری ہے تو یہ ان کی ایمان و پدایت سے محرومی کا مطلقی نتیجہ ہے۔

اس کے بر عکس ایک مسلم قوم جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منشور پدایت پر ایمان رکھتی ہے۔ جس کے پاس قرآن و سنت کی مکمل میں ایک جامع ترین ضابط حیات موجود ہے اور جو زندگی کے ایک ایک قدم پر رسول علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدلایات پر عمل پیرا ہونے کا عمدہ باندھے ہوئے ہے اس قوم کو اقوام مغرب پر قیاس کرنا اور اس کے سامنے بواز ایسی خدا بیزار خواتین کی میلادیں پیش کرنا باعث حرمت و تھبہ ہے، جس معاشرے کے مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی بالآخر طاقت و شخصیت ایسی موجود نہ ہو جو ان کے تمازجات کا فیصلہ نہداوے وہ یہی شرط رہتے رہیں گے اور ان کو لزماں ہی چاہئے لیکن جس معاشرے کے مردوں زین کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ترین شخصیت موجود ہو ان کے درمیان زندہ و مردان جنگ اول تا شروع ہی نہیں ہو گی اور اگر کسی فریض کی غلط شخصی یا جذباتیت سے شروع ہو جائے تو فیصلہ نبوی سنن کے بعد فوراً ختم ہو جائے گی۔

اگر مغرب کے ماہرین نفیات عورت کی نفیات کا صحیح مطالعہ کرنے میں اب تک کامیاب نہیں ہو سکے (اور انشاء اللہ ربی و نبی انت اہمیں اس میں کامیاب نہیں ہو گی) تو سوچنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ جو مرد اور عورت دونوں کی فطرت اور نفیات کا خالق ہے، ایسی اس کے بارے میں کوئی مسلمان یا مسلمان اُر سکتا ہے کہ وہ (اخنوذ بالتد) عورت لی نظرت اور نفیات سے واقف نہیں؟ جب کہ اللہ تعالیٰ نے جو علیم و خبیر بھی ہے اور حکیم مطلق بھی، مردوں اور عورتوں کے الگ الگ حقوق و فرائض واضح کر دیے ہیں ہر ایک کا دائرہ حقوق

تعین کر دیا ہے، جب اللہ و رسول کے قطبی احکام و فرائین ہمارے پاس کتاب و سنت کی مکمل میں بغیر کسی شک و شبہ کے موجود ہیں اور جب کہ ہمارا ان احکام و فرائین پر کامل ایمان و ایقان بھی ہے تو انصاف سمجھنے کہ ہمارے سامنے مغربی نفیات کے یا باواز ایسی ایمان وہ دایت سے محروم خواتین کے حوالے پیش کرنے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بھکلی ہوئی گم کردہ راہ قوم کو دیکھ کر خود ہمیں بھی بھکنے کی مشترکہ شروع کر دینی چاہئے؟۔

اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر  
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول باشمی  
مغرب کی میلادیں دینے کے بعد پروفیسر صاحب "خاتون مشرق" کی طرف التفات  
فرماتے ہوئے لکھتے ہیں :

"پاکستان کے قطبی میدان میں عورت مرد کو پچھاڑتی ہوئی آگے  
بڑھ رہی ہے، اخبارات و جرائد اور الکٹریک میڈیا نے پاکستانی خواتین کی  
نئی نسل کا رابطہ دینا بھر کے معاشروں سے استوار کر دیا اور اب ان پر  
توہنات تھببات اور رسوم و رواج قانون کی صورت میں نافذ نہیں کئے جا  
سکتے جو جاہل قبائلی معاشروں کی خصوصیات تھے اور جن میں تبدیلی و تغیر  
کو قبول کر لیتا فطرت اور قرآن کے قانون کے میں مطابق ہے۔"

پروفیسر صاحب سے بہتر کون جانتا ہو گا کہ جاہل قبائلی توہنات تھببات اور رسوم و رواج کی تمام دیواریں آج سے چودہ سو سال پہلے رسول علیؐ کے مبارک قدم کی ایک ٹھوکر نے منہدم کر دیں گھیں؛ جب آپؐ نے جوہ الدوع کے موقع پر اعلان فرمایا تھا کہ "جاہلیت ای قائم رسمیں میرے ان قدموں کے نیچے پاپاں ہیں" اس نے بلا خوف تردید کیا جا سکتا ہے کہ قرآن و سنت کا کوئی قانون اور کوئی حکم ایسا نہیں جو جاہلی توہنات پر مبنی ہو جس میں جاہلی تھبب کا فرمایا ہو اور جس میں جاہلی رسم و رواج کو انگیز کیا گیا ہو۔

مسلمانوں کے موجودہ معاشرے صحیح اسلامی معاشرے پر پورے نہیں اترتے، ان معاشروں میں جاہلیت جدیدہ یا قدریہ کے بہت سے رسوم و رواج در آئے ہیں اور ہم خود اس حق میں ہیں کہ ان تمام رسوم و رواج کو جن کی بنیاد جاہلی توهات و تعقیبات ہیں میک جبکہ قلم منسخ کر دیا جائے ایسے جاہلی رسوم و رواج کے خلاف آپ بھتنا جاد کر سکتے ہیں ضرور کریں آپ ہمیں اس جہاد میں اپنے سے بچھے نہیں پائیں گے۔ لیکن اگر آپ جدید عورت کو یہ بادر کرنے کی کوشش کریں کہ (نحو زبانہ) قرآن و سنت میں بھی کچھ احکام ایسے ہیں جو جاہلی قبائلی تعقیبات و توهات پر تنی ہیں اور خدا اور رسولؐ کے احکام میں بھی جاہلی رسوم و رواج کی رعایت رکھی گئی ہے (نحو زبانہ ثم نحو زبانہ) تو خود سوچ لججھے کیا کسی مسلمان کو جو واقع تنا خدا اور رسولؐ پر ایمان رکھتا ہو یہ بات کس حد تک زندگی ہے اور یہ کہ ایک مومن کے لئے یہ کس حد تک صحت مندانہ طرز فکر ہے۔

پروفیسر صاحب مزید لکھتے ہیں "پاکستان کے نہ ہی علماء کا یہ احساس ہے کہ اسلامی احکام کی تعمیر و تشریع کا حق صرف ان کے لئے مخصوص ہے جب کہ ہمارے کانوں تک ملک سے باہر مقیم بعض تعلیم یافتہ خواتین کے اس قسم کے اواروں کی خبریں بھی چیخھی رہتی ہیں کہ وہ قرآن و سنت کے سو فہد "مروانہ حق" کو حلیم کرنے کے لئے تیار نہیں، انہوں نے قرآن و سنت کا خود مطالعہ شروع کر دیا ہے اور انہیں اس سے کوئی روک نہیں سکا، ان کو پختہ یقین ہے کہ اسلامی فتنہ و تاریخ کے محققانہ تحریکی سے وہ ثابت کر دیں گی کہ مردوں نے وہی احکام کو یہاں اپنے حاصلہ مخلوات میں استعمال کیا ہے" ۔

پروفیسر صاحب نے یہاں جو "مروانہ حق" کی منطق ایجاد فرمائی ہے یہ تو خالص مادام بوائز کے نظریات کی صدائے بازگشت ہے سوال مروانہ یا زنانہ حق کا نہیں بلکہ قرآن و سنت میں مسلم اثبوت مہارت کا ہے، امام المومنین عاشقہ صدقہ رضی اللہ عنہا کی بلند پایہ علمی شخصیت سے کون واقف نہیں جن کے فتوؤں اور فیصلوں کے سامنے اکابر صحابہؐ کی گرد نہیں غم ہو جاتی تھیں، اسلام کی تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ عفت ماب پرہ نہیں نے اپنے علم و فضل کا لوہا متولیا علم کے میدان میں بھی مروانہ حق اور زنانہ حق کی

تفہیق کا سوال نہیں اٹھا، حضرت ربیعہ بصریؓ کا مشور قصد ہے کہ ان کو کسی نے بطور اعتراض کیا کہ کبھی کوئی عورت نبی نہیں بھی انہوں نے معرض کو دنداں تک جواب دیا کہ "تھی بہ! تم بھی بنا نہیں کر سکتیں نبی جنازتی ہیں" جن مردوں نے علم کی چیزوں کو سر کیا اور جو اقیم علم کے تاجدار ہوئے کیا ان کی مقدس ماڈن کا ان کے علم میں کوئی حصہ نہیں؟ المعرض علم کے میدان میں "مروانہ حق اور زنانہ حق کی تفہیق کا شاخزاد ایش مغرب کی شرارت ہے، ورنہ اسلام اور اسلامی تاریخ میں اس کا کوئی تصور نہیں، آج بھی اگر کچھ غفت ماب پرہ نہیں خواتین قرآن و سنت میں مہارت کا ایسا بلند مقام حاصل کر لیتی ہیں تو یقیناً ان کی شخصیت علم کے ماتحت کا جھوہر ہو گا ان کی ماہرائیہ آراء کو عزت و وقت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور وہ علم اور اہل علم کی جانب سے صد ستائیں کی سبقت ہوں گی لیکن دور جدید کے وہ لوگ خواہ وہ مرو ہوں یا عورتیں جو اسلام کے حدود دیکھو دی کے قابل نہیں جو اسلام کے فرائض و واجبات اور محربات و مکروہات کی پایہندی سے اپنے تیس مرفاع اقلام بھجتے ہیں جو قرآن کریم ناطہ بھی صحیح صیغہ پڑھ سکتے جو نماز و بُجگانہ کی توفیق سے بھی محروم ہیں اور جنہیں مغل جذبات کا اتفاق بھی کبھی شاذ و نادر ہی ہوتا ہے وہ اگر "اجتہاد" کے باہم بلند پر قدم رکھنا چاہیں اگر وہ امام ابو حیین رحمۃ اللہ علیہ "امام مالک رحمۃ اللہ علیہ" امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایسے مسلم اثبوت ائمہ مجتہدین کے مقابلے میں اپنے مغربی سانچوں میں ڈھلے ہوئے افکار پیش کرنا چاہیں تو ان کی قدر و قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ جمال تک "زنانہ اجتہاد" کا تعلق ہے میں عرض کر چکا ہوں کہ دور جدید کے مرو اور عورتیں شوق سے اجتہاد فرمائیں لیکن پسلے اجتہاد کا مفہوم سمجھ لیں، اجتہاد کی علمی و عملی اور فکری صلاحیتیں بھی پہنچائیں پھر اجتہاد کریں بے ہنجکم قیاس آرائیوں اور انکل پچھا باقیں کا نام "اجتہاد" نہیں۔

ایوب خان کے زمانے میں ایک پڑھے لکھے "محمد" صاحب نے کما تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت کی شہادت مرو کے مقابلے میں تلف فرکی گئی تھی کیونکہ اس وقت کی عورت جاہل تھی، آج کی منذب اور تعلیم یافتہ عورت کی شہادت

مرد کے نصف نہیں ہو سکتی۔

گویا ان مجتهد صاحب کے نزدیک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور چودہ سو سال کی تمام محترم خواتین جن کی کوکھ سے امام غزالی "امام رازی" "مجد الف ثالث" اور شاہ ولی اللہ جیسی نابغہ ہستیوں نے جنم لیا وہ تو نہ فوج، نہ جاہل اور اجڑ تھیں، اور آج کی خواتین ان کے مقابلے میں چشم بددور تعلیم یافت ہیں۔ کیا یہ کاتاں "اجتہاد" ہے کہ وہ ماسیں جن پر اسلامی تاریخ نہیں بلکہ انسانی تاریخ بھی فخر کرتی ہے ان کو گھلی دی جائے؟

ابھی تھوڑے دن پہلے ایک اور مجتهد صاحب سے ملاقات ہوئی فرمائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے قاضوں کے مطابق قرآن کی تعبیر و تشریع فرمائی تھی اور ہمیں اپنے زمانے کے مطابق قرآن کی تعبیر و تشریع کرنی ہے یہی قرآن کی تعلیم ہے اور یہی سنت رسول ہے خواہ ہم رسول کریمؐ کے تمام نیفلوں کو بدال ڈالیں، ایک اور صاحب جواب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں فرماتے ہیں کہ قرآن عرب کے بدوؤں کے لیے آیا تھا، آن کے مددب معاشرے میں اس کو کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے؟

اگر پروفیسر صاحب کے ذہن میں بھی "اجتہاد" کا یہی معیار ہے تو میں یہ بحث سے قاصر ہوں پھر خروج ملن الاصلام کس چیز کا نام ہے؟ کیا کسی امتی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافذ کردہ دین کو بدلتے کا اختیار دیا جاسکتا ہے؟ اور کیا اس کے بعد بھی اس کا دعویٰ مسلمانی لا تلقی ساعت ہے؟ کیا پروفیسر صاحب علماء کے اس روایے کے شایک ہیں کہ وہ "اجتہاد" کے نام پر دین میں قطع و برید اور تحریف و تبدیل کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ اگر یہی شکایت ہے تو میں علماء کے اس "جزم" کا اعتراف کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ یہ اعلان بھی کرتا ہوں کہ علماء یہ جرم کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک ایک بھی عالم حقانی دنیا میں ہاتی ہے۔ وہ بھی اس کی اجازت نہیں دے گا۔ آپ علماء کو جتنی چاہیں کالیاں دے لیں ان پر ہتنا چاہیں غصہ اتار دیں، اور جو سکے تو قوم نوح کی طرح ان پر سنک باری بھی کر لیں گے علماء کتاب و سنت میں تحریف اور تزیم و تفسیخ کو بھی برداشت نہیں کریں گے۔

لاہور میں علامہ اقبال مرعوم کی کوئی پر الماں العصر حضرت علامہ اور شاہ شمسیری تشریف فرماتے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت مسلم رفقی کی دوڑ میں بہت بیچھے رہ گئے ہیں میک کے سود کو خلال قرار دینا رفقی کے لئے برا ضروری ہے حضرت شاہ صاحب نے اپنے مخصوص بچھے میں فرمایا:

"جتاب اگر جنم میں جانا چاہتے ہو تو سیدھے چلے جاؤ مولوی کو پل کیوں بناتے ہو۔"

پروفیسر صاحب! اگر کچھ خواتین و حضرات خدا و رسول کے احکام میں اپنی ناروا خواہشات کا پیوند لگا کر جنم میں تشریف لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کو مشورہ دیجئے کہ بے دھڑک تشریف لے جائیں جنم کے ساتوں دروازے چوبٹ کھلے ہیں، غریب مولوی پر دھونس جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر خدا و رسول پر ایمان ہے، اگر خدا و رسول کے احکام و فرائیں کی دل میں کچھ بھی عظمت ہے اور اگر دنیا سے بحالت ایمان رخصت ہونے کی تمنا ہے تو غریب مولوی کوئی بے جملات نہیں کتا اس عضو ضعیف پر آپ کا زندگ رکنا چاہیے معنی؟

اسلام کجو معاشروں کی کجھ دور کرنے کے لئے آیا ہے اسے تراش کر لادیں اور خدا ہزار معاشروں کے قاب میں ڈھالنا "اجتہاد" نہیں قلم ہے جو لوگ نام نہاد "اجتہاد" کا لمبیں لگا کر اسلامی احکام میں تزیم و تفسیخ کرنا چاہتے ہیں وہ اسلام پر نہیں بلکہ اپنی چاہوں پر قلم کرنا چاہتے ہیں، غریب مولوی اگر ان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو اس خود کشی سے بچانا چاہتا ہے وہ تمہارا بد خواہ نہیں بلکہ خیر خواہ ہے۔

خواتین کو عدالت حقوق اسلام نے عطا کر دیے ہیں ان حقوق کو کوئی پالیں نہیں کرتا خواتین کے حقوق مغرب کی تندب و تعلیم نے پالیں کے ہیں جو لوگ اسلامی معاشرے کو مغرب کے نقوش پر ڈھالنا چاہتے ہیں وہ خواتین کے خیر خواہ نہیں بلکہ انسانیت کے قاتل ہیں، اسلام نہ طبقاً تفریق کا قاتل ہے نہ ایک صنف کو دوسرا صنف کے مقابلہ کردا کرتا ہے صنفی تفریق کے نقطہ نظر سے سوچنا ہی اسلام کی نفی ہے۔

افراد ظالم ہو سکتے ہیں مرد بھی اور عورت میں بھی، ان کے ظلم کا دفعہ اسلام کے عادلات تو نہیں کی پیروی سے ہو سکتا ہے، لیکن ایک صنف کو ظالم اور دوسرا صنف کو مظلوم قرار دے کر میدان جنگ برپا کرنا "بیمار زہنیت" کی علامت ہے۔ عورت کی چار مشیشیں ہیں وہ مل ہے، 'بین ہے'، 'بین ہے'، 'بین ہے'، 'بین ہے' یہوی ہے ان چاروں رشتؤں کو اسلام نے نقدس کا وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ کوئی بے خدا معاشرہ اس نقدس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اس لیے عورت مرد کی حریف نہیں ہے بلکہ مل، 'بین، 'بین' اور اس کی شریک حیات ہے، تف ہے ان بیٹوں پر جو اپنی ماں کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے، ان بھائیوں پر جو بہن کے پاسبند نہیں ان باپوں پر جو اپنی بیٹی کی کنالات نہیں کر سکتے اور ان شوہروں پر جو اپنی شریک حیات کے دکھ درد میں شریک نہیں ہو سکتے آپ "خواتین کے حقوق" کے نام پر ان چاروں رشتؤں کے نقدس کو پمال کرنا چاہتے ہیں کہ نہ مل مل رہے ہوں نہ بینی نہ بہن، بہن رہے اور نہ یہوی یہوی رہے بلکہ وہ "زنانہ اجتماع" کا نعروہ گا کر مرد کی حریف ہو جائے۔

مغرب نے اپنی کورچیشی سے اس مردانہ وزنانہ جنگ کا اکھاڑہ جما کر دیکھ لیا، اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کی زندگی اجتنبی ہو چکی ہے، نہ مرد کو عورت پر اختدہ ہے نہ عورت کو مرد پر، اُسیں راحت و آسائش کے تمام اسباب فراوانی سے حاصل ہیں لیکن دل کا سکون غارت ہو چکا ہے، اور راحت و اطمینان کی دولت لٹ پچکی ہے، وہ رات کی طبعی نیز سے محروم ہو چکے ہیں اور نینڈ لانے کے لئے خواب آور گولیوں اور منشیات کے خواکر ہو چکے ہیں۔ کیا آپ مشرق کو بھی اس راستے پر گامزن دیکھنا چاہتے ہیں؟ اسلام نے مرد عورت کے جو حقوق حسین کے ہیں انسانی نظرت سے بغاوت کرنے والوں کو بھی راحت و سکون کی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔

پروفیسر صاحب کا یہ ارشاد بالکل صحیح اور بجا ہے کہ "تعلیم یافت خواتین کے لئے مغرب زدگی کی اصطلاح کراہ کن ہے" لیکن ان کے علم اور اطلاع کے لئے عرض ہے کہ "مغرب زدگی" کی اصطلاح تعلیم یافت خواتین کے لئے استعمال نہیں کی جاتی بلکہ ایسے لوگوں

کے لئے استعمال کی جاتی ہے (خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں) جن کی ذہنی ساخت مغربی سانچوں میں ڈھلی ہوئی ہے جو مغربیت کے نقدس پر ایمان رکھتے ہیں جو مغربی رسم و رواج کے مقابلہ میں اسلام اور اسلامی احکام کو نظر خاتر سے دیکھتے ہیں جو اسلامی معاشرے کو بھی مغربیت کے تاریک غار میں دھکیل دینے پرستے ہوئے ہیں جو اسلامی احکام کی پابندی کو دیقاںویسیت سمجھتے ہیں اور جو اسلام کے حدود قبود سے آزادی میں فخر محسوس کرتے ہیں ایسے لوگوں کی تعداد ہمارے یہاں شاید ایک فیصد بھی نہیں ہو گی ان کو اگر "مغرب زدہ" نہ کہا جائے تو فرمائیے اور کس عنوان سے ان کا تشخص ظاہر کیا جائے ان کو تعلیم یافت کا برقدہ پہنا کر چھپائے کی کو شش کرنا بھی کوئی مسخن بات نہیں، اس کے بر عکس جو خواتین تعلیم یافت ہونے کے باوجود خدا اور رسول پر غیر متزلزل ایمان رکھتی ہیں اور احکام خداوندی کی تحلیل میں دنیا و آخرت کی سعادت سمجھتی ہیں ان کو مغرب زدگی کا طعنہ کون دے سکتا ہے۔

(مہماں دریافت جولائی ۱۹۸۲ء)

## فتون کے مقابلہ میں علماء کی ذمہ داری

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى - اما بعد :

قرب قیامت کا زمانہ جوں جوں قریب آ رہا ہے اسی نسبت سے تاریکی میں اضافہ ہو رہا ہے اور فتنوں کی یورش بڑھ رہی ہے علمائے جماعت محمدیہ (علی صاحبا الصلوات والسلیمات) کے طیب ہیں اور جنہیں "العلماء ورثة الاب" کے تاج کرامت سے مشرف کیا گیا ہے، ہر چند کہ ان فتنوں کے مقابلہ میں صاف آراء ہیں، لیکن ان میں پاہی مشاروت اور اجتماعیت کی کمی محسوس ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں فتنوں کی مقاومت میں ضعف اور سستی نمایاں ہونے لگی ہے اور اہل فتنہ کی جرأت میں اضافہ ہو رہا ہے ضرورت ہے کہ حضرات علماء اکرم اس صورت حال میں اصلاح کی طرف متوجہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی وجہ سے ان پر ہوزہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو صحیح ہور پرداز کرنے کے لئے نئے عنز اور نئے ولود کے ساتھ فتنوں کے مقابلہ میں صاف آ را ہوں۔

ان میں سے ایک مرزا نیت کا فتنہ ہے چونکہ قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم اتفاقیت قرار دے دیا گیا ہے، اور رسمی طور پر ان کی تبلیغی سرگرمیوں پر بھی پابندی عائد کروی گئی ہے اس لئے عام طور پر یہ سمجھ لیا گیا کہ قادیانی فتنہ ختم ہو چکا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ زیر نہیں ان کی ارتداوی سرگرمیاں بڑی تیزی سے جاری ہیں اور وہ لوگ مختلف چھکنڈوں سے نوجوانوں کا شکار کر رہے ہیں۔

ہماری نئی نسل کو کچھ معلوم نہیں کہ قادیانی کون لوگ ہیں، ختم بنت کا مطلب کیا ہے، غلام احمد قادیانی کون ہے؟ اس کے عقائد کیا تھے؟ وغیرہ وغیرہ۔ نئی کی ناداقیت اور دین سے ان کی بے قلقی، قادیانیت کی سرگرمیوں کے لئے زمین فراہم کرتی ہے اور وہ چکے چکے اپنی ارتداوی حم کوبہی مستحدی سے جاری رکھے ہوئے ہیں جب کہ حضرات علمائی طرف سے ان کے معاملہ میں بے قدری کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور امامت کو قادیانیت کے زہر سے بچنے کا تریاق میا نہیں کیا جا رہا ہے۔

ایک عظیم فتنہ عیسائیت کافروں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بھگہ دیش سے اطلاع آئی تھی کہ وہاں بھوک اور افلاس دور کرنے کے بھانے ہزاروں افراد کو عیسائی بنایا گیا ہے اور اس نوعیت کی متواتر خبریں وطن عزیز سے مل رہی ہیں کہ عیسائیوں نے نوجوانوں کی بے روزگاری اور پسمندہ علاقوں میں مسلمانوں کی معاشی پریشانی سے فائدہ اٹھا کر اپنی تبلیغی سرگرمیاں تیز تر کر دی ہیں اور یہکٹوں افراد کو مرتد کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اجتماعی طور پر علمائے کرام کو اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ قادیانی فتنہ ہو یا عیسائی فتنہ، اب علی سطح کا فتنہ نہیں رہا بلکہ معاشی فتنہ کی شکل اختیار کر رہا ہے اور اندر وون ملک لا دینی قوتوں مسلمانوں کو معاشی طور پر مغلوب کر کے ان فتنوں کے لئے میدان ہموار کر دی ہیں اور میں الاقوامی طاغوتی طاقتیں مسلمان ممالک کو غربت و افلاس کے گزھے میں دھکیلنے کے لئے باقاعدہ منصوبہ بندی کرتی ہیں۔

ایک اہم ترین فتنہ "قرآن فتنی" کے نام پر بیجا کیا جا رہا ہے ایک صاحبِ محمد شیخ نام نے "ائز نیشن اسلام پر ایمیگیشن سینٹر" کے نام سے ایک ادارہ قائم کر رکھا ہے اور وہ نوجوانوں کو آزاد قرآن فتنی کی دعوت دے رہا ہے اطلاعات کے مطابق لوگ بڑی کثرت سے اس تحريك میں شامل ہو رہے ہیں اور اس کے درس قرآن کی ویڈیو کیسٹیشن جگہ جگہ پھیلانی جا رہی ہیں اس ناکارہ کی فرمائش پر ایک دوست نے کچھ

معلومات فراہم کی ہیں ذیل میں ان کا خط لفظ بے لفظ نقل کرتا ہوں۔  
حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب مدظلہ  
السلام علیکم و رحمۃ اللہ ویرکاتہ،

چند سالوں سے کراچی میں ایک نیا فتنہ بڑی تیزی سے قرآن اور قرآن کی  
تشریح کی آڑ میں کام کر رہا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کی خاطر اس تحریک کے بانی و کرتا  
دھرماء محمد شیخ نے اپنے سینٹر کا نام ”ائز نیشنل اسلامک پریسکیشن سینٹر“ رکھا ہے۔

#### INTERNATIONAL ISLAMIC

#### PROPAGATION CENTRE

ان لوگوں کے پروگرامز اکثر دینشتر نریدہ اینڈ فائنس سینٹر شاہراہ فصل میں ہوتے  
رہتے ہیں ذیل میں بطور نمونہ اس کے چند عقائد جن کا وہ قرآنی آیات کی آڑ میں  
پرچار کر رہا ہے دیئے جاتے ہیں اور آپ سے استدعا ہے کہ ازراہ کرم قرآن و حدیث  
کی روشنی میں قوم کی رہنمائی فرمائیں کہ لوگ اس فتنے سے آگہی حاصل کر کے اپنے  
رہے سے عقائد کا تحفظ کر سکیں۔ آج جب کہ قدم قدم پر نئے نئے فتنے جنم لے  
رہے ہیں یہ فتنہ بھی برا شرائیگز ہے اور لگتا ہوں ہے کہ قاویانی اب بجائے خود سامنے  
آئے کے پس پر وہ رہ کر یہود و نصاریٰ کے ساتھ مل کر اس حتم کے لوگوں کو قرآن  
و سنت کے نام پر آگے بڑھا رہے ہیں۔

یہ فتنہ پرور لوگ (ان کا سربراہ محمد شیخ) پڑھ لکھے طبقے میں کام کر رہا ہے، پہلے  
ان کا مرکز علامہ اقبال روڈ پی ایسی ایچ ایس میں تھا جب کہ اب ان کا ہیڈ کوارٹر یونیورسٹی  
نکل ہو چکا ہے اور ایک برائیچ آج بھی پی ایسی ایچ ایس کے قبرستان کے پیچے موجود  
ہے۔

محقر اس کے عقائد یہ ہیں :

- ۱۔ اللہ قرآن پڑھنے والوں کو خود غیبی مدد سے قرآن کے معنی و مطالب سمجھا دیتا  
ہے اس لئے قرآن سمجھنے کے لئے کسی ملائی مولوی، مفسر، مترجم کے پاس جانے یا ان  
کے تراجم یا تفاسیر پڑھنے یا دیکھنے کی قطعی کوئی ضورت نہیں۔
- ۲۔ ان مختلف مترجموں اور مفسروں نے ہی دراصل امت کو غلط معنی و تفسیر کے  
ذریعے گراہ کیا ہے۔
- ۳۔ قرآن کوئی نئی یا جدید کتاب نہیں جو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو  
دی گئی ہے، بلکہ یہی کتاب یعنی قرآن جوں کی توں پچھلے انبیا کو بھی دی گئی تھی مخفی  
ناموں سے۔
- ۴۔ پوری نماز اپنے اوقات تعداد اور اركان کے ساتھ قرآن سے ثابت ہے۔  
(حدیث و سنت کا سرے سے ذکر ہی نہیں کرتا) حتیٰ کہ بقول اس گمراہ شخص کے نماز  
جنازہ بھی قرآن سے ثابت ہے اور اس کا طریقہ بھی۔
- ۵۔ نماز کا موجودہ طریقہ و بیعت قرآن سے ثابت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم نے مصلی ابراہیم کی بیوی کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ  
آپ صلی اللہ علیہ وسلم! اس نمانے کے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، جو کہ خانہ  
کعبہ میں پڑھتے تھے؛ اور ان کی نقل کریں اور اس طریقے کو اپنائیں، اور معاذ اللہ  
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں پڑھنے والوں کو دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کی  
اور مسلمانوں کو سکھلانی، یہ مفہوم، یہ بدجنت قرآنی آیت، جس میں مصلی ابراہیم  
(مقام ابراہیم علیہ السلام) کا ذکر ہے کامنی و مطلب میان کرتا ہے۔
- ۶۔ بقول محمد شیخ، مکفر حدیث و سنت اور حرف قرآن، کتاب اللہ (قرآن) میں  
جمل جمل بھی اضمام اور اضمام پرستی کا ذکر ہے، اس کا دراصل معنی خواہشات نفس کی  
پیروی ہے، اس کا کہنا ہے کہ قرآن میں جن بتوں کا ذکر ہے وہ پتھر، مٹی یا کسی بھی مادی

شے سے بنائے یا تراشے ہوئے نہ تھے۔ یہ بت جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے کوئی مادی بت نہ تھے بلکہ یہ دراصل مختلف زبانوں کے لوگوں نے اپنے زبانوں میں اپنی خواہشات کے مطابق اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کے لئے اپنی خواہشات کو مختلف نام دے رکھتے تھے۔ لات و عزیزی وغیرہ ان کے ذہنی و نفسانی بتوں کے نام ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتوں کو سماں کرنے کے واقعے کو بھی اس شخص نے باہل کا قصہ اور عیسائیوں کا عقیدہ پنادیا اور اس کا کہنا ہے کہ اس واقعے کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ کلمازے سے کوئی ماڈی بتوں کو توڑا تھا اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں تو یہ میسالی عقیدہ ہے۔ اور عیسائیوں کی باہل کا عقیدہ ہے بلکہ صحیح قرآنی مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ذہن و قلب سے ان کے غلط خیالات کو نکال دیا تھا۔

۸۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع، حیات اور نزول میانی کا منکر ہے۔ مندرجہ بالا چند عقائد جن کی یہ شخص تبلیغ و نشر و اشاعت کر رہا ہے بطور نموفے کے ہیں۔ جب کہ اور بے شمار عقائد و نظریات اور قرآن میں تحریفات کی مثالیں اس کی ویڈیوؤز (Videos) میں دیکھی اور سنی جاسکتی ہیں۔

حضرت والا آج جب کہ نوبوان نسل گرایی کی دلدل میں تقریباً گردن تک و حسن چکی ہے اور ہمارا پڑھا کھا طبقہ جو نہ صرف حکومت کرتا ہے بلکہ اس گھرانے اور اسی طبقہ کے لوگ "فونج" یوروکسی اور رسول سروس میں جاتے ہیں اور اس طک اور اس قوم پر حکمرانی کرتے ہیں، وہ آج ان قوتوں کے جو نیورولٹہ آرڈر کا، دنیا بالخصوص اسلامی ممالک اور خاص طور پر پاکستان میں نفاذ چاہتے ہیں، کے خاص نشانہ ہیں اور یہ لوگ یہ فتنے مسلمانوں کو آپس میں دست و گربال کر کے علا کرام کو ایک دوسرے کی تزویں کے دہانوں کے سامنے کھڑا کر کے، فروعی اختلافات کو ہوا دے کر، مختلف جعلی ناموں

اور تنظیموں کے ذریعے علا کو اختلافات میں الجھا کر اپنا کام بڑی تیزی سے کر رہے ہیں۔ آج بد قسمی و بد بخختی سے خیر کی وقتیں (دینی جماعتیں) منتشر اور آپس میں دست بے گربال ہیں جب کہ شرکی تمام قوتیں تمام تر اختلافات کے باوجود مل کر ایک مضبوط طاقت بنی ہوئی ہیں اور خیر کو نیست و تابود کرنے کے لئے کوشش ہیں۔ بڑی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہیں، لیکن ہم دین کی خیر خواہی کے لئے کڑھنے والے اور دعوے کرنے والے اب تک بد قسمی سے اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بھی پس پشت ڈال کر اللہ اور اس کے رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاکی خاطر ایک اور تحد ہونے کو اپنی آن کا اپنی ناک کا مسئلہ بنائے ہوئے ہیں۔ نہ جانے ہماری آنکھیں کب کھلیں گی، آج ہم مسجد اقصیٰ بھول گئے، لگتا ہے کہ مسلمانوں کا اس سے کوئی کبھی تعلق ہی نہ تھا، یاد ری مسجد کی شادادت ہمارے اقبال سے محو ہو گئی، کل کسیں خدا نخواستہ ہم یہ بھی نہ بھول جائیں کہ ہم اور ہمارے باپ دادا رسول علی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور نام لیوا تھے۔ اللہ قادر مطلق پوری امت کو اپنے حفظ و لانا میں رکھے۔ (آئین یارب العالمین)۔

آج فتنوں کے اس دور میں آپ کی رہنمائی کی ضرورت قوم کو بالخصوص نوبوان نسل کو پہلے سے کہیں زیادہ ہے، یہ خط لکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اپنے افکار علیہ کے ذریعے قوم کی قرآن و سنت کی روشنی میں مدد و رہنمائی فرمائیں اور اس طبقے کو بھی پیش نظر رکھیں جو اپنے بچوں کو دنیاوی ترقی کی خاطر انگریزی اور کافتوں اسکو لوں میں پڑھاتے ہیں، جمل ان کافتوں تو سلب ہو جاتا ہے، لیکن انگریزی بولنی آجائی ہے۔ آپ کے قسمی وقت اور آپ کی بے انتہا مصروفیات کے پیش نظر اس خط کو ختم کرتے ہوئے آپ سے خصوصی دعاوں کا خواستگار ہوں۔

حضرات علمائے کرام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان تمام قریم و جدید فتوؤں پر نظر رکھیں، ہر سلسلہ پران کا مقابلہ کریں اور امت کی پاسبانی کا جو فریضہ ان پر عائد کیا گیا ہے اس سے عمدہ برآ ہونے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ ”معذرة الی رکیم و لعلم یرجعون لایہ“ تاکہ مندرجہ ذیل بشارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدقہ بنیں:

عن عبد الرحمن بن العلاء الحضرمي قال

حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه سيكون في آخر هذه الامة قوم لهم مثل اجراولهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن -

(رواہ البیوقنی دلائل النبوة (تحقیقہ ص ۳۸۵)

ترجمہ: ”عبد الرحمن بن علاء الحضری کتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث ان صاحب نے بیان کی جس نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”اس امت کے آخر میں کچھ حضرات ہوں گے جن کو پہلوں جیسا اجر ملے گا، یہ حضرات معروف کا حکم کریں گے، اور مکر سے منع کریں گے اور اہل فتن کا مقابلہ کریں گے۔“

حق تعالیٰ شانہ غیب سے اس امت کی حفاظت کا سلام فرمائیں، اور علماء حلقائی، علمائے ربانی کو تمام اہل فتنے کے مقابلہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ آئین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔

# صحت و مرض... دو نعمتیں

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى : اما بعد ،

بعض اوقات معمول ساواقد بھی آدمی کے لیے برا عبرت آموز ثابت ہوتا ہے۔ راتم الحروف کی سستی یا مصروفیت کی وجہ سے بینات کی تیاری میں یہیش تاخیر ہو جاتی ہے چنانچہ زینقده کا پرچہ زینقده کی ابتدائی تاریخوں میں پرلس جاسکا۔ میں نے اپنے رفقاء سے کہا کہ ذوالحجہ کا پرچہ بھی اس کے ساتھ ہی ہفتہ عشروں میں تیار کر لیا جائے، اور اس وقت تک دوسری مصروفیات موقوف رکھی جائیں۔ تاکہ تاخیر کا مسلسلہ ختم ہو جائے یہ غالباً ۲۷ زینقده جمعرات کا قصہ ہے ۳ زینقده کو جمود کا عسل کرتے ہوئے مجھے دوائیں کان کے نیچے خفیت سے درد اور معمولی سی گلٹی کا احساس ہوا جیسے کہ چیزوں نے کانا ہوئے دور دور تک بھی اس کا خیال نہیں تھا کہ یہ کسی ابتلائی گھنٹی اور کسی شدید مرض کا پیش خیسہ ہے، جمود پر اعلیٰ۔ جمود کے بعد حرب معمول کھانا کھلایا اور ذرا سما آرام کیا قبل عصرِ دن میں حرارت سی محسوس ہونے لگی اور بدن میں کسل کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جہا کہ آج مجلس ذکر میں شرکت نہ کروں، لیکن اس طبعی تقاضے کی پرواٹیں کی۔ وضو سے فارغ ہو کر حرب معمول مجلس ذکر میں شرکت کے لیے مدرس چلا گیا، وہاں سے قبل مغرب مسجد ”الاخوان“ پہنچا (جمود کے دن مغرب کے بعد وہاں قرآن مجید کے درس کا معمول ہے) درس سے فارغ ہو کر گاؤڑی تک نہیں پہنچا

تحاکر شدید کپکی شروع ہو گئی۔ گاؤڑی کے شیشے بند کروائے اور مشکل سے گھر پہنچا۔ کپکی کے ساتھ کڑا کے کا بخار شروع ہوا کان کے نیچے جمال درد کا احساس ہوا تھا وہاں ورم بڑھنے لگا یہاں تک کہ دو تین دن میں ورم سے ساری گروں اکٹھ گئی کلان پر بڑے بڑے چھالے پڑ گئے اور ان سے پانی رنسنے لگا ان میں ایسی زہری سوزش اور جلن تھی کہ کسی کروٹ لیننا مشکل ہو گیا اور بخار ایک سو چار پانچ کے درمیان رہا۔ ایسا لگتا تھا گویا تنور میں جل رہا ہوں کرب و بے چینی کی ایسی کیفیت رہی کہ بس لطف ہی آگیا۔ ڈاکٹر صاحب ان بخار اتارنے کے لئے دو اسیں دیتے۔ ان سے اتنا پیشہ آتا کہ دن رات میں تین چار مرتبہ بھیکے ہوئے کپڑے تبدیل کیے جاتے مگر بخار کی شدت میں کمی نہ آتی مسلسل کئی راتیں ایسی گزیں کہ آنکھ نہ لگ سکی اس طرح پندرہ دن صاحب فراش رہا اور بماری کی وجہ سے بدن کی تمام قوتیں ساقط ہو گئیں۔ حق تعالیٰ شانہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس ماں نے اپنے لطف و احسان سے حیات نوچنی اور صحبت و شفا فراہی۔

ظاہر یہ ایک معمولی سا واقعہ ہے، اس قسم کے حوادث انسان کے لیے لازمہ حیات ہیں، نہ اتنی اہمیت کے حاصل ہیں کہ ان کا تذکرہ کیا جائے اور نہ ان کے اسباب و عمل ملاش کرنے یا ان سے نتائج اخذ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے لیکن یہ ناکارہ اس معمولی حادث سے جس طرح جسمانی اعتبار سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوا، اس طرح زہن و فکر نے بھی اس سے غیر معمولی تاثر لیا اس لیے جی چہا کہ آج کی صحبت میں اسی سلسلہ کے چند تاثرات قارئین کرام کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔

اگرچہ صحبت حق تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

نعمتان معنون فيهما كثیر من الناس الصحة  
والغراع۔  
(رواہ الجماری عن ابن عباس: مکملۃ من ۲۳۹)

ترجمہ: ”دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ خارے میں ہیں۔ یعنی صحبت اور فراغت۔“

اور ان دو نعمتوں میں لوگوں کے خارے میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اول تو یہ دو نعمتیں بیک وقت مشکل سے جتن ہوتی ہیں بہت سے لوگوں کو اگر صحبت و تدرستی نصیب ہے تو فرصت میر نہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ فارغ ہیں مگر تدرست نہیں، اور اگر یہ دونوں نعمتیں کسی کو میر بھی آ جائیں تو ان کی قدر شناسی میں لوگ کو تماہی کرتے ہیں اور ان انمول نعمتوں کو لغوبیات میں اکثر و بیشتر ضائع کر دیتے ہیں۔

لیکن یہاں بھی حق تعالیٰ شانہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، احادیث میں امراض اور تکالیف و مصائب کے بڑے فضائل ذکر کئے گئے ہیں یہاں بماری بدن کی زکوٰۃ ہے اس سے آدمی کے گناہ جھوڑتے ہیں۔ بدن پاک و صاف ہو جاتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں اور مومن کو آئندہ کے لئے صحیح و عبرت ہو جاتی ہے۔ تفسی شریف کی روایت ہے:

نَوَاهُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَبْلَالُ الْبَلَاءِ  
الثَّوَابُ لِوَانِ حِلْوَتِهِمْ كَانَتْ قَرِضَتْ فِي الدُّنْيَا  
بِالْمَقَارِضِ۔  
(مشکلۃ عن جابر بن عبد الله: ۲۷)

ترجمہ: ”قیامت کے دن جب اہل مصائب کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا تو اہل عافیت اس کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کے بدن دنیا میں قیچیوں سے کٹ دیئے گئے ہوتے (اور یہ ثواب ان کو مل جائے)۔“

بیماری میں انسان پر اپنے ضعف و عجز اور درماندگی کی حقیقت مشکل ہوتی ہے۔ چنانچہ اس ناکارہ کو سب سے پہلے تو اس مرض سے آدمی کے ضعف اور اس کی کمزوری اور لاچاری و بے بھی کاشتہ سے احساس ہوا۔ آدمی کو اپنی قوت و طاقت اپنی لیاقت و صلاحیت اور اپنی ہمدرمی و ہمہ دلی پر بڑا اعتماد ہے اور وہ اپنی زندگی کی تیگ و دو اور اس کے آثار و متاثر بڑے زور سے اپنی طرف منسوب کرنے کا عادی ہے۔ اگر اس کے وجود سے کوئی اچھا کارنامہ طیور پذیر ہوتا ہے تو وہ اپنی نادانی و خام گلری کی وجہ سے عجب و پندرہ میں بٹلا ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ حماقت کی اس حد کو پہنچ جاتا ہے کہ اپنے تین تقریباً خالق سمجھنے لگتا ہے حالانکہ اس کے ضعف و کمزوری کا یہ عالم ہے کہ ایک چیونٹی جوانہ تعالیٰ کے شکروں میں کمزوری مخلوق ہے اسے سترہ ڈھیر کر دینے کے لئے کافی ہے۔ اور ایک پھر، جو اپنی کمزوری میں ضرب اشل ہے اس کے نمودی دعوؤں کا علاج کرنے کے لئے بہت ہے۔

وخلق الانسان ضعيفاً۔

آدمی اکثر یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی قوت و طاقت اور لیاقت و صلاحیت اس کی خانہ زاد نہیں بلکہ بغیر کسی اتحقاق کے مالک کا عطا یہ ہے وہ جس طرح عطا کرنے پر قادر ہے۔ اسی طرح اسے سب بھی کر سکتا ہے۔ پھر انسان کی قوت اور صلاحیتوں کا استعمال بھی حق تعالیٰ شانہ کے لطف و توفیق پر موقوف ہے۔ اس کے وجود سے جو اعمال خیر صادر ہوتے ہیں۔ یہ اس کا اپنا مکمل نہیں بلکہ محض کرم آقا کے فضل و احسان اور لطف و کرم کا کرشمہ ہے۔

کار زلف تت مشک افغانی لاما عاشقان  
مصلحت راتنتے برآہوئے جیں بستہ ان

تفہیق الہی ایک لمحہ کے لئے بھی اس سے دستکش ہو جائے تو یہ ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتا۔ جس طرح کسی کارخانے کی پوری مشینی برق روکے بغیر معطل رہتی ہے۔ اسی طرح انسان کی ساری صلاحیتیں، توفیق و لطف الہی کے بغیر معطل اور بے کار محفوظ ہیں۔

پھر انسان کا وجود اور اس کی جسمانی و روحانی تمام صلاحیتیں اور قوتیں ہر آن حق تعالیٰ کی حفاظت و نگرانی کی محتاج ہیں۔ ایک لمحہ کے لئے اپنی حفاظت اس سے اٹھا لیں تو نہ اس کا وجود بالقی رہ سکتا ہے، نہ یہ اپنی کسی صلاحیت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس کے ضعف و عجز کا یہ عالم ہے کہ یہ نہیں سی چیونٹی اور کسی کیڑے پتنے سے بھی اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں ہے :

قل من يكثرواكم بالليل والنهار من الرحمن۔

(انعاماء ۲۲)

ترجمہ : ”تو کہہ کون تمہیانی کرتا ہے، تمہاری رات میں اور دن میں رحمن سے۔“  
(ترجمہ حضرت شیخ الدن)

الغرض آدمی اپنی ذات میں بیچ دریچ اور محفن توہہ خاک ہے۔ اس کے پاس جو کچھ ہے مالک کا عطا یہ ہے۔ یہ جس طرح اپنے وجود میں محتاج ہے، اسی طرح اپنی بقا و حفاظت اور اپنے ظاہری و باطنی قوی کے استعمال میں بھی سریلا احتیاج ہے۔ آدمی کے تمام اوصاف غارضی ہیں کہ ایک وقت میں ہوتے ہیں اور دوسرے وقت میں نہیں ہوتے، لیکن عجز و درماندگی اور ضعف و بے چارگی اس کا ایسا وصف لازم ہے جو ایک لمحہ کے لئے بھی اس سے جدا نہیں ہوتا۔ یہ مضمون اگرچہ ہر مسلمان کے عقیدے میں داخل ہے، لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ اکثر و پیشتر اس کا استھنار نہیں رہتا۔

اس بیماری میں جو پندرہ روزہ "خلوت" نصیب ہوئی۔ الحمد للہ اس میں اس حقیقت کا خوب خوب استخارہ ہوا۔

ہمارے حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اعمال کو اپنی طرف منسوب کرو گے تو خوکریں کھاؤ گے، اگر ان میں اچھائی نظر آئے گی تو عجب و خود پسندی کے مرض میں بتلا ہو جاؤ گے اور اگر ان میں ناقص نظر آئیں گے تو یاس و نالمیدی کا شکار ہو کر بہت ہار بیٹھو گے کہ ہم سے نیک طرح بن نہیں سکتے۔ فرماتے تھے اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرو، ان کا عطیہ اور ان کا فضل و احسان سمجھو۔ اس سے نہ خود ستائی پیدا ہوگی اور نہ مایوس، کسی کمال پر نظر جائے گی تو فوراً شکر کرو گے اللهم لک الحمد ولک الشکر کہ آپ نے گران قدر عطیہ عنایت فرمایا اور اگر اپنے عمل میں بعض نظر آئے گا؛ تب بھی اسے مالک کا عطیہ سمجھ کر اسکی قدر کرو گے۔

بلا بودے اگر ایں ہم نہ بودے

قرآن کریم میں ارشاد ہے:

"وَإِنْ تَعْنِوْنَعْمَةَ اللَّهِ لَا تَنْحصُوْهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِظَّلْمٍ كُفَّارٌ۔"

(ابراهیم ۳۳)

ترجمہ: "اور اگر گنو احسان اللہ کے نہ پورے کر سکو ویک آدمی بڑا بے انصاف ہے، ناشکرا۔"

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمنیؒ اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں، "یعنی خدا کی نعمتیں اتنی بے شمار بلکہ غیر متناہی ہیں۔ کہ اگر تم سب مل کر اجلاہی کتنی شروع کرو تو تھک کر اور عاجز ہو کر بیٹھ جاؤ" اور دوسرے فقرہ کی شرح میں لکھتے ہیں، "یعنی

جنہ انسان میں بنتی ہے انصاف اور ناچاں ہیں جو اتنے بے شمار احتیاط و دیکھ کر بھی منم حقیقی کا حق نہیں پہچانتے۔" اس بیماری میں اس حقیقت کا بھی شدت سے احساس ہوا کہ ہم لوگ اوابے شکر میں کتنے مقصرا ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ کی کسی ایک نعمت کا شکر بھی ہم سے ممکن نہیں۔ یہی ایک عافیت کی نعمت ہے جس کی وسعت کا احاطہ کرنے سے ہم قادر ہیں اور اس کی سینکڑوں انواع و اقسام میں پیش رہے ہیں جن کی طرف کبھی التفات بھی نہیں ہوتا اور نہ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ان پر بھی شکر واجب ہے۔ اسی طرح ہر آن اور ہر لمحہ انسان حق تعالیٰ شانہ کی بے شمار نعمتوں میں غرق ہے، بہت سے انعامات اپنے پر آدمی کی نظر جاتی ہے اور ان پر جیسا کہ شکر بھی کر لیتا ہے۔ لیکن لاکھوں کروڑوں نعمتوں انسان کے حیطہ اور اک اسی سے باہر ہیں۔ یہ مسکین ان پر کیا شکر کرے گا؟ انسانی وجود کی مشینی کا ایک ایک پر زد کیا اس لائق نہیں کہ اس پر مستقل شکر کیا جائے؟ مگر ہم میں سے کون ہے جس کو کسی ایک عضو کی سلامتی و عافیت پر بھی دائی ہٹکر کی نعمت آئی ہو۔ اس سے جہاں بھر میں (بلکہ دونوں جہاں میں) بچلی ہوئی بے شمار نعمتوں کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔

دن کی نسبت رات کے وقت مرض کی شدت و تکلیف میں عموماً اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ دن کی چھل پہل میں مریض کی توجہ دوسری چیزوں میں ٹھی رہتی ہے اور مرض کی طرف التفات کم ہو جاتا ہے لیکن رات کی تاریکی و تھائی میں ناٹے کا عالم ہوتا ہے اور مریض کی تمام توجہ سست کر مرض اور تکلیف پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اس نے تکلیف کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ رات، راحت و آرام کا وقت ہے۔ اس نے طبیعت رات کے وقت راحت و آرام کا تقاضا کرتی ہے اور بیماری اس سے مانع آتی ہے۔ اس تراجم سے تکلیف دوچند ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک شخص تکدرست ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں، وہ سونا چاہتا ہے لیکن

کوئی شخص اسے سونے نہیں دیتا اور مسلسل کئی راتیں اسی طرح گزر جاتی ہیں، اگرچہ یہ شخص بیمار نہیں، کسی دکھ و درد میں بھلا نہیں۔ لیکن راحت و آرام سے محرومی ہی اس کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اگر دکھ و درد اور تکلیف کے ساتھ راحت و آرام سے محرومی کا عذاب بھی جمع ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے مریض کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو گا۔ — الفرض مریض کو رات کی آمد کا تصور ہی بے چین کئے دیتا ہے کہ یا اللہ رات کیسے گزرتے گی؟

بچھے رات کے ننانے میں جس چیز کا سب سے زیادہ احساس ہوتا اور جو میرے ضعف و نقاہت اور کرب و بے چینی میں مزید اضافہ کا سبب بنتی وہ یہ تھی کہ یہ اپنا وہی ماوس مکان ہے، جس میں رسول سے رہتے آئے ہیں، وہی ماوس بستر ہے، جس پر ہمیشہ آرام کرتے ہیں، علاج کے لئے معالج موجود ہے، تیاروار موجود ہیں، دو اسیں موجود ہیں، نہ انہیں موجود ہیں، خدمت کے لئے آدمی موجود ہیں، صرف رات کا سناہ اور اس کی تاریکی و تعلیٰ مرض کی شدت میں اضافہ کر رہی ہے۔ قبر کے ننانے اور اس کی تاریکی و تعلیٰ میں وحشت و بے قراری کا کیا عالم ہو گا جب کہ وہ جہاں بھی غیر ماوس ہے اور مکان بھی، خاک کے اس بستر پر بھی اس سے پہلے کبھی لیٹنے کی نوبت نہیں آئی۔ وہاں نہ کوئی تیاروار اور پرسان حال ہو گانہ موں و غم خوار — جب رات کی تاریکی و تعلیٰ اس قدر بے چین کئے دیتی ہے تو بند قبر کی تعلیٰ و تاریکی اور وہاں کی وحشت کیسے برداشت ہو گی اور (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) وہاں کوئی تکلیف ہوئی تو اس کا کیا مدد ادا ہو گا؟

نہایت بے چینی کے ساتھ بار بار اللهم آنس و حشتنی فی قبری لخ۔ والی دعا زبان پر آتی تھی۔ اسی کے ساتھ بھی شدت کے ساتھ یہ احساس بھی ابھر آکے قبر میں کام دینے والی چیز تو انس مع اللہ ہے جس شخص کو انس مع اللہ کی دولت حاصل ہو

اے کسی جگہ اور کسی حالت میں وحشت نہیں، مگر ہم نے جخلوں سے دل لگایا، اور اسی کے ساتھ ماوس ہوئے۔ اگر جخلوں سے وحشت ہوتی، اور حق تعالیٰ شانہ کی یاد موصی و غمزدار ہوتی تو قبر کی وحشت کا اندر یہ نہ ہوتا۔ بہر حال مریض کے لئے رات کی وحشت بڑی عبرت کی چیز ہے، جو قبر کی وحشت کو یاد دلاتی ہے۔

---

مریض، موت کی دلیل ہے۔ مریض جب بحرانی بیگفت سے دو چار ہو تو اس کو ایک معمولی بھنگنا بھی موت کی آنغوш میں پچھلانے کے لئے کافی ہے۔ ہمارے یہاں ماہی کی حالت کو ”موت و حیات کی کلکش“ کہنے کا غلط محاورہ رائج ہے۔ حالانکہ موت و حیات میں کبھی کلکش نہیں ہوتی۔ موت اپنے مقررہ وقت پر آ کر زندگی کا دفعہ خاتمه کر دیتی ہے، البتہ اس کو امیدو یتم اور خوف و رجا کی کلکش کہنا چاہئے۔ یہ خیال بھی بڑی قوت کے ساتھ سلط رہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مرض کی شدت میں ذرا سا اضافہ کر دیں تو یہ یہاری جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ موت کے بعد میرے گروپیش کی یہ چیزیں یہ دوست احباب یہ عزیزاً قارب یہ یہوی پیچے اور یہ سارا پھیلا ہوا جان میرے کس کام کا ہے؟ میرے لئے تو آخرت اور صرف آخرت ہے، اور وہ اعمال ہیں جو صرف آخرت کے لئے کئے گئے ہوں، دنیا اور وہ سارے وہندے جو صرف دنیا کے لئے کئے جاتے ہیں محض لغو اور باطل ہیں، ان میں مشغول ہو کر آخرت کو بمحمل جانا کتنی بڑی نارانی اور حجاجت ہے۔ افسوس کہ ہم میں سے اکثر لوگ جیتے جی اسی حجاجت میں بھلا رہتے ہیں۔

---

انسان بڑا زود فراموش ہے، قرآن کریم میں بھی اس کی زود فراموشی کی شکایت کی گئی ہے:

دوران اللہ تعالیٰ کو خوب پکارتے تھے، فتیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ سے عمد باندھتے تھے، اور اپنی روشن بدلتے کے وعدے کرتے تھے۔ لیکن جو نی کلیف دور ہوئی سب وعدے وعید بھول گئے اور زندگی کی روشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔

راقم الحروف محسوس کرتا ہے کہ مرض کے دوران دعا، التجا، ابابت الی اللہ اور آخرت کے استھنار کی جو کیفیت تھی اور جس کی لذت سے دل و دماغ ابھی تک شادکام ہیں، صحبت کے بعد وہ کیفیت نہیں رہتی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وصال کے بعد فراق اور حضوری کے بعد غبیت میں ڈال دیا گیا ہو۔ اس پر رنج و صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ "یک گونہ غفلت" بھی حق تعالیٰ شاند کی بڑی نعمت ہے، یہ کوئک دوام استھنار ہم ضعفاء کے محل سے باہر ہے ورنہ زندگی کے مشاغل میں خلل واقع ہو جائے، لیکن ایسی غفلت کہ آدمی اپنی حالت کو بالکل بھول جائے۔ اور صحبت و عافیت کے حصول کے بعد شکر کے بجائے کفر ان نعمت کا راستہ اختیار کر لے اور اپنی سابقہ خرستیوں میں پھر مشغول ہو جائے، یہ حالت مذموم ہے۔ جس کی شکایت قرآن کریم میں کی گئی ہے حق تعالیٰ شاند، "جیلیات غفلت کو دور فرمائیں۔"

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو خبر پہنچی کہ ان کے فلاں بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ بعد میں اطلاع آئی کہ وہ خبر غلط تھی وہ ماشاء اللہ زندہ سلامت ہیں۔ اس پر حضرت عمر بن عبد العزیز نے ان کو خط لکھا کہ "اگرچہ پہلی خبر غلط تھی، تاہم تم کو یہ سمجھنا چاہئے کہ حق تعالیٰ شاند نے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ بحیثیج دیا ہے، تاکہ تم پہلی زندگی کی حلانی کر سکو۔ اس لئے تم کو لازم ہے کہ حیات تو کے ایک ایک لمحہ کو نیمت سمجھو اور اسے فضولیات میں خالق نہ کرو"۔

اسی طرح شدید مرض سے صحبت کے بعد آدمی کو یہی سمجھنا چاہئے کہ میں تو مر گیا تھا۔ مگر حق تعالیٰ شاند نے محل اپنے فعل و عنایت سے مجھے حیات تو عطا فرمائی

واذا مس الانسان الفسر دعانا لحبه اوقاعدا او  
قائما فلما كشفنا عنه ضره مركان لم يدعنا الى  
ضرمه، كذا لك زين للمفسرين ما كانوا يعملون۔

(یونس ۱۳)

ترجمہ: "اور جب پہنچے انسان کو تکلیف پکارے ہم کو پڑا ہوا یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا پھر جب ہم کھول دیں اس سے وہ تکلیف چلا جائے گویا بھی نہ پکارا تھا ہم کو تکلیف پہنچنے پر، اسی طرح پسند آیا ہے بے باک لوگوں کو ہو پکجھ کر رہے ہیں۔"

(ترجمہ حضرت شیخ اللہ)

شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانیؒ اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں :

"یعنی انسان اول ہے باکی سے خود عذاب طلب کرتا ہے اور برائی اپنی زبان سے مانگتا ہے، مگر کمزور اور یوادا اتنا ہے کہ جہاں ذرا تکلیف پہنچی گبرا کر ہمیں پکارنا شروع کر دیا۔ جب تک مصیبیت رہی کثرے، پہنچے، لینے ہر حالات میں خدا کو پکارتا رہا۔ پھر جہاں تکلیف بہائی گئی سب کمانا بھول گیا۔ گویا خدا سے کوئی واسطہ نہ تھا وہی غور و غفلت کا نشہ، وہی اکریوں رہ گئی جس میں پسلے جاتا تھا۔"

حدیث میں ہے کہ "تو خدا کو اپنے عیش و آرام میں یاد رکھ، خدا تجھ کو تیری ختنی و مصیبیت میں یاد رکھے گا" مومن کی شان یہ ہے کہ کسی وقت خدا کو نہ بھولے، ختنی پر صبر اور فرانخی پر خدا کا شکر ادا کرتا رہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی توفیق مومن کے سوا کسی کو نہیں ملتی۔

ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ صورت پیش آئی ہوگی کہ ختنی اور بیماری کے

دینا میں دوبارہ بھیج دیا۔ اور ان لمحات زندگی کو زیادہ سے زیادہ فیضی بنانے کی فکر میں لگ جانا چاہئے۔

اللهم وفقنا لما تحب و ترضا من القول والفعل والعمل والهدا انك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على خير حلقه صفوة البرية سلنا محمداً آل واصحابه وآباءه وآباءه اجمعين

(یقیقات ذوالحجہ ۱۴۰۴ھ)

## شامتِ اعمال

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى : اما بعد :

حق تعالیٰ شانہ نے انسان کی سعادت و شقاوت کو اس کے اعمال سے وابستہ فرمایا ہے، ہر عمل پر اس کے مناسب رو عمل کا ظہور ہوتا ہے۔ بندوں کے جس قم کے اعمال آسمان پر جائیں گے، انہی کے مناسب ان کے حق میں آسمان سے فیصلے صادر ہوں گے۔ اعمال خیر پر خیر کے فیصلے آئیں گے، اور اعمال شر پر دوسرا تو عیت کے فیصلے ہوں گے۔ انفرادی اعمال پر افراد کے بارے میں شخصی فیصلے ہوں گے۔ اور اجتماعی اعمال پر مجموعی طور پر قوم یا طبقہ کے بارے میں فیصلے ہوں گے۔

اعمال کے ثمرات و نتائج دنیا میں بھی رونما ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ ایجھے اعمال پر جس طرح اخروی سعادت مرتب ہوتی ہے اسی طرح دنیا میں سعادت و کامرانی نصیب ہوتی ہے اور گندے اعمال پر آخرت کی شقاوت و خزان کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی عذاب کی شکلیں نمودار ہوتی ہیں۔ یک و بد اعمال کے پورے نتائج کا ظہور تو آخرت میں ہو گا۔ کیونکہ کامل جزا و سزا کے لئے قیامت کا دن تجویز فرمایا گیا ہے۔ لیکن بطور نمونہ کچھ نتائج، یا کم سے کم ان نتائج کی بھلک سی جھلک دنیا میں بھی رونما ہوتی ہے مگر معاملہ یکسر ادار پر نہ رہے، بلکہ کچھ تھوڑا سا نقد بھی دے دیا جائے۔

ہمارے یہاں جزا اور سزا کے تصور میں دو غلطیاں بہت عام ہو گئی ہیں۔ قریبًا سب ہی عوام و خواص الامان شالہ۔ ان میں بہلا نظر آتے ہیں۔ ایک یہ کہ اچھے برے اعمال کے مندرجہ قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ اسی وقت جزا اور سزا بھی ہو گی۔ ہماری اس دنیوی زندگی کو نیک و بد اعمال کی جزا اور سزا سے کوئی تعلق نہیں۔ اس زندگی میں نیک و بد اعمال پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ نہ یہاں کسی کو اپنے کئے کی جزا یا سزا مانی ہے۔ دوم یہ کہ آخرت کی جزا اور سزا پر اگرچہ ایمان ہے، لیکن خواہشات کے غلبہ و تسلط، غفلت آمیز ماحول کی تاریکی اور دنیوی لذات کی حلاوت و شیرینی نے آخرت کی جزا اور سزا کے تصور کو بہت تی دھنڈلا اور مضمحل کر دیا ہے اس کا استغفار ہی نہیں رہتا کہ جو اعمال ہم اپنے نامہ عمل میں درج کر رہے ہیں قیامت کے دن ان کے ایک ایک ذرہ کا حساب بھی رکھنا ہو گا۔

”فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ قَالَ ذَرْهَ خَيْرًا يُرْهَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ قَالَ ذَرْهَ شَرًا يُرْهَهُ“  
(الزمر: ۷-۸)

ترجمہ: ”سوہو شخص (دیانتیں) ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ (دہاں) اس کو دیکھ لے گا؛ اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔“  
(ترجمہ حضرت تھانوی)

اور جن گناہوں کا بوجھہ ہم آج لاد رہے ہیں کل اسے خود اپنی ناتوان کر پر اٹھانا ہو گا:  
وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ خَلْهُو رَهْمَ الْأَسَاءَ  
ما يَرْوُنَ-  
(الاعمâم: ۳۱)

ترجمہ: ”اور حالات ان کی یہ ہو گی کہ وہ اپنے بار اپنی کمر پر لاوے ہوں گے خوب سن لو کہ بڑی ہو گی وہ چیز جس کو لا دیں گے۔“  
(ترجمہ حضرت تھانوی)

ہمارے طرز زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ آخرت کی جزا اور سزا کا ہمارے دنیوی اعمال سے کوئی ربط و تعلق نہیں۔ آخرت کا معاملہ، اس دنیا سے مکسر ہے تعلق ہے۔ ہم خواہ کیسے ہی عمل کرتے رہیں ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہو گی۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں، خود ہی مauf فرادیں گے، ظاہر ہے کہ غفلت کی یہ کیفیت ہماری کھلی حجاجت ہے، حدیث شریف میں ارشاد ہے:

الکیس من دان نفیہ و عمل لعا بعد الموت  
والعا جز من اتبع نفسه هواها وتمشی على الله

(مشکلۃ المسکن: ۲۵۱ از ترمذی و ابن ماجہ)

ترجمہ: ”ہوشیار اور حکمند توارہ ہے جس نے اپنے نفس کو رام کر لیا۔ اور موت کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کیا اور احمق ہے وہ شخص جس نے نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے لکھا دیا اور اللہ تعالیٰ پر آرزو کیں وہ عرس۔“

الغرض ان دو غلطیوں میں ہتھا ہونے کی وجہ سے ہم اصلاح اعمال کی فکر سے بے نیاز ہیں، نہ اصلاح دنیا کے لئے اصلاح اعمال کی فکر ہے اور نہ اصلاح آخرت کے لئے۔

حکیم الامت حضرت القدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ان ہی دو غلطیوں کی اصلاح کے لئے رسالہ ”جزاء الاعمال“ تایف فرمایا تھا۔ اس کی تتمید میں فرماتے ہیں:

”یہ ناجیز ناکارہ اپنے دینی بھائیوں کی خدمت میں عرض رسالہ ہے کہ اس وقت میں جو عالات ہم لوگوں کی ہے کہ طاعت میں کالبی و غفلت اور معاصی میں اشہمک و ہر جات وہ ظاہر ہے، جہاں تک غور

کیا گیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ اعمالِ حسن و سیئے کی پاداش صرف آخرت میں سمجھتے ہیں۔ اس کی ہرگز خبر نہیں کہ دنیا میں بھی اس کا کچھ نتیجہ مرتب ہوتا ہے اور غلبہ صفاتِ نفس کے سبب دنیا کی جزا اور سزا پر چونکہ وہ سردوست واقع ہو جاتی ہے، زیادہ نظر ہوتی ہے۔ پھر عالم آخرت میں بھی جزا اور سزا کے وقوع کو عقیدت آن اعمال کا شرو جانتے ہیں، مگر واقعی بات یہ ہے کہ جو علاقہ قویٰ مُحَمَّد و اثر میں اور سبب و مسبب میں سمجھنا چاہئے اور اسباب و سیماتِ دنیویہ میں سمجھتے ہیں، وہ علاقہ اس وقت کے ساتھ اعمال اور ان کے ثمرات آخرت میں ہرگز نہیں سمجھتے بلکہ قریب قریب اس طرح کا خیال ہے کہ گویا اس عالم کے واقعات کا ایک مستقل سلسلہ ہے جس کو چاہیں گے پکڑ کر سزا دے دیں گے؛ جس کو چاہیں گے خوش ہو کر نعمتوں سے ملا مال کر دیں گے اعمال کو گویا اس میں کچھ دخل (۱) ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ خیال بے شمار آیات و احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔ چنانچہ عنقریب تفصیل معلوم ہوتا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

اس نے اس مرض کے درفع کرنے کے لئے دو امور ضروری خیال میں آئے:

اول۔ کتاب و سنت و مخطوطاتِ محققین سے یہ دکھلایا جائے کہ جیسے آخرت میں اعمال پر جزا اور سزا واقع ہو گی، ایسے دنیا میں بھی بعض آثار ان کے واقع ہوتے ہیں۔

دوسرے۔ یہ ثابت کرو دیا جائے کہ اعمال میں اور ثمراتِ آخرت میں ایسا قویٰ علاقہ ہے جیسا آگ جانے میں اور کھانا پکانے میں یا کھانا کھانے میں اور شکم سیر ہو جانے میں یا پانی چھڑکنے میں اور آگ کے بھجانے میں ان دونوں امور کے ثبوت کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید قویٰ ہے کہ سردوست جزا اور سزا ہو جانے کے یقین سے اور اسی طرح کارخانہ دنیا پر کارخانہ آخرت کے مرتب ہونے کے غلبہ اعتقاد سے طاعات میں رغبت اور معاصی سے نفرت پیدا ہو جانا سلسلہ ہے آئندہ توفیق و لامدن حق سمجھانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔

قرآن کریم کی آیات پیغمبرات اور آخرحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات طیبہ میں اعمال کے دینوی مذاج بہ کثرت مذکور ہیں۔ آج کی صحبت میں اس سلسلہ کی ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے۔ موطالام مالک "کتاب الجماد باب "ما جاء في الغلول" میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد تقلیل کیا ہے:

"ما ظهر الغلول في قومٍ فَطَ الْأَلْقَى فِي قَلْوبِهِمْ"

(۱) کوئی شخص یہ شبہ نہ کرے کہ اعمال کا دخل نہ ہونا تو کچھ حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی شخص عمل کے نہ سے جنت میں نہ جاوے گا انتہی۔ دفعہ اس شبہ کا یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل کو باطل دخل ہی نہیں ہے بلکہ منسوہ یہ ہے کہ عمل پر مغفور ہو کر نہ بیٹھ جائے جزو اخیر علت تام، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے: "بِسْ گُویا یہ فضل بھی اعمال نیک سے نسبت ہوتا ہے سہ عمل ہی علت تامہ کا ایک جزو نہیں۔ قال اللہ تعالیٰ ان رحمة اللہ فرب

من المحسنين

الرَّبُّ وَلَا فِتْنَى الرَّزْنَاقِيُّ قَوْمٌ أَكْثَرُ فِيهِمُ الْمَوْتُ  
وَلَا نَفْسٌ قَوْمٌ الْمَكْبَالُ وَالْمَبْرَانُ الْأَقْطَعُ عَنْهُمْ  
الرِّزْقُ، وَلَا حُكْمٌ قَوْمٌ بَعْدِ الْحَقِّ الْأَفْشَى فِيهِمْ  
الْدَّمُ وَلَا خَرْقَوْمٌ بَالْعَهْدِ الْأَسْلَطُ عَلَيْهِمُ الْعَدُو.

(موطا امام مالک ص ۳۷۶، موطا امام محمد بن حنفیہ ص ۳۱۹)

ترجمہ:- جس قوم میں خیانت عام ہو جاتی ہے اس کے دل میں رعب ڈال دیا جاتا ہے اور جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے ان میں اموات کثرت سے واقع ہونے لگتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کی کرتی ہے ان کا رزق بند کر دیا جاتا ہے جو حق کے خلاف فیصلے کرتی ہے اس میں خوزیری عام ہو جاتی ہے اور جو قوم عمد ٹھنکی کرتی ہے ان پر دشمن کا تسلط ہو جاتا ہے۔

اس حدیث میں پانچ گنابوں کے پانچ ہولنگ مثالج ذکر کئے گئے ہیں آج کا معاشرہ پوری طرح ان کی لیبیت میں ہے۔

### ا۔ غلوں .....

مال غیرمت میں خیانت کرنے کو کہتے ہیں اور کبھی اس کا اطلاق مطلق خیانت پر بھی آتا ہے جس کے مقابلے میں دیانتداری اور لامانت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ "لامانت" اور "ایمان" قرین ہیں اور خیانت ایمان کی ضد ہے۔

حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :

فَلَمَّا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَقْوَالَ

لا ایمان لمن لا امامۃ له ولا دین لمن لا عہد له  
(مکہہ ص ۱۵)

ترجمہ:- بہت کم ایسا ہوا ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے  
ہمیں خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ ایمان ہی نہیں اس  
شخص کا جس کے لئے لامانت نہیں اور دین ہی نہیں اس شخص کا  
جس کو اپنے عمد کا پاس نہیں۔"

دوسرے نصوص کے پیش نظریہ حدیث اور اس نوعیت کی دیگر احادیث مولوی  
ہیں یعنی الہ علم کے نزدیک ان میں اصل ایمان کی نفعی نہیں بلکہ کمال ایمان کی نفعی  
مقصود ہے۔ الغرض ایمان دار معاشرہ خائن نہیں ہوتا اور نہ خائن معاشرہ اسلامی  
معاشرہ کملانے کا مستحق ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں لامانت و دیانت نام کی کوئی چیز  
ڈھونڈنے کو بھی نہیں ملتی۔ الاماشاء اللہ۔ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں خیانت و  
بدرویانی سراہیت نہ کر گئی ہو۔ لور بخی اواروں یا سرکاری مکھموں میں کون سا اوارہ اور  
کونسا ملک ایسا ہے جو اس گندگی سے محفوظ ہو؟۔ گزشتہ دونوں وفاتی مختسب کا میان  
اخبارات میں شائع ہوا تھا کہ :

"اب تک قوی بچت کے اوارے میں فرازو کے ۲۹ واحدات  
ہو چکے ہیں اور کراچی کے ایک واحدہ میں غبین کی بھی رقم تین کروڑ  
سے زائد ہے اور ابھی جن کیسوں کو نہیں باقی ہے ان کی تعداد ایک  
سو سے تجاوز ہے۔"

(روزنامہ جگہ کراچی ۸ جولائی ۱۹۸۷ء)

یہ صرف ایک اوارے کے ان واقعات کے لحاظ او شمار ہیں جن کی شکایت وفاتی  
مختسب تک پہنچ گئی ہے اس سے ہمارے معاشرے میں دیانت و لامانت کے معیار کا

”قیاس کن زگستان من بمار مر“

آج کل اخبارات میں اپنی کرپشن کمپنی کے چیزیں کے بڑے دھواد وار بیانات اخبارات میں آ رہے ہیں۔ خدا کرے یہ کمپنی صورتحال کی اصلاح میں کسی حد تک کامیاب ہو جائے اور ویگر بست سی کیشیوں اور اداروں کی طرح یہ خود ہی کرپشن کا شکار نہ ہو جائے۔

اسی بوہی ہوئی خیانت و بدروانی کا نتیجہ ہے کہ امن و لامان مفقود ہے، ہر شخص پر خوف و ہراس کی کیفیت طاری ہے، اس بدروانی سے نہ گھر محفوظ ہے، نہ سرکیں، نہ بازار، نہ فاقہر، نہ کالج، نہ جامعات، نہ مدارس، نہ مساجد۔ ان اللہ وانا اللہ راجعون۔

اس بدروانی و خیانت کی فراوانی کا اصل سبب یہ ہے کہ کسی شخص کا کسی عمدہ و منصب کے لئے انتخاب کرتے ہوئے اس کی تعلیم، سند اور ڈگری کو (ایا پھر سفارش و رشوت) کو معیار بنا لیا جاتا ہے۔ یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی کہ اس شخص کے دین و دویانت اور ایمان و لماتت کا معیار کیا ہے؟۔

۳۔ حدیث کا دوسرا فقرہ یہ ہے کہ جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے اس میں اموات بہ کثرت واقع ہوتی ہیں۔ زنا کے عام ہو جانے میں اس کے اسباب کو بڑا خل ہے۔ ہمارے معاشرے میں زنا کے اسباب اس قدر عام ہیں کہ بھلے زماں میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ عورتوں کی بے جبالی و عربانی، لڑکوں، لڑکیوں کی مخلوط تعلیم، مرو و زن کا بے جبالانہ اختلاط، ہر شعبۂ زندگی میں مرو و عورت کے دوش بدوش چلنے اور چلانے کا جون، رومانی فلمیں اور فیچر، یہجان اگیز گانے اور لغے۔۔۔

الغرض اسباب زنا کا ایک طوفان ہے جس میں قوم گلے گلے تک ڈوب رہی ہے، اور اس طوفان کی قوت و شدت روزافروں ہے۔ اس طوفان کو دیکھ کر نوجوان نسل بنان

حال یہ کہ رہی ہے:

در میان قعر دریا تختہ بند کر دہ  
بازمیگوئی کہ دامن ترکن ہوشیار باش

سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ نو خیز نسل جس کو صنف مختلف سے اختلاط کی تمام سوتیں حاصل ہوں اور اس اختلاط کی راہ میں ان پر کوئی پابندی حاکم نہ ہو۔ اس سے یہ توقع کیسے کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنی عفت و عصمت کو آلوگی سے بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ لاعاصم الیوم من امر اللہ الام من رحمة

ستم بالائے تم یہ ہے کہ ناخد لیاں قوم کو نسل جدید کی ان مشکلات کا کوئی احساس نہیں اور نہ اس طوفان نوح سے بچانے کے لئے کوئی مدیر بھی زیر غور آتی ہے۔ بلکہ بست سے قلم، جن کی آواز موثر ہے اور جو سکین خوب بادہ جنیت کے میسکار ہیں، وہ ”آزادی نسوان“ کا علم اٹھائے، اس صورتحال کو مزید عجیں بنانے میں مصروف ہیں۔ چند بڑے گھرانے کی بیکملت ان کی آللہ کار ہیں اور ناخد لیاں قوم ان بیکملت کے اشارہ چشم و ابرو پر رقص کرنے کو عین سعادت اور صحیح خدمت اسلام سمجھتے ہیں۔ انصاف فرمائیے کیا یہ کسی اسلامی معاشرہ کے خط و خال ہیں؟ اور جو معاشرہ اس طرح ”جنسی وبا“ کی لپیٹ میں آجائے اس میں نہ امراض کاظمہ اور کثرت اموات کا وقوع اس صورت حال کا فطری نتیجہ ہے۔

۴۔ حدیث کا تیسرا فقرہ ہے کہ جو قوم ناپ قول میں کی کرتی ہے وہ رزق کی بندش کے عذاب میں بٹتا ہو جاتی ہے۔ ”ناپ قول میں کی“ کا مفہوم عام ہے کہ جس مقدار کی تعیین کے لئے جو پیمانہ مقرر ہے اسے پورا نہ کیا جائے اور صاحب حق کا حق پورا ادا نہ کیا جائے۔ حضرت القدس مفتی محمد شفیع صاحب ”معارف القرآن“ میں

مزدور ملازم نے جتنے وقت کی  
خدمت کا مقابلہ کیا ہے اس میں سے وقت چرانا اور کم کرنا بھی  
اس میں داخل ہے۔ وقت کے اندر جس طرح محنت سے کام  
کرنے کا عرف میں معمول ہے اس میں سستی کرنا بھی تلفیف  
ہے، اس میں عام لوگوں میں یہاں تک کہ الہ علم میں بھی  
غفلت پائی جاتی ہے، اپنی ملازمت کے فرائض میں کمی کرنے کو  
کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ اعانت اللہ مدد

(عکوف القرآن۔ جلد ۸ ص ۶۹۳-۶۹۴)

"ناب قول میں کمی" اور حقوق ادا کرنے کے جو پیانے مقرر ہیں ان کو پورانہ  
کرنے کی بیماری بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ جیسا کہ مندرجہ بالا اقتباس میں  
حضرت مفتی صاحب<sup>ؒ</sup> نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ہزاروں میں کوئی ایک ہو گا جو  
مقررہ پیانے کو پورانہ کرنے کا مریض نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی سزا یعنی رزق کی  
بندش بھی عام ہو رہی ہے۔ رزق کی بندش کی بھی بستی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ  
رزق کا قحط ہو جائے۔ ایک صورت یہ ہے کہ چیزوں کی فراوانی اور بہتان ہو۔ مگر  
صارفین کی قوت خرید میں کی واقع ہو جائے۔ ایک صورت یہ ہے کہ رزق سے  
برکت اٹھ جائے اور (اللماشاء اللہ) ہر شخص کو قلت و سائل کی شکایت ہو۔

غور فرمائیے تو ہمارے یہاں "بندش رزق" کی یہ ساری صورتیں پائی جاتی ہیں  
اور رزق کے معاملے میں معاشرے کی اکثریت حیران و پریشان ہے۔ بے روزگاری عام  
ہو رہی ہے اور اسکے نتیجے میں نوجوان نسل منفی جذبات کی آمادگاہ بن رہی ہے۔  
معمولی سی بات پر لڑائی جھگڑا، قتل و قتل اور قومی الملک کی توڑ پھوڑ گویا روزمرہ کا  
معمول بن رہا ہے۔ کوئی دن ایسا نہ ہو گا جو اس نوعیت کے ناخوشگوار واقعات سے خالی

لکھتے ہیں:

"قرآن و حدیث میں ناب قول میں کمی کرنے کو حرام قرار دیا  
ہے کیونکہ عام طور سے معاملات کا لین دین اُنی دو طریقوں سے  
ہوتا ہے اُنی کے ذریعہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حقدار کا حق ادا ہو گیا یا  
نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ مقصود اس سے ہر ایک حقدار کا حق  
پورا پورا دینا ہے اس میں کمی کرنا حرام ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ  
صرف ناب قول کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر وہ چیز جس سے کسی  
کا حق پورا کرنا یا نہ کرنا جانچا جاتا ہے اس کا یہی حکم ہے خواہ ناب  
قول سے ہو یا یادو شماری سے یا کسی اور طریقے سے ہر ایک میں  
حقدار کے حق سے کم رہنا بعلم تلفیف حرام ہے۔

موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب<sup>ؓ</sup> نے ایک  
شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے رکوع سجدے وغیرہ پورے نہیں کرتا  
جلدی جلدی نماز ختم کر دالتا ہے تو اس کو فرمایا:

لقد طفت یعنی تو نے اللہ کے حق میں تلفیف کر دی، فاروق  
اعظم<sup>ؑ</sup> کے اس قول کو نقل کر کے حضرت امام مالک<sup>ؑ</sup> نے فرمایا  
لکل شی وفاء و تطہیف یعنی پورا حق دنایا کم کرنا ہر چیز میں  
ہے یہاں تک کہ نماز، وضو، طہارت میں بھی اور اسی طرح  
دوسرے حقوق اللہ اور عبادات میں کمی کو تباہی کرنے والا  
تلفیف کرنے کا مجرم ہے اسی طرح حقوق العباد میں جو شخص  
مقرر، حق سے کم کرتا ہے وہ بھی تلفیف کرنے کا مجرم ہے۔

گذرتا ہو۔ حضرت منقی صاحب ”قطع رزق“ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”حدیث میں جن لوگوں کا رزق قطع کر دینے کا ارشاد ہے  
اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو رزق سے بالکل محروم  
کر دیا جائے اور یہ صورت بھی قطع رزق ہی میں داخل ہے کہ  
رزق موجود ہوتے ہوئے وہ اس کو کھانے کے یا استعمال نہ کر سکے۔  
یہی بہت سی پیاریوں میں اس کا مشابہ ہوتا ہے اور اس زمانے میں  
بہت عام ہے۔ اسی طرح تحفہ کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اشیاء  
ضورت مفقود ہو جائیں اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موجود بلکہ کثیر  
ہونے کے باوجود ان کی گرانی اتنی بڑھ جائے کہ خریداری مشکل ہو  
جائے جیسا کہ آج کل اس کا مشابہ آکٹھیزوں میں ہو رہا ہے اور  
حدیث میں فقر مسلط کرنے کا ارشاد ہے، اس کے معنی صرف یہی  
نہیں کہ روپیہ پیسہ اور ضورت کی اشیاء اس کے پاس نہ رہیں بلکہ  
فتر کے اصلی معنی محتاج اور حاجتمندی کے ہیں، ہر شخص اپنے  
کاروبار اور ضروریات زندگی میں دوسروں کا جتنا محتاج ہو وہ اتنا ہی  
فقر ہے۔ اس زمانے کے حالات پر غور کیا جائے تو انسان اپنے رہن  
سن اور نقل و حرکت اور اپنے ارادوں کے پورا کرنے میں ایسے  
ایسے قوانین میں جکڑا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کے لئے اور کلمہ تک  
پر پاندیاں ہیں، اپنا مال موجود ہوتے ہوئے خریداری میں آزاد نہیں  
کہ جہاں سے چاہے کچھ خریدے۔ سفر میں آزاد نہیں کہ جب کہیں  
جانا چاہے چلا جائے، ایسی ایسی پاندیوں میں انسان جکڑا گیا ہے کہ ہر  
کام کے لئے وفتیگردی اور افسروں سے لے کر چراسمیوں تک کی

خوشامد کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے یہ سب محکمی ہی تو ہے جس  
کا دوسرا نام فقر ہے۔ اس تفصیل سے وہ شہمات رفع ہو گئے جو  
حدیث کے ارشاد کے متعلق ظاہری حالات کے اعتبار سے ہو سکتے  
ہیں۔“

(معارف القرآن جلد ۱۸ ص ۱۹۵-۱۹۶)

۳۔..... حدیث کا چوتھا فقرہ یہ ہے کہ جو قوم حق کے خلاف فیصلے کرتی ہے اس میں  
قتل و خونزیری عام ہو جاتی ہے۔ ”حق کے مطابق فیصلہ کرنے کا مطلب ہے“ صحیح  
قانون کے مطابق صحیح فیصلہ کرنا“ گویا اس کے مفہوم میں دو چیزوں شامل ہیں ایک یہ  
کہ قانون کے مطابق بے لوث فیصلہ کیا جائے جس میں نہ کسی کی رور عایت ہو۔ نہ  
لائچ یا سفارش کار فرما ہو۔ دوسری یہ کہ جس قانون کے مطابق فیصلہ کیا گیا، قانون بھی  
مجائے خود صحیح اور برحق ہو۔ پس اگر قانون ہی غلط ہو، ناحق ہو، ظالمانہ ہو، تو اس کے  
مطابق بے فیصلہ بھی کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عدل و انصاف کا فیلم نہ نہیں  
ہو گا اور ایسے فیصلے کرنے والا ”ناحق فیصلہ“ کی وعید کا مستحق ہو گا۔ وہ قیامت کے  
دن عذر نہیں کر سکے گا کہ میں نے تو قانون کے مطابق فیصلہ کیا تھا۔ اسی طرح اگر  
قانون تو صحیح اور برحق ہے مگر فیصلہ کرنے والے نے قانون کے مطابق بے لوث اور  
بے لاؤ فیصلہ نہیں کیا۔ بلکہ رشوت و سفارش یا قربت کی وجہ سے ایک فریق کی  
رعایت کی گئی تو یہ فیصلہ بھی ظالمانہ اور جابرانہ فیصلہ ہو گا۔

پر فتنتی سے ہمارے یہاں ”حق کے مطابق فیصلہ“ کی دونوں شرطیں مفقود  
ہیں قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہمارے یہاں انگریز کا قانون بعض جزوی  
ترسمیات کے ساتھ نافذ ہے اور ہماری عدالتیں راگر ان کو عدالت کہنا صحیح ہے اسی کے  
مطابق فیصلے کرنے کی پاندی ہیں گویا ہمارے یہاں عدالتیں میں ”ما قتل اللہ“ کے مجائے

"مالز الانگلیز" کے مطابق فیصلہ ہوتے ہیں۔ اور پھر جس قسم کا قانون بھی نافذ ہے۔ صحیح یا غلط۔ فیصلے اس کے مطابق نہیں ہوتے بلکہ رشوت و سفارش کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، رشوت و سفارش کا طوفان قانون کی حکمرانی کو بہا کر لے گیا ہے چنانچہ قانون ظالم سے مظلوم کو حق دلانے سے قادر ہے۔ اس کی حیثیت منڈی کے بلاؤ مال کی ہے جو شخص بھی اس کے زیادہ دام لگائے قانون اس کی چاکری کے لئے حاضر ہے۔ کسی دانا کا یہ قول بالکل صحیح ہے کہ :

"قانون عذری کا جلا ہے یہ کمزور کو پھنس لیتا ہے اور طاقت ور اسے تور دلتا ہے"۔

ان دو چیزوں کے علاوہ موجودہ عدالتی نظام اتنا بیچیدہ اور اتنا منگا ہے کہ عام آدمی اس سے داوری کی کوئی توقع نہیں رکھتا۔ بلکہ عدالت کے لفظ ہی سے پناہ مانگتا ہے اور اگر عدالت سے رجوع کرنا ہی پڑے تو حصول انصاف کے طول و طویل راستے کو اپنی زندگی میں قطع کرنے کی اسے کوئی توقع نہیں ہوتی۔ دیوانی مقدمات میں زیادہ تر فیصلہ باب کے بجائے بیٹے کی زندگی میں ہوتا ہے اور بسا اوقات دادا کے مقدمہ کا فیصلہ پوتے کو سنایا جاتا ہے۔ فوجداری مقدمات میں بھی سالہا سال تک جیلوں میں پڑے رہتے رہتے ہیں، اور عدالت ایک طویل عرصے کے بعد فیصلہ کرتی ہے کہ وہ مجرم ہیں یا بے قصور؟ اور بے قصور ہونے کی صورت میں اخیں عدالت کے دروازے پر انصاف کی بھیک مانگنے کے جرم میں طویل عرصہ جیل کی ہو اکھلنی پڑتی ہے۔

الغرض ہمارے موجودہ عدالتی نظام میں اول تو وہ قانون ہی (اللہاشاء اللہ) غلط اور ناچار ہے جس کے مطابق فیصلے کئے جاتے ہیں۔ دوسرے یہ عدالتی فیصلے اکثر و بیشتر بے لوث نہیں، بلکہ رشوت و سفارش یا دوستی و قربت کی بنا پر کئے جاتے ہیں۔ تیسرا، انصاف مفت تو کیا، ستا بھی میرا نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں

انصاف ایسی گروہ ہیں ہے کہ غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہے۔ چوتھے، یہ عدالتی نظام ایسا چیز درحقیقہ ہے کہ داوری کے طالب کا پیانہ عمر لبرز ہو جاتا ہے اور وہ قید حیات سے رہائی حاصل کر لیتا ہے۔ مگر عدالت اسے انصاف دلانے سے قاصر رہتی ہے۔ یہ تمام تر صورت حال ظلم در ظلم در ظلم کی ہے۔ جس کی پچھلی میں "النصاف کے نام" پر معاشرہ پس رہا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ قانون کا احراام اٹھ گیا ہے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کا راجحان تیزی سے بیٹھ رہا ہے اور اس کے نتیجہ میں انبار کی، افراتغیری، قتد و فساد اور قتل و غارت کے لاوے پھوٹ رہے ہیں۔ یہ وہ صورت تحال ہے جس کا نقشہ حدیث شریف میں ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے کہ "جب کوئی قوم ناچار فیصلے کرتی ہے تو ان میں خوزیری عام ہو جاتی ہے"۔

۵۔ حدیث شریف کا پانچواں فقرہ عمد ہٹکنی سے متعلق ہے کہ جب کوئی قوم اپنے کئے ہوئے معاشروں کا پاس نہیں کرتی۔ بلکہ عمد ہٹکنی کا ارتکاب کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اس سے غالباً وہ سرکاری معاشروں مراد ہیں جو غیر قوموں کے ساتھ کئے جاتے ہیں۔ عمد ہٹکنی بجائے خود ایک بدترین جرم ہے لیکن غیر قوموں کے ساتھ کئے گئے معاشروں میں عمد ہٹکنی کرنا اس جرم کو اور زیادہ ہٹکنی کر رہتا ہے اور بالآخر یہ عمد ہٹکنی مسلمانوں کی ذات و رسولی اور ان پر دشمن کے تسلط کا سبب بن جاتی ہے۔ نو ہزار لکھ من ذالک۔

خلاصہ یہ کہ آج ہم جن پر شانتوں میں بھلا ہیں وہ ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہیں اس صورت حل کونہ تو کافرنوں اور جلوں کے ذریعہ بدل جا سکتا ہے، نہ حکومت کی تبدیلی اس کا حل ہے، نہ انتخاب، نہ پارلیمنٹ، ان پر شانتوں کے ازالہ کی بس ایک صورت ہے کہ ہم اپنی بد عملیوں سے توبہ کریں اور اصلاح احوال کے لئے اصلاح اعمال کا راستہ اختیار کریں۔ حق تعالیٰ شانہ ہمارے حال پر رحم فرمائیں۔ ہماری

کوتاہیوں اور لغوشوں کو معاف فرمائیں اور اعمال صالحہ اقتدار کرنے کی صورت میں جس "حیات طیبہ" کا وعدہ فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائیں۔ آمين۔

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا  
ومولانا محمد النبي الامي نبي الرحمة  
وعلى آله واصحابه واتباعه اجمعين۔

(یتات رحم الحرام ۱۴۰۸ھ)

## موجودہ حالات کے اسباب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى :

مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، جو پاکستان کے حالات سے بت ہی افرادہ دل گرفت تھے، انہوں نے فرمایا کہ جب پاکستان میں نمائی فتنہ انھر رہا تھا تو میں طواف کے بعد ملتزم پر حاضر ہوا اور بے ساختہ رو رو کرو ڈائیں کرنے لگا تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے آواز دے کر کہا ہو کہ تمہو! اس قوم نے نعمتِ الہی کی نادری کی ہے اُسے تھوڑی سی سزادے رہے ہیں۔

اس ناکارہ کو اس بزرگ کی یہ بات سن کر وہ حدیث یاد آئی جسے میں اپنے رسالہ "عصر حاضر حدیث نبوی کے آئینے میں" لام عبد اللہ بن مبارک کی کتاب الرقائق کے حوالے سے نقل کرچکا ہوں، حدیث شریف کامتن حسب ذیل ہے:

"عن انس بن مالک رضي الله عنه اراده مرفوعاً، قال

يا نبي على الناس زمان يدعوا المؤمن للجماعه

فلا يستحباب يقول الله ادعني لنفسك ولما يحررك

من خاصة امرك فاجبيك واما الجماعة فلا، انهم

اغضبني سوفي رواية فانى عليهم غضبان"۔

(کتاب الرقائق ص ۵۵ م ۳۸۳)

ترجمہ: "حضرت انس رضی اللہ عنہ" مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ مومن، مسلمانوں کی جماعت کے لیے دعا کرے گا، مگر اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تم اپنی ذات کے لیے اور اپنی پیش آمدہ ضروریات کے لئے دعا کرو تو میں تیری دعا قبول کروں گا، لیکن عام لوگوں کے حق میں نہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے مجھے ناراض کر رکھا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں ان پر غلبتاً ہوں۔

پاکستان کے حالات ایک عرصہ سے — بلکہ اگر یہ کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہ ہو گا کہ پاکستان کے یوم تاسیس ہی سے، — نافٹہ بہ چل رہے ہیں لیکن شہید جzel ضیاء الحق کے بعد مکمل حالات میں جو شدت پیدا ہوئی — اور جس میں روزافروں اضافہ ہو رہا ہے — اس کی مثال پلے کے کسی دور میں نہیں طہی۔ ملک میں سیاسی انتشار ہوں یا مذہبی افتراء، غنڈوں اور ڈاکوؤں کی جیزہ و سیاہیاں ہوں یا منافقین و مرتدین کا تسلط، قتل و خون ریزی کے مسلسل واقعات ہوں یا یونیورسٹیوں میں تحریک کاری کے مظاہر۔ طوفانی پارشوں، مسیلابوں سے آیاں ہوں اور فضلوں کی تباہ کاریاں ہوں یا اشیاء صرف کی قلت و گرانی یہ سب غضب الہی کی شکلیں ہیں۔

ع — شامت اعمال ما صورت نادر گرفت

وطن عزیز کے مجموعی حالات پر نظر کرنے سے جو سب سے پہلا تاثر ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس قوم سے ناراض ہیں، اور یہ قوم قرآنی کی بچھی میں بس رہی ہے، یعنی وجہ ہے کہ ہزاروں مقبولانِ اللہی اس قوم کے لئے دست بدعا ہیں اور وہ اپنے ملکہ نہیں کے ذریعہ بارگاہِ اللہی سے اس قوم کی صلاح و فلاح کی بھیک مانگ رہے ہیں لیکن قوم کا پیلانہ مجرم اس قدر لبرز ہے کہ ان کی دعائیں بھی موڑو کا رگر

نہیں ہوتیں۔

بعض گناہ تو ایسے ہیں جنہیں ہر شخص محلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور گناہ ہماری بھی ان کو گناہ ہی سمجھ کر کرتے ہیں۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کی طرف کسی کو التفات بھی نہیں ہوتا۔ اس نوعیت کے بے شمار گناہوں میں ہم بتلا ہو کر غضبِ اللہ کے سختی کے سختی ہو رہے ہیں۔ یہاں صرف دو گناہوں کو ذکر کرتا ہوں ان میں سے ایک امر المعلوم اور نبی عن المذكر کا ترک کرو بنا بے۔ ترمذی شریف میں ہے :

”عَنْ حَدِيفَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ : وَاللَّهِ تَفْسِي بِنِيهِ لَنَا مَرْفُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَنَهْوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَيْوُشْكَنَ اللَّهُ أَنْ يَعْثِثْ عَلَيْكُمْ  
عَذَابًا مِنْ عَنْدِهِ لَنْ تَدْعُنَهُ وَلَا يَسْتَحْابَ لَكُمْ“

(بخاری: ۳۳۹)

ترجمہ : ”حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تمہیں نیکی کا حکم کرنا ہو گا اور برائی سے روکنا ہو گا، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیجنے پر ہر تم اس سے دعائیں کرو اور تمہاری دعائیں بھی نہ سنی جائیں۔“

ایک اور حدیث میں ہے :

”إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَا وَمِنْكُرًا فَلَمْ يَعْرُوْهُ يُوشِكَ إِنْ يُعْمِلُمَ اللَّهَ بِعَقَابَهُ“

(بخاری: ۳۳۱)

ترجمہ : ”لوگ جب برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں اور اس کی اصلاح نہ

کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب عام نازل کر دیں۔“ اینے گروپیش کے حالات یہ نظر ڈال کر دیکھنے کہ کیا ہم افراہی و اجتماعی طور پر اس جرم میں بھلا نہیں؟۔ ہمارے ذاتی مخالفات کو اگر ذرا بھی بھیس لگتی ہے تو ہم سبلا احتیاج بن جاتے ہیں لیکن ہمارے سامنے احکام الیہ کو کھلے بندوں توڑا جاتا ہے۔ فواحش و بے حیائی کے پھیلانے کی ہر چار ٹسوں کو شمشیں ہو رہی ہیں۔ دین کے قطعی فرانقش و شعار کو مٹایا جا رہا ہے اور اہواؤ و بدعتات کو فروغ دیا جا رہا ہے لیکن اس صورت حال کی اصلاح کے لئے کوئی کوشش نہیں ہو رہی۔ اس کے نتیجے میں اگر ہم عذاب عام کی پیٹ میں آ رہے ہوں تو اس میں قصور کس کا ہے؟۔

دوسرانہ جس میں تائیں پاکستان سے لے کر آج تک ہم لوگ بھلا ہیں، وہ مقبولانِ بارگاہِ الہی کی توبین و تذیلیں ہے۔ تحریک پاکستان کے دوران حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ اور ان کے رفقا کی جس قدر توبین و تذیلیں رو اور کھلی گئی اس کے تصور سے بھی روئنگے کھڑے ہوتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد یہ سیاہ اختلاف ختم ہو چکا تھا، ہونا یہ چاہئے تھا کہ اس کے بعد ان اکابر کی توبین و تذیلیں کا سلسلہ بند کرو دیا جاتا اور تحریک پاکستان کے دوران جو کو تباہیاں ہو چکی تھیں ان کی تلفی کی جاتی، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوا بلکہ ان بزرگوں پر سب و شتم کا سلسلہ بدستور جاری رہا بلکہ اعلیٰ سطحوں پر ملکے خلاف زہرچکانی شروع کر دی گئی اور ملا اور ملائیت کے خلاف ایک مستقل تحریک کا آغاز کر دیا گیا۔ حالانکہ غریب ملکا قصور صرف یہ تھا کہ ملک و ملت کو اسلام کی شاہراہ پر ڈالنا چاہتا تھا جس ملک میں مقبولانِ الہی کی پوستین دری کیجا تی ہو اور جس میں دین اور اہل دین کی تفحیک و تذیلیں کو ترقی پسندی کی علامت سمجھا جاتا ہو، وہ غصبِ الہی کا نشانہ بننے سے نہیں بچ سکتا۔

حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ اس کو بڑی

شدت سے محوس فرماتے تھے اور بار بار اس کی طرف متوجہ فرماتے رہے۔ حضرت نے اپنی وقت سے چھ مینے پہلے اپریل ۷۷ء میں جو اواریہ تحریر فرملا تھا، اس کا ایک اقتباس یہاں نقل کرتا ہوں :

”اب کچھ ایسا محوس ہونے لگا ہے کہ شاید حق تعالیٰ اس قوم سے ناراض ہے اور اس کے غضب کے آثار نمایاں ہونے لگے ہیں اور شدید خطرہ ہو گیا کہ اس کا حشر بھی ان برپا شدہ ملکوں جیسا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔ انتخابات کی پنجمائی آرائی شروع ہوئی، خدا خدا کر کے وہ پنجمائی ختم ہوا لیکن اس پنجمائی آرائی نے ایک الی خطرناک پنجمائی آرائی کا چیز ڈال دیا کہ نہ معلوم اس کی عاقبت کیا ہو گی اور اس مبتدا کی خبر کیا ہو گی؟۔

انہاء اسلام پاکستان پر نظر جائے ہوئے ہیں وہ یہاں کئی پنچ سالی حکومت کے خواہشند ہیں اگر یا فرض کوئی صلح دینی قیادت ابھرتی نظر آتی ہے تو انسیں اس کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اور الکفر ملة واحدۃ ( تمام کفر ایک ملت ہے) کے مصدق آپس میں اختلافات کو ختم کر کے اس کے خلاف سب انہاء اسلام متفق ہو جاتے ہیں اور جو بھی غیر دینی قیادت ہو اس کو بلیک کہتے ہیں۔

بہرحال موجودہ صورت حال ایک طرف انتہائی دردناک ہے اور شدید خطرہ ہے کہ ملک میں بد امنی اور بے اطمینانی کا دورہ شروع ہو کر خون ریزی شروع نہ ہو جائے اور وہ دردناک دورہ شروع نہ ہو جائے جس کے تصور سے بھی روئنگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اصلاح انتہائی مایوس کن ہے۔ اس

لیے کہ گزشتہ تین سالہ تحریکات نے اصلاح کی صورت سے مایوس بنا دیا ہے موجودہ صورت کا علاج ہماری نگاہ میں حسب ذیل ہے :

(الف) : تمام امت اسلامیہ پاکستان کے باشندے یوم توبہ و انابت سنائیں، انفرادی و اجتماعی طور پر "یوم توبہ" مقرر کر کے صلاة الحاجۃ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیں مانگیں کہ :

"اے اللہ! ہم گناہ گار اور بد کار ہیں ہم اپنے گناہوں اور تقصیرات سے توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرماؤ اس غصب آلوہ زندگی سے نجات عطا فرماؤ کرحمت انگیز حیات طیبہ نصیب فرماؤ اور اس ملک و قوم پر رحم فرماؤ کرحم صلح قیادت ہمیں نصیب فرماؤ اور جو بزرگوں کو ہم نے گلیاں دی ہیں اور ان کی توجیہ کی ہے اور تیرے اولیاً صاحبین و اتفاقی امت کی توجیہ و تحقیر کی ہے ہمیں معاف فرماؤ اور آج بھی جن کی پاکیزہ روحیں کو ایذا دیتے ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرماؤ اے اللہ پورے تین سال پاکستان کے بیت گئے اس دوران ہم نے جو بادا عملیاں کی ہیں اور تیرے غصب کو دعوت دینے والی جو زندگی اختیار کی ہے ہمیں معاف فرماؤ اور صلاح و تقویٰ کی زندگی عطا فرماؤ اور ہمیں اپنی رحمت کاملہ کا مستحق بنائے۔"

الغرض ایک بات تو یہ ہے کہ اس طرح انفرادی و اجتماعی توبہ کر کے سلبیہ زندگی پر ندامت کے ساتھ آئندہ صلح زندگی کا عزم کیا جائے۔

(ب) امت اسلامیہ پاکستان کے خواص و عوام دعوت و اصلاح کی

طرف توجہ کریں اور امت کی اصلاح کی علمی و عملی تذکرہ اختیار کریں۔ اور آج کل تبلیغی جماعت کے طرز پر عموم کے ساتھ اس کی اصلاح کی تدبیروں میں لگ جائیں اور دینی فضایا کرنے کی محنت کریں اور ہر شخص اپنی صلاحیت و فرمت کے مطابق ہمت و توجہ کرے۔" (بیانات اپریل ۱۹۷۴ء)

اور اپنے آخری اواریہ میں حضرت "نے تحریر فرمایا :

"ہم نے "بیانات" کے صفحات پر بار بار ان حقائق کا واضح گفتار کیا ہے کہ خدا کے لیے اس ملک پر رحم کرو اور اللہ تعالیٰ کے غصب کو دعوت دینے والی زندگی سے توبہ کرو، موجودہ صورت حال اور دروناک حالات ہماری شامت اعمال کے منانچ ہیں جن کے ذریعہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ نہ جان محفوظ نہ آبرد محفوظ نہ مال محفوظ بجائے روزافروں ترقی کے روز افزوں قدر نذلت میں گرتے جا رہے ہیں بہر حال اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے واعظین اور خطبا و مقررین ان حقائق کو امت کے کانوں تک پہنچائیں اور ہمارے اخبارات و مجلات ریڈیو ٹیلی و ٹیشن وغیرہ زرائع نشر و اشاعت سے ان حقائق کو واضح کرائیں اور صحیح اسلامی معاشرت سے زندگی کے ثمرات و منانچ سے روشناس کرائیں اور اسلامی حکومتیں جن خطہاں غلطیوں سے دنیا کے سخنے سے مت گئی ہیں ان کی عبرت ناک داستانیں سنائیں اور بتائیں کہ مسلمانوں پر من جیٹھ القوم خدا فراہوش زندگی بھی راست نہیں آئی اور ظلم و کبر اور بربرت کے ساتھ کوئی حکمران بھی اس کے پرے عوائق

ت پئی نہیں سکتا اور حق تعالیٰ کی حکمت و مصلحت سے آخرت سے پہلے بھی ان مجرموں کو دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے۔ آخر پاکستان کے اندر ہی کیا کوئی مرقع عبرت نہیں؟ آخر سکندر مرازا مغلام محمد اور ایوب خان کا حشر کیا ہوا؟ اور ”قائدِ عوام“ کا حشراب دنیا دیکھ رہی ہے اور مزید دیکھ لے گی۔

ان دو گناہوں کے علاوہ نعمتِ اسلام کی جس قدر بے قدری و بے اعتنائی کی گئی اور نفاذِ اسلام کے سلسلہ میں جو مخالفت کردار ادا کیا گیا وہ، بجائے خود غضبِ الہی کو دعوت دینے کے متراوف ہے۔ الفرض جب تک ان گناہوں سے (اور ان کے علاوہ بقیہ تمام گناہوں سے) توبہ نہیں کی جاتی جب تک اثباتِ الی اللہ کا راستہ اختیار نہیں کیا جاتا اصلاحِ احوال کی کوئی توقع نہیں۔ مصلحین امت اور ز علمائے ملت کا فرض ہے کہ وہ فوری طور پر اس طرف متوجہ ہوں۔ حق تعالیٰ شانہ ہم پر رحم فرمائیں۔

اللهم انا نعود برضاك من عصبك و بمعافتك من عقوبتك و نعوبتك  
منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنت على نفسك اللهم  
انا نعوبتك من درك الشقاء سوء القضاء و شفاعة الاعداء و صلى الله  
نعالى على خير خلقه صفوۃ البرية وعلى آله واصحابه و انباعه  
اجمعين الى يوم الدين۔

(حرم المحرم ۱۴۳۶ھ)

## بدامنی کے اسباب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد  
سندھ کے حالات ایک عرصہ سے محدود چلے آتے ہیں، نامعلوم افراد کی  
طرف سے مسلح ڈیکٹ، انگو، قتل اور دہشت گردی کی امراض و قفسہ و قفسہ سے اٹھتی ہیں،  
اور کچھ عرصہ کے لئے امن و امان کو تاراج کر جاتی ہیں۔ حکومت کفبو اور فوجی گفتہ  
کے ذریعہ ان اہلوں سے خشتشی ہے، عوام چددن سکون کا سانس لیتے ہیں کہ ایک نئی امر  
اٹھتی ہے جو معمول کی زندگی کو معطل کر جاتی ہے۔ گزشتہ دنوں حیدر آباد اور کراچی  
میں دہشت گردی، شربوں کے قتل عام اور قند و فساد کی جو لر آئی اس نے صوبہ کو  
خانہ جنگی کی آگ میں جھوک روا ہے اور ارباب اقتدار بھی صوبہ سندھ کے حالات کو  
سابق مشرق پاکستان کے حالات سے نسبیہ دینے پر مجبور ہو گئے ہیں، اب پھر کفبو  
اور فوج کی مدد سے امن بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن شربوں کے جان  
و مال کے تحفظ کی ذمہ داری قبول کرنے سے ارباب اقتدار عاجز اور بے بس نظر آتے  
ہیں، انا لله وانا اليه راجعون۔

ان تألفتہ بہ حالات کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، لیکن ان کا اصل سبب  
ہماری شامتِ اعمال ہے۔ قرآن و سنت کے نصوص باطق ہیں کہ کسی قوم کی اعتقادی  
نافرمانیوں اور بدکاریوں کا پیمانہ جب لبرنز ہو جاتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے ان  
کی گوشٹلی کی جاتی ہے۔

ایک جگہ ارشاد ہے :

"وَصَرَبَ اللَّهُ مثلاً قريةَ كاتَ آمنةً مطمئنةً  
يَا نِيَها رِزْقَهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَهَنَّرَتْ بِأَعْمَالِ اللَّهِ  
فَإِذَا فَهَا اللَّهُ لِيَسَ الْحَوْعُ وَالْحُوفُ بِمَا  
كَانُوا يَصْنَعُونَ" (النُّجُومُ، ۱۲)

ترجمہ : "اور اللہ تعالیٰ ایک بستی والوں کی حالت عجیبہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ امن و اطمینان میں تھے۔ ان کے کھانے پینے کی چیزوں بڑی فراغت سے ہرچار طرف سے ان کے پاس پہنچا کرتی تھیں، سو انسوں نے خدا کی نعمتوں کی بے قدری کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان حرکات کے سبب ایک بحیط قحط اور خوف کا مزہ چکھایا۔"

(ترجمہ حضرت حماوی)

دوسری جگہ ارشاد ہے :

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسْتُ إِلَيْكُمْ  
وَيَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ۔ (الشُّورى، ۳۰)

ترجمہ : "اور تم کو (اے گنہ گارو) جو کچھ مصیبہ پہنچی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کئے ہوئے گاموں سے (پہنچتی ہے) اور بہت سے تو درگزری کرتا ہے۔"

(ترجمہ حضرت حماوی)

ایک اور جگہ ارشاد ہے :

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَهْلِكَ قريةً أَمْرَنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا  
فِيهَا فَحَقَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمِرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ (آل اسرائیل، ۹۷)

ترجمہ : "اور جب ہم کسی بستی کو بلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوش بیش لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ پھر (بب) وہ لوگ وہاں شرارت چاہتے ہیں تو ان پر محنت تمام ہو جاتی ہے پھر ہم اس بستی کو تباہ اور غارت کر دلاتے ہیں۔"

(ترجمہ حضرت حماوی)

نیز ارشاد ہے :

قُلْ هُوَ الْعَالَمُ عَلَىٰ إِنْ يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ  
فُوْقَكُمْ أَوْ مِنْ نَحْنٍ نَحْتُ أَرْحَلَكُمْ أَوْ بِلِسْكُمْ شَيْءًا وَيَدِينَ  
بِعَصْكُمْ بَا سَبْعَضٍ انْظُرْ كَيْفَ نَصْرَفُ الْآيَتِ لِعَلَّهُمْ  
يَفْقَهُونَ۔ (الاعراف، ۱۵)

ترجمہ : "آپ ہی کے اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھرا دے اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی پچھا دے آپ، دیکھئے تو سی! ہم کس طرح دلائل مختلف پسلوؤں سے بیان کرتے ہیں شاید وہ بکھ جاویں۔"

(ترجمہ حضرت حماوی)

نیز ایک اور جگہ ارشاد ہے :

وَلَوْ أَنْ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَأَنْفَقُوا لِفَتْحِنَا عَلَيْهِمْ  
بِرَّكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَبُوا فَاخْذَنَاهُمْ  
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ (الاعراف، ۹۹)

ترجمہ ہے اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے تو (میغبروں کی) حکنہب کی تو ہم نے (بھی) ان کے اعمال (بد) کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔

(ترجمہ حضرت قہادی)

یہ چند آیات شریفہ بطور نمونہ ذکر کی ہیں، ورنہ یہ مضمون قرآن کریم میں بہت کثرت کے ساتھ آیا ہے، اسی طرح آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مضمون کو بہت اہتمام کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ گناہوں کی کثرت عذاب عام کا سبب بن جاتی ہے :

عَنْ زَيْنَبِ بْنِتِ جُحَشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ  
قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَكَ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ  
نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ

(صحیح بخاری من ۱۰۷۹، صحیح مسلم من ۲۳۸۸)

ترجمہ ہے: ام المؤمنین حضرت زینب بنت خوش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ "آیا ہم ایسی حالت میں بھی ہلاک کر دیئے جائیں گے جب کہ ہم میں یہک لوگ موجود ہوں گے؟ فرمایا ہے! جب (گناہوں کی) گندگی زیادہ ہو جائے گی۔"

اس وقت ہمارے معاشرے میں گناہوں کی کثرت کا جو عالم ہے وہ کسی بیان و وضاحت کا محتاج نہیں، ایسا لگتا ہے کہ گویا پورا معاشرہ گناہوں کی زندگی میں ڈوبایا ہوا ہے۔ تم بلاعے تم یہ کہ اس حالت پر نہ کسی کو افسوس اور ندامت ہے، نہ گناہ کا ارکاب کرنے والوں کے دل میں کوئی جھجک و شرم ہلکی رعنی ہے۔ جن گناہوں میں

اس وقت ہم بتلا ہیں ان کی چند قسمیں ہیں۔  
پہلی قسم ان گناہوں کی ہے جن کو ہم واقعہ گناہ سمجھتے ہیں، ان سے نفرت بھی کرتے ہیں، ان سے بچتے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے محالے میں دو کو تاہیں عام و خاص میں سراءت کر چکی ہیں، ایک یہ کہ اگر ایسا گناہ ہم سے سرزد ہو جائے تو توبہ و استغفار کا جیسا اہتمام ہوتا چاہے وہ ہم نہیں کرتے، ظاہر ہے کہ جب بندے عام گناہوں میں ایسے بتلا ہو جائیں کہ ان کی گندگی سے زمین بھر جائے اور بندوں کی توبہ و استغفار آسمان پر نہ بچتے تو غضب اللہ جوش میں آتا ہے، دوسری کوئی اس سلسلہ میں یہ ہو رہی ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ خود تو گناہوں سے بچتے کا اہتمام کرتے ہیں مگر جو لوگ گناہوں میں بتلا ہیں ان کو گناہوں سے نکلنے اور بچانے کی کسی کو بھی فکر نہیں، یہ ایک ایسی غلطی ہے جو عام فہلوں میں رجسٹر گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ معاصی روز بروز بڑھ رہے ہیں، لیکن ان سے روک تھام کرنے کا اہتمام نہیں، جو گناہ پلے چھپ کر کئے جاتے تھے وہ اب کھلے بندوں کے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ اگر کہیں اگلی ہو اور اس کو بھانے والا کوئی نہ ہو تو وہ اگل پھیلتے جائے گی، بلا خرپوری بستی کو راکھ کے ذہیر میں تبدیل کر دے گی۔ کچھ یہی حل اس وقت ہمارے معاشرے کا ہو رہا ہے۔ گناہوں کی اگل سے ایمان کی بستیاں مل جی ہیں۔ لیکن علمائے کرام، مثل نوح عقام، دیندار اور پاکباز حضرات کی طرف سے اس اگل کے بھانے کا کوئی اہتمام نہیں، اور یہ صور تحلیل آسمان سے نزول عذاب کا سبب بن رہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے :

عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُثْلُ الْمَذَاهِنِ فِي حَدَّوْدِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مُثْلُ قَوْمٍ أَسْتَهْمُوْا سَفَيْتَهُ فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي اسْفَلِهَا

اس سوراخ کرنے والے کا ہاتھ پکڑ لیں (اور اسے سوراخ کرنے سے باز رکھیں) تو اس کو بھی بچالیں گے، اور خود بھی بچ جائیں گے؛ اور اگر اس کو اس کے خال پر چھوڑ دوا (کہ سوراخ کرتا ہے تو کرنا پھرے) تو اس کو بھی ڈبو دیں گے اور خود بھی ڈوب جائیں گے۔

اس حدیث میں سمجھایا گیا ہے کہ پورا معاشرہ ایک ہی کشتی میں سوار ہے۔ جب یہ کشتی معا�ی کے سوراخوں کی وجہ سے ڈوبے گی تو صرف گنگار غرق نہیں ہوں گے بلکہ یہ کشتی نیک وید کو لے کر ڈوبے گی۔

ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک خطبہ مقول ہے:

عن قبیل بن ابی حازم رضی اللہ عنہ قال تعالیٰ  
ابو بکر، بعد ان حمد اللہ و اثنی علیہما ایها الناس،  
انکم نقرؤون هذه الایة و نضعونها على غير  
موقعها.

"یا ایها الین آمنوا علیکم انفسکم لا يضرکم  
من ضل اذا اهندیتم" (المائدۃ: ۱۰۵) و انا سمعنا  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الناس اذا  
راوا الظالم فلم ياخذوا على بدیہ او شک ان يعمهم  
الله بعثاب، و اني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم يقول "ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون  
على ان يغتروا ولا يغترون الا يوشك ان يعمهم  
الله بعثاب"۔ (ابو داؤد من ۲۲۰ ج ۴ ترمذی من ۲۳۹، مکہۃ من ۳۳۶)

وصار بعضهم في اعلاها فكان الذي في اسفتها  
يمر بالماء على الذين في اعلاها فنا نوابه فاحذر  
فاسأ يجعل ينقر اسفل السفينة فاتوه فقالوا مالك  
قال نا نيم بي ولا بدلي من المدافن اخنواعلى بدیہ  
انجوه ونجوا انفسهم وان تركوه اهلکوه واهلکوا  
انفسهم

(رواہ ابو حیاری، مکہۃ من ۳۳۶)

ترجمہ: "حضرت نعیان بن بشیر رضی اللہ عنہ نہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدودِ اہلہ میں سستی اور نزی کرنے والوں اور حدودِ اہلہ کو توڑ کر (گناہوں کا ارتکاب) کرنے والوں کی مثل ایسی ہے کہ کچھ لوگ ایک کشتی میں بیٹھے، اور کشتی میں (نشستوں کے تین کے لئے) قرمه والا چانچوں ان میں سے کچھ لوگ کشتی کی پلاٹی منزل میں بیٹھے، اور کچھ بیچے کی منزل میں، جو لوگ بیچے کی منزل میں تھے وہ پانی لینے کے لئے اپر کی منزل میں جاتے تھے، جس کی وجہ سے اپر کی منزل والوں کو ایسا ہوتی تھی، پس بیچے کی منزل والے نے کھڑا لے کر کشتی کے تھلے حصہ میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ اپر کی منزل والے اس کے پاس آئے اور کہا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھی میرے اپر آئنے جانے سے آپ حضرات کو تکلیف ہوتی ہے اور مجھے بہرحال پانی کی ضرورت ہے۔ (اس لئے میں نے سوچا کہ کشتی کے بیچے سوراخ کر لون ہا کہ یہیں سے پانی لے لیا کروں) اب اگر یہ لوگ

ترجمہ: "قیس ابن الی حازم" کہتے ہیں کہ حضرت ابوکمر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کے بعد فرمایا: لوگوں تم یہ آئیت پڑھتے ہو، "اے ایمان والوں تم اپنے نعموں کو لازم پکڑو، تم کو نقصان نہیں دے گا وہ شخص جو گمراہ ہو جائے، جب کہ تم بدایت پر رہو۔" (المائدہ ۱۰۵) اور تم اس آئیت کا مفہوم غلط لیتے ہو (کہ ہم پر دوسروں کو گناہوں سے روکنا ضروری نہیں، میں اپنی فکر کرنی چاہئے) حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود ساہبے کہ لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے ویکھیں اور اس کا باہر نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب عام میں بھٹکار دیں۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے ساہبے کہ جس قوم میں گناہ کئے جائیں اور وہ روکنے پر قادر بھی ہوں اس کے باوجود نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب عام میں پکڑ لیں۔"

ابوداؤ و اور ترمذی میں حضرت عبد اللہ بن مسحود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے:

عن عبد اللہ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النعيم علىبني إسرائيل انه كان الرجل يلقى الرجل فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من العذاب وهو على حاله فلا يمنعه ذلك ان يكون أكيله وشربه وقيمه، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم بعضـ ثم قال: "لعن الذين كفروا من بين اسرائيل

علی لسان یاود و عیسیٰ بن مریم، ذکر بما عصوا و کانوا یعنیون۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوه، لئن ما کانوا یفعلون۔ نری کثیراً منہم یتناولون الین کفروا لبیس ما فاتحت لهم انفسہم" الى قوله: "فَاسْفَوْنَ" (المائدہ ۷۸-۸۰) ثم قال: "كلا والله، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَاوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَيْهِ بِالظَّالِمِ" وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرَا، اول تقدیر نہ علی الحق قصرًا۔ وَفِي رِوَايَةٍ<sup>۲</sup> وَلِيُضَرِّبِنَّ اللَّهَ بِعَذَابِ قُلُوبِ بَعْضِكُمْ بِعَصْنَمَا، ثُمَّ لِيُلْعَنِنَّكُمْ كَمَا لَعَنَّهُمْ"۔ (ہنہ روایۃ ابی یاود)۔

ورواية الترمذی قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: "لما وقعت بنو اسرائیل فی المعااصی، نهیتم علماء وهم فلم ینتہوا، فجأة سوهم فی محالسہم، وَاکلواہم وشا ریوہم، فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم علی لسان یاود و عیسیٰ بن مریم، ذکر بما عصوا، وکانو یعنیون، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان منکاراً، فقال: "لَا وَاللَّهِ نَفْسِي بِيَلِهِ حَتَّى نَاطِرُوْهُمْ عَلَى الْحَقِّ أَطْرَا"۔

ترجمہ: "حضرت عبد اللہ بن مسحود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا تینل یہ داخل ہوا کہ ایک شخص دوسرے شخص سے مٹا اور اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو اس گناہ سے منع کر کر اسکے یہ تیرے لئے حلال نہیں، پھر اگلے دن مٹا تو دیکھتا کہ وہ بدستور گناہ میں جلا ہے۔

اس کے باوجود اس کے ساتھ خورد و توش اور نشت و برخاست جاری رکھتا۔ پس جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں کو ایک جیسا کردا، پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ حلاوت فرمائی: "لعن الذين كفروا من بنى اسرائیل سے فاسقون تک (الائدہ ۸۷-۸۸) پھر فرمایا، ہرگز نہیں" اللہ کی حرم! حسیں تک کا حکم کرنا ہو گا۔ برائی سے روکنا ہو گا، خالم کا باتھ کپڑنا ہو گا اور اسے قبول حق پر مجبور کرنا ہو گا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی ایک دوسرے کے مثابہ کر دیں گے، اور پھر تم پر بھی اسی طرح لعنت کریں گے جس طرح بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی تھی۔"

اور ترنی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "جب بوسراۓل گناہوں میں جلا ہوئے تو ان کے علمائے ان کو روکا چکیں وہ باز نہ آئے" تب بھی ان کے علمائے ان مجرموں کے ساتھ کھانا پینا اور اٹھنا پڑھنا جاری رکھا، پس اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں کو ایک دوسرے کے مثابہ کر دیا اور حضرت واوہ اور حضرت عیسیٰ میںما السلام کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی، کیونکہ

وہ (بنی اسرائیل) تازیان تھے اور حد سے نکل نکل جاتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی اس وقت تک لگائے ہوئے تھے۔ پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اور فرمایا! نہیں تم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے (تم محدود قرار نہیں دیئے جا سکتے، اور عذاب اللہ سے نہیں بچ سکتے) یہاں تک کہ تم ان (گنہ گاروں) کو حق پر مجبور کر دے۔

عن حذیفة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال والذی نفیت بیته لتأمن بالمعروف ولنہمون عن المنکر او لیوشکن الله ان یعث عليکم عذاباً منه فتدعوه فلا يستجيب لكم

(ترنی م ۳۹ ج ۲)

ترجمہ: "حضرت حذیفة رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تمہیں تکلیک کا حکم کرنا ہو گا اور برائی سے روکنا ہو گا، ورنہ کچھ بجید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی عذاب نازل فرمائیں، پھر تم اسی عذاب کے ملنے کی دعا کیں بھی کرو گے تو قبول نہ ہوں گی۔"

ابو اووہ اور ابن ماجہ میں حضرت جریر بن عبد اللہ الجل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے:

عن حریر بن عبد اللہ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: "ما من رجل

يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمُعَاصِيٍّ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَنْ  
يَغْيِرُوا عَلَيْهِ وَلَا يَغْيِرُونَ إِلَّا اصْبَاهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ  
قَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا”

(ابوداؤد ح ۲۳۰ ج ۲، ابن ماجہ ح ۲۸۹، مکہہ ح ۲۲)

ترجمہ: ”حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں  
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خوشنام ہے کہ  
جو شخص بھی کسی ایسی قوم میں ہو جن کے اندر گناہ کے جاتے ہوں  
اور ان کے روکنے پر قادر ہو اس کے باوجود نہ روکے تو اللہ تعالیٰ ان  
سب کو ان کی موت سے پہلے عذاب عام میں جلا کر کے چھوڑ دیں  
گے۔“

ان احادیث شرفہ سے واضح ہے کہ عذاب الہی سے بچنے کے لئے خود نیک  
ہونا کافی نہیں بلکہ بشرط قدرت گز گاروں کو گناہوں سے باز رکھنا، ظالموں کا ہاتھ روکنا  
اور انہیں قبول حق پر مجبور کرنا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ گناہگاروں کا بغیر روک توک  
کے گناہ کرنا پورے معاشرے کا اجتماعی جرم ہے، جس پر اجتماعی عذاب دویل نازل ہوتا  
ہے حق تعالیٰ شانہ، ہمیں معاف فرمائے آج کم و بیش ہم بھی اجتماعی جرم کے مرٹکب  
ہیں۔

گناہ کی دوسری قسم ان گناہوں کی ہے جن کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا نہ ان پر کسی کو  
ندامت ہے اور نہ ان سے توبہ و استغفار کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ جب آدمی  
گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو اس پر ندامت اور توبہ و استغفار کا کیا سوال؟۔

لپنے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھئے ہے شمار کبیرہ گناہ ایسے نظر آئیں گے جن کو

گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ بلکہ نفس کی حیله تراشیوں سے ان کو حلال کر لیا جاتا ہے، کیا  
کسی کے ذہن میں ہے کہ ڈاڑھی منڈانا اور کٹانا بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ جس پر  
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید نفرت کا اظہار فرمایا ہے۔ کیا کسی کے ذہن میں  
ہے کہ عورتوں کا مردوں کی مشاہد کرنا اور مردوں کا عورتوں کی مشاہد کرنا حرام اور  
گناہ کبیرہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے؟ کیا آج  
رشوت کو ”ججوری“ کا نام دے کر حلال نہیں کر لیا گیا، اور کیا سود کو ”منافع“ کے نام  
سے جائز قرار نہیں دے لیا گیا؟ کیا قمار اور جوئے کو انجامی ایکسوں کے ذریعے سے  
مباح نہیں کر لیا گیا؟

یہ اور اس قسم کے سینکڑوں کبیرہ گناہ، جو معاشرے میں پھیل چکے ہیں کیا کسی  
کے ذہن میں ان کی قباحت یا تحریک ہے؟ اور کیا ان کبیرہ گناہوں کے مرٹکب اپنے  
آپ کو مجرم اور گناہگار سمجھتے ہیں؟ نہیں! بلکہ وہ ان تمام کہاڑ کا ارتکاب کرنے کے باوجود  
معاشرے میں معزز سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے گوشہ خیال میں بھی کبھی یہ بات نہیں  
آتی کہ ہم کسی جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت انس  
رضی اللہ عنہ کا ارشاد حروی ہے:

إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدْقَ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنْ  
الشَّعْرِ كَمَا نَعْدَهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوْقَاتِ يَعْنِي الْمُهْلَكَاتِ

(مکہہ ح ۳۵۸)

ترجمہ: ”تم لوگ بہت سے اعمال ایسے کرتے ہو جو تمہاری نظر میں  
بال سے زیادہ باریک ہیں (یعنی ان کو معمول سمجھتے ہو)۔ لیکن ہم  
لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو بہاک

کرنے والے گنہ بحثت تھے۔  
تیسرا قسم ان گنہوں کی ہے جن کو لوگ کوئی عیب اور برائی ہی نہیں بحثت اور یہ خدا اور رسول سے صریح بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اچھائی اور نیکی فرمایا ہواں کو برائی سمجھنا اور جس چیز کو برائی اور گنہ فرمایا ہواں کو اچھائی اور نیکی سمجھنا گویا خدا اور رسول کے خلاف اعلان بغاوت ہے۔ اس قسم کے گنہوں کی بھی ہمارے معاشرہ میں بڑی کثرت ہے۔ بہت سی برائیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں لیکن لوگ منف فطرت کی وجہ سے ان کو اچھائی سمجھ کر ان پر غیر کر رہے ہیں۔ اور بہت سی اچھائیاں مست رہی ہیں اور لوگ ان کے کرنے والوں کو لاائق نفرت سمجھتے ہیں، کل ہی میرے ایک دوست مبارکہ تھے کہ شلوار کے پانچھے ٹخنوں سے اپر دیکھ کر نوجوان ان پر آوازے کس رہے تھے۔ «کیوں میں! کچھ میں چل رہے ہو، کہ پانچھے اپر اخخار کھے ہیں؟»۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :

ازْرَةُ الْعَوْمَنِ إِلَى الْأَنْصَافِ سَاقِهِ لَا حِجَاجَ عَلَيْهِ  
فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، وَمَا اسْتَطَلَ مِنْ ذَالِكَ فَهُنَّ  
النَّارُ۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ "ثُلَاثًا"۔ (رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ، مک浩ہ ص ۳۷۳)

ترجمہ: «وَمَنْ كَانَ مِنْ أَنْجَلِي (شلوار پا جامہ) آدمی پنڈلی تک ہونا چاہئے،  
اگر آدمی پنڈلی اور ٹخنے کے درمیان رہے تو بھی اس پر کوئی گنہ  
نہیں۔ اور جو ٹخنوں سے نیچے ہو وہ دوزخ میں ہے۔ یہ بات آپ  
نے تین بار ارشاد فرمائی۔»۔

ماہظہ فرمائیے جس فعل پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی وعید

فرمائی ہے، آج ہمارا مسخر الفطرت معاشرہ اس گنہ کے چھوڑنے پر مذاق اڑاہا  
ہے۔

لام عبد اللہ بن البارکؓ کے کتاب الرقاۃ میں یہ روایت اپنی مند کے ساتھ  
ذکر فرمائی ہے :

”عن موسیٰ بن ابی عیینی المديني رحمه الله  
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكم اذا  
فسق قتيانكم وطغى نساءكم؟ قالوا: يا رسول الله وان  
ذا لك لکائن؟ قال: نعم واحد منه، كيف يكم اذا لم تامروا  
بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ قالوا: يا رسول الله وان  
ذا لك لکائن؟ قال: نعم واحد منه، كيف يكم اذا رأيتم  
المنكر معروفاً والمعروف منكرًا۔“ (کتاب الرقاۃ لابن مبارک ص ۳۸۶)

ترجمہ: ”موسیٰ بن ابی عیینی مدینی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ  
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اس وقت تم سار اکیا حال  
ہو گا جب تم سارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے، اور تم ساری  
لڑکیاں اور عورتیں تمام حدود پھلاٹ گ جائیں گی؟ صحابہؓ نے عرض  
کیا یا رسول اللہ؟ کیا ایسا بھی ہو گا؟ فرمایا : ہاں اور اس سے بھی  
بڑھ کر، اس وقت تم سار اکیا حال ہو گا جب نہ تم بھلانی کا حکم کرو  
گے نہ برائی سے منع کرو گے؟ صحابہؓ نے عرض کیا : یا رسول اللہ  
کیا ایسا بھی ہو گا؟ فرمایا ہاں، اور اس سے بھی بدتر، اس وقت تم  
پر کیا گزرے گی جب تم برائی کو بھلانی اور بھلانی کو برائی سمجھنے لگو  
گے۔“۔

اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو نیکی اور

اچھائی فرمایا، جب قوم ان کو برائی سمجھنے لگے اور جن چیزوں کو برائی فرمایا جب ان کو اچھا سمجھا جانے لگے تو انصاف کیجئے کیا ایسی قوم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے جیئے کا حق ہے؟

تیسرا قسم کے یہ گناہ جن کو گناہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ ان پر فخر کیا جاتا ہے۔ ان کی ایک مثال عورت کی سربراہی کا مسئلہ ہے، جو باجماع امت ناجائز و حرام ہے اور حدیث شریف میں اس کی سزا قوم کی ناکامی و نامرادی بیان فرمائی گئی ہے:

”لِن يَغْلِبْ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمْ أَمْرَأَةً۔“

(صحیح البخاری ص ۴۳۶ ج ۱)

ترجمہ: ”وہ قوم ہرگز کامیاب و کامران نہ ہو گی جس نے اقتدار عورت کے پروردگاریا۔“

اور فرمایا گیا ہے کہ ایسی حالت میں زین کا پیٹ تمارے لئے زین کی پشت سے بتر ہے:

”إِذَا كَانَ اَمْرَاءُكُمْ حَبَارَكُمْ وَاغْنِيَاءُكُمْ سَمْحَانَكُمْ وَامْوَالَكُمْ شُورَىٰ بَيْنَكُمْ فَظَهَرَ الْأَرْضُ خَيْرًا لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا۔ وَإِذَا كَانَ اَمْرَاءُكُمْ شَرَارَكُمْ وَاغْنِيَاءُكُمْ بَخْلًاكُمْ وَامْوَالَكُمْ إِلَى نِسَاءِكُمْ فَبَطَنُ الْأَرْضِ خَيْرًا لَكُمْ مِنْ ظَهِيرَهَا۔“

(ترمذی ص ۱۵۷ ج ۲، محدثہ شریف ۳۵۹)

ترجمہ: ”جب تمارے حکام تم میں سب سے بتر ہوں، تمارے ملدار تھی ہوں اور تمارے معاملات باہمی مشورے سے طے پائیں تو تمارے لئے زین کی پشت زین کے پیٹ سے بتر ہے، اور جب تمارے حکام برے لوگ ہوں، تمارے ملدار بخیل ہوں اور

تمارے معاملات حورتوں کے پرور ہوں تو تمارے لئے زین کا پیٹ اس کی پشت سے بتر ہے۔“

لیکن ہمارے یہاں بڑی جرأت سے ایک جوان عورت کو، جس کے باب پا چجرہ قوم کو پسلے ہو چکا تھا، وزیر اعظم نامزد کیا گیا۔

میر بھی کیا سادہ ہیں بیمار پڑے جس کے سبب اسی عطادر کے بیٹے سے دوایتے ہیں

چاروائیں عالم میں اس پر فخر و مبلحت کے شلویانے بجائے گئے، اس کو حورتوں کے حقوق کی فتح سے تحریر کیا گیا، حدیث پیش کی گئی تو اس کا ناق اڑایا گیا۔ اسے دین اور اکابر امت کا حلول دیا گیا تو اسے ملائیت کیا گیا۔ ابھی ذیزہ سال نہیں گزارا کہ ارشاد نبوی کے مطابق اس قوم کی ناکامی و نامرادی اور عدم فلاح کے مناظر سامنے آنے لگے، یہ فاتح ہے تو خاتمه کیسا ہو گا؟ یہ آغاز ہے تو انجام کیا ہو گا؟ خدا خیر کرے۔ ولعذاب الآخرة اسد وابقی۔ ”اور بلاشبہ آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور پائیدار ہے۔“

گناہوں کی اس تفصیل سے مقصود یہ عرض کرتا ہے کہ ہم پر مصائب و بلایات کے نزول کا اصل سبب یہ ہے کہ ہماری اجتماعی حالت اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی طرف مائل ہے۔ معاشرے میں جو کبیرہ گناہ پھیلے ہوئے ہیں ان میں ۹۹ فیصد ایسے ہیں جن کو یا تو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا یا اگر ان کو گناہ سمجھتے بھی ہیں تو ان کو بڑی معمولی اور بڑی ہلکی چیز تصور کرتے ہیں، اس صورت حال کی اصلاح اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ اس جمل کا علاج کیا جائے، اور گناہوں کو واقعہ گناہ سمجھ کر ان پر ندامت کے ساتھ استغفار کیا جائے۔ نیز یہ کہ گناہوں میں مبتلا لوگوں کو گناہوں پر نہ تو گناہ اور گناہوں کے معاملہ میں داہم تر کرنا بھی لا افق استغفار جرم ہے۔ نیز یہ کہ جب تک

توبہ و استغفار کے ذریعے حق تعالیٰ شاند سے بچے دل سے معاف نہ مانگی جائے تب تک درج بلا کی دعائیں بھی سود مدد نہیں۔ امام عبداللہ بن مبارک نے کتاب الرقائق میں درج ذیل حدیث نقش کی ہے جو ہم سب کے لئے لائق توجہ ہے :

”عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اراہ مرفوعاً قال یاتی علی النّاس زمان یادِ المومن للجماعۃ فلا یستحاب له یقول اللہ ادْعُنی لفسک ولما یحر بک من خاصّة امرک فاجیبک واما الجماعة فلا‘ انهم اغضبو نی وفی روایۃ فانی علیہم غضبان۔“

(کتاب الرائقین ص ۱۵۵، ۳۸۳)

ترجمہ : ”حضرت انس رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ مومن، مسلمانوں کی جماعت کے لئے دعا کرے گا مگر قبول نہیں کی جائے گی؛ اللہ تعالیٰ فرمایا گے تو اپنی ذات کے لئے اور اپنی پیش آمدہ ضروریات کے لئے دعا کرے گا میں قبول کرتا ہوں، لیکن عام لوگوں کے حق میں قبول نہیں کروں گا“ اس لئے کہ انہوں نے مجھے ناراض کر لیا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ میں ان سے ناراض ہوں۔“

ربنا اغفرلنا ولا حواننا الذين سيقونا بالايمان ولا تحعل في قلوبنا علا للذين آمنوا ربنا اذك رؤوف رحيم اللهم اغفرلنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الا حياء منهم والاموات

انک سمعیع قریب مجیب الدّعوّات' اللهم الف بين  
قلوب المؤمنین۔ اصلاحهم واصلاح ذات بینہم  
واوزعہم ان یشكروا نعمتك التي انعمت عليهم وان  
یوفوا بعهدک الذي عاهدتم علیہ اللہ الحق آمنین۔  
اللهم اغفرلنا ما فقدمنا وما اخرتنا وما اسررنا وما  
اعلنا وما انت اعلم به منا۔

بحرمة سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا محمد  
صلی اللہ علیہ وعلی آله واصحابہ اجمعین۔

(بیانات ذی تعددہ ۱۴۰۰ھ)

## انگریز کی معنوی اولاد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى - اما بعد -

اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ انگریزی زبان، جس کے ہمارے خط کی سائنسی و فنی ترقی کا ذریعہ بنی ہے وہاں اس زبان نے ہمارے عام مشرق اندیشہ فکر و نظر کو بھی صرف طور پر متاثر کیا ہے اور مغربی معاشرت سے متاثر ہونے والے طبقے کو جب "انگریز کی اولاد معنوی" قرار دیا جاتا ہے تو اس میں مبالغہ آرائی کا شایبہ تک موجود نہیں ہوتا۔ انگریزی زبان کی افادیت اپنی جگہ لیکن مغربی فکر سے مرعوبیت بالکل مختلف بات ہے جو بلاشبہ قابلِ ذمۃ ہے۔ ہمارے ہاں اس کا ایک بڑا ثبوت وہ انگریزی اخبارات بھی ہیں جو "انگلش پریس" کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور غالباً اسی بنا پر مشرق اور بعض وینی روایات سے انحراف یا ان کی مخالفت کو اپنا مشن سمجھ بیٹھتے ہیں۔ خواتین کی جداگانہ یونیورسٹی کی تجویز لڑکیوں کے خصوصی کالجوں کے قیام کی مخالفت "انگلش پریس" کا طرہ احتیاز رہا ہے حالانکہ یہ سوادِ عظیم کا مطالبہ ہے۔ اب میر کراچی جتاب افغانی نے کہیں کراچی میں لڑکیوں کے لئے میڈیکل کالج کے قیام کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ اس پر "انگریزی روایات" کے عین مطابق مخالفت کی عدم شروع کرنے میں ایک دن کی مسلط و نامناسب نہیں سمجھا گیا اس لئے کہ مخلوط تعلیم جاری رکھنا اور اسے فروع دینا "انگریز کی اولاد معنوی" کا بیادی فریضہ ہو ہوا۔ حالانکہ پاکستانیوں کی بھارتی اکثریت مخلوط نظام تعلیم کے حق میں نہیں۔ مگر مغرب پرست یعنی

سیکور عنصر اس مسئلہ پر مفہومت کیسے کر سکتے ہیں؟" -

یہ روزنامہ نوائے وقت کراچی (۸ شعبان ۱۴۰۳ھ ۳۳ مئی ۱۹۸۳ء) کے ایک اوارتی شذرہ کا اقتباس ہے، انگریز کی معنوی اولاد کا اسلام اور اسلامی قدوں کی مخالفت کرنا اس طرز تعلیم کا فطری اور منطقی نتیجہ ہے۔ جسے لارڈ میکالے نے اس نظریہ کو برائے کار لانے کے لئے راجح کیا تھا کہ :

"ہمیں ایک ایسی جماعت ہی انہیں چاہئے جو ہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان ترجیحی کے فرائض انجام دے۔ اور یہ ایسی جماعت ہونی چاہئے جو خون اور رنگ کے اعتبار سے ہندوستانی ہو۔ مگر مذاق اور رائے اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو۔"

چنانچہ انگریز کی یہ معنوی اولاد محض رنگ و نسل کی وجہ سے مسلمان اور پاکستانی کھلاتی ہے۔ ورنہ اپنے ذوق و ادراک، اپنے فہم و شعور اور اپنی عقل و دانش کے اعتبار سے اپنے فرگی آبائی ترجمان ہے، اگر وہ اسلامی تعلیمات کے علی الرغم مخواہ تعلیم کی حمایت کرتی ہے تو یہ ان کی ذہنی افلاط کا عین تقاضا ہے۔ اور ہمارے نزدیک خواتین کو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے چکر لگوانا بھی (خواہ ان کی تعلیم کا ہیں الگ ہی کیوں نہ ہوں) انگریز کا متروکہ ورشہ ہے۔ جب شریعت نے خواتین کا میدان عمل ہی الگ رکھا ہے۔ اور انہیں معاذی بوجھ سے فارغ کر کے اولاد کی تعلیم و تربیت اور انسان سازی کا شعبہ ان کے پردازی کیا ہے تو ان کو سائنس، جغرافیہ اور دیگر مروجہ فنون کی تعلیم دینا اسلام کے مزاج سے کیا مناسب رکھتا ہے؟ لڑکیوں کو انگریزی پڑھانے کا فیشن بھی انگریز کی سنت ہے، اور جو لوگ سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر اس سنت فرنگ کو سینے سے چھٹائے ہوئے ہیں وہ بھی فی الجملہ انگریز کی اولاد معنوی کے زمرہ میں شامل ہیں۔

اسی کے ساتھ خواتین کے ورکنگ گروپ کی مندرجہ ذیل سفارش بھی ملاحظہ

فرما لیجھے

”مک میں آئندہ پنجالہ منصوبے کے لئے خواتین کے ترقیاتی پروگراموں کے ورکنگ گروپ نے سفارش کی ہے کہ پاکستان میں گھرلو خواتین پر پردے کی پابندی ختم کر دی جائے۔ اسکے انہیں تعلیم و تربیت اور فنی مہارت فراہم کر کے ملک کی مختلف ترقیاتی اسیمیوں اور منصوبوں کے لئے سود مند بنایا جاسکے۔ ورکنگ گروپ کی بیانیات ۱۹۸۱ء کی مردم شماری کے تحت پیش کی گئی ہیں جس میں گھرلو خواتین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کسی پیداواری عمل میں معروف نہیں ہیں۔“ (بچ کرایج ۱۶ جنی ۱۹۸۳ء)

یہ خبر کسی لاوین کیونست یا مغربی ملک کی نہیں، بلکہ چشم بد دور ”اسلامیہ جمورویہ پاکستان“ کی ہے اور یہ سفارش کسی فرد کی دماغی خرابی کی پیداوار نہیں۔ بلکہ ”آئندہ پنج سالہ منصوبے کے لئے خواتین کے ترقیاتی پروگراموں کے ورکنگ گروپ“ کی ہے جو شیم سرکاری ادارہ ہے۔ اور حکومت کے زیر سایہ کام کر رہا ہے۔ اور یہ سفارش نہ یحیی خان کے دور کی ہے۔ نہ بھٹو صاحب کے دور کی، بلکہ آج کے مارٹالی وور کی ہے۔ جس میں اسلام اسلام کی رٹ لگاتے لگاتے زبانیں خلک ہو رہی ہیں۔

ع چوں کفراز کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمان؟

کراچی، اسلام آباد اور لاہور کی عربانی (جس کی دیا تریجاؤ و سرے ہڑے چھوٹے شہروں میں پھیل رہی ہے) یورپ کی بے خدا تنزیب کو بھی شراری ہے۔ گلی کوچوں میں حسن آوارہ کے نظارے، آرائش و نمائش کے مظاہرے اور جنون شباب کے

نمایش و کھانے جا رہے ہیں، بڑی بوڑھیوں سے لے کر عروسان نو خاستہ تک سر برہنہ، ”ریبال کشاہ، علباس عربانی میں مل رہی ہیں۔ مددوں کے ہدوش چل رہی ہیں۔ اسکو لوں کا جلوں یونیورسٹیوں میں اپنے ہبھیوں کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ دفتروں، کارخانوں اور بازاروں میں مددوں کے ساتھ بغیر کسی شرم و حیا کے کام کر رہی ہیں۔ لیکن شیطان کو اس عربانی و فحاشی پر بھی قباعت نہیں، وہ خواتین کے ورکنگ گروپ سے سرکاری سرپرستی میں سفارش کرا رہا ہے کہ ”گھرلو خواتین پر سے پردہ کی پابندی ختم کر دینی چاہئے“۔ پاکستان میں خواتین کی عربانی و دیکھ کر ہم تو آج تک یہی سمجھتے تھے کہ اس ملک میں خواتین پر پردہ کی کوئی پابندی نہیں، اور نہ ملک میں ایسا کوئی قانون ہے کہ مسلمان کمالانے والی خواتین کو پردہ لازم ہے، اور نہ وہ مستوجب سزا ہوں گی۔ اور نہ کوئی ایسا قانون ہے کہ عورتیں گھروں سے باہر نکلیں تو ان پر اس قسم کے باپر دہ لباس کی پابندی لازم ہو گی۔— الغرض اس ملک کی بد نصیب خواتین پر پردہ کی پسلے ہی سے کوئی پابندی نہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون ہی پابندی ہے جس کے ختم کرنے کی سفارش ورکنگ گروپ نے کی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اخبارات میں اس سفارش کا ترجمہ انگریزی سے اردو میں صحیح نہیں کیا گیا۔ غالباً خواتین کے سرکاری گروپ نے سفارش کی ہو گی کہ ملک میں پردہ پر پابندی عائد کر دی جائے یعنی جس طرح مصطفیٰ کمال اتاترک نے قانون پر دہ منوع قرار دے دیا تھا۔ اور اس دور میں کوئی ترکی خلوتوں باپر دہ باہر نہیں نکل سکتی تھی۔

چکھے اسی قسم کے قانون کے غاذ کی خواتین کے اس ورکنگ گروپ نے بھی سفارش کی ہو گی۔— اور ملک میں جس قسم کا نظام اسلام نافذ کیا جا رہا ہے، اس کے پس مظہر میں اس قسم کی سفارش کوئی مستعد چیز نہیں۔— معلوم ایسا ہوتا ہے کہ موجودہ اسلامی نظام کی علمبردار حکومت ہی کے اشارہ چشم و ابرو سے اس شیم سرکاری

ادارے نے یہ سفارش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سربراہ مملکت سے لے کر کسی پھوٹے ذمہ دار افریقی کسی نے بھی تو اس شیطانی سفارش پر کسی قسم کی کبیدگی و ہاگواری کا اظہار نہیں فرمایا۔ گویا اس سفارش پر ارکان مملکت کا "اجماع سکوتی" ہے۔

مکرات کو دیکھ کر ان پر نکیر کرنا اللہ علم کا فرض ہے؛ اگر نکیرنہ کی جائے تو شدید اندریہ ہے کہ جو لوگ مکرات میں بجلائیں ان کے ساتھ وہ سرے لوگ بھی خدا کے عذاب کی پیٹ میں آجائیں۔ اس لئے خواتین کے درکنگ گروپ کے اس غلط بیان پر کراچی کے علماء حسب ذیل بیان جاری کیا:

"گھریلو خواتین کو پردوے کی پابندی سے آزاد کرنے کی درکنگ گروپ کی سفارش پر کراچی کے جید علاموں انا مفتی ولی حسن نویگی، مولانا مفتی احمد الرحمن، شیخ الحدیث مولانا سالم اللہ خان، مولانا محمد اسد حفاظی، مولانا محمد اسفندیار خان، مولانا محمد زکریا، مولانا محمد امجد تھانوی، نے ایک مشترک بیان میں اپنے رو عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہ آئندہ پانچ سالہ منحوبے کے لئے خواتین کے ترقیاتی پروگراموں کے درکنگ گروپ کی سفارش نص قرآنی سے ارتداد ہے اور قرآنی احکام کا ناق ادا کر قمر خداوندی کو دعوت دنائے ہے۔ علماء کے اقتدار اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ احکام قرآنی کا اکابر اقتدار اعلیٰ سے رکھی ہے اور وہی اصطلاح میں ارتداد ہے۔ علماء مزید کماکر درکنگ گروپ میں اسلام و شمن عناصر کو نکال باہر کیا جائے، اور ان کے خلاف شرعی عدالت میں مقدمہ چلا کر سزا دی جائے جنہوں نے عورتوں کو پردوے سے بے نیاز کرنے (عیالی) کی سفارش

کی ہے۔ علمائے کماکر آوارگی و عیالی کو سونے کا پھنڈہ بناؤ کر عورت کے گلے میں ڈالا جا رہا ہے۔ علمائے مزید کماکر ورکنگ گروپ میں شامل خواتین مغرب زدہ ہیں۔ جن کی آنکھیں نیجیارک پیرس اور لندن کی مصنوعی چک سے انہی ہو چکی ہیں اور ان کو اس ملک کی عظیم مسلمان شرفا خواتین کی اکثریت کی نمائندگی کا کوئی اختیار نہیں اگر خواتین کے لئے سفارشات کی صورت ہے تو ملک کی باحیا نیک پرہ وار خواتین خانہ میں سے جن کی اکثریت ایک ہزار میں تو سو ننانوے ہے کی سفارشات حاصل کی جائیں۔ علمائے کماکر یہ ملک اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا تھا کہ اس میں صرف قرآن کا قانون ہاذ ہو گا جس نے خواتین کو وہ مقام دیا ہے جس کا تصور کبھی حصیں کیا جا سکتا۔ علمائے صدر پاکستان جنل محمد ضیاء الحق سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بیک وقت اسلام ہاذ کریں اور توکر شاہی سے نہ ڈریں اور اسلام و شمن عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کر کے ان خفیہ ایجنٹوں کو بے ناقاب کیا جائے جو آئے دن پاکستان کی توکر شاہی کے ہاتھوں کھلونا ہیں کر قرآنی احکام کا ناق ادا رہے ہیں اور کبھی پرہ قانون شادت کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر کے اور کبھی پرہ جیسے مقدس فریضہ سے مسلمانوں کو تغزیر کر کے پاکستان کو الحاد و لاد فیضت کے ٹکنے میں جکڑنا چاہتے ہیں۔"

(روزنامہ جنت، گرینی ۲۲ مئی ۱۹۸۳ء)

خون گز رہی ہے، دکھایہ جارہا ہے کہ ان میں توبہ والیت اور دعا والجات کی کیفیت نہیں  
رجوع الی اللہ کی توفیق نہیں، بعض جگہ ائمہ مساجد نے قوت نازلہ شروع کر دی ہے، بہت  
سی مساجد میں ختم یا مسین شریف کا اهتمام کیا جا رہا ہے، اور بعض مساجد میں آیت کریمہ کا  
ورد شروع کیا گیا ہے، لیکن اہل کراچی کی عمومی فضائیں توجہ الی اللہ کے آثار نظر نہیں  
آتے۔ یہ قلوات قلبی اور سُنکِ دل کی کیفیت مسلمانوں کے قلب میں بڑی تشویش کا ہے۔  
فواحش و مکرات کا ارتکاب بے تکلف کیا جا رہا ہے۔ تاؤ نوش کی حفظیں جم رہی ہیں، شادی  
بیاہ کے ہال بچ رہے ہیں اور ان میں صن عربان کی نمائش، مروزن کا بے تکلف انتقال  
اور دیگر خلاف شرع امور کا ارتکاب بغیر کسی احسان گناہ کے کیا جا رہا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ  
قرآن کو کھینچنے والے اسباب کی فراوانی روز افزول ہے۔ اور رحمت خداوندی کو متوجہ  
کرنے والے اعمال کا فقدان نظر آتا ہے۔ ان حالات میں ہماری تقدیر بدلے تو کیسے بدے؟  
اس ناکارہ نے ایک رسالہ "عصر حاضر، حدیث نبوی" کے آئینے میں "کے نام سے  
مرتب کیا تھا۔ اس میں امام عبد اللہ بن مبارک کی کتاب "كتاب الزہد والرقائق" سے  
حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ :

"لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ مومن، عام لوگوں کے لئے  
دعا کرے گا تو قبول نہیں ہوگی، حق تعالیٰ شاند فرمائیں گے کہ تو اپنی ذات  
کے لئے اور اپنی ذاتی ضرورت کے لئے دعا کرے، میں سنوں گا۔ گمراہ عام  
لوگوں کے لئے نہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے تاریخ کر لیا ہے" (اور ایک  
روایت میں ہے کہ میں ان پر غصیت کا (ناراٹ) ہوں۔"

(عصر حاضر ص ۷۸، کتاب الزہد والرقائق ص ۵۵، ۸۸)

یہ ناکارہ ایک موقع پر اپنے شیخ و مربی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری  
ندس سرہ کی مجلس میں حاضر تھا، اس حدیث شریف کا وکر آیا، میرے حضرت بنوری نے  
اپنے مخصوص جلالی لمحہ میں فرمایا "یہ حدیث کہاں ہے؟" میں نے ابن مبارک کی کتاب کا  
۔۔۔ دیا تو حکم ہوا کہ کتاب لاو، اس ناکارہ نے کتاب پیش کر دی، "حضرت" اس حدیث کو پڑھ

## پاکستان کے حالات اور ہماری سنگدلی

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الدلين اصطفي - اما بعد  
کراچی کے حالات ایک عرصہ سے جس نجی پر چل رہے ہیں وہ محتاج بیان نہیں۔  
"عیان راچہ بیان" یہ ظاہر خانہ جنگی کی صورت ہے یا یوں کہتے کہ یہاں ڈاکوں، لیسوں،  
قاتلوں اور دہشت گروں کا راج ہے، نتے عوام ان کے باتحہ میں یہ غمالِ محض ان کے  
رحم و کرم پر ہی رہے ہیں، امن و امان حکومت کے قبضے سے باہر ہے، حکومتی ادارے عوام  
کی جان و مال کے تحفظ سے قاصر بلکہ مہلاً مخلوق ہو کر رہ گئے ہیں، پولیس کے اہل کاریا تو  
دہشت گروں کی سرستی کر رہے ہیں، یا جدید اسلحے سے مسلح ہونے کے باوجود ان سے کسی  
کترانے میں عافیت محسوس کرتے ہیں، گویا شیخ سعدی کے بقول :

"چہ حرام زادہ مردیاں اند ک سکنارا بستہ و سکنارا کشاورہ"۔

جمال دس، بارہ، چند رہ بندے روزانہ قتل ہو رہے ہوں، ۱۵، ۲۰ کا ڈیاں روزانہ چھین  
ل جاتی ہوں، چوری و ڈیپتی کی وارداتیں بے تحاشا ہو رہی ہوں اور کسی شخص کو یہ اختکارہ ہو  
کہ وہ گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر پہنچ بھی سکے گا یا نہیں؟ وہاں کی فضا پر خوف و ہراس، غم  
و اندھہ اور زہنی جمود و تعطیل کے سیاہ پاول کس حد تک چھائے ہوئے ہوں گے اس کا اندازہ  
کیا جاسکتا ہے۔ الامان والحقیقت۔ اس کے باوجود ہمارے حکمران ہرے اٹھیناں سے بزم خود  
داد حکمرانی دے رہے ہیں اور کبھی کبھی ترک ہیں فرماتے ہیں کہ دہشت گردی دم توڑ رہی  
ہے، اور دہشت گرد آخری پھکیاں لے رہے ہیں، یعنی وہی مثل کہ "روم جلتا رہا" اور نہ د  
بھری بجا تارہا"۔

ان ناگفتہ بے حالات کا ایک انساک پسلویہ ہے کہ وہ عوام، جن کے سرے یہ مون

کر خوب رہئے، اور اللہ محفل پر بھی رقت طاری ہوئی۔ ہمارے شیخ قطب عالم برکتہ العالیہ حضرت مولانا محمد زکیہ علی نور اللہ عزوجہ بڑے درد سے فرمایا کرتے تھے کہ "انہوں! اب امت کے غم میں کوئی روتے والا بھی نہیں رہتا۔" یہ ناکارہ رو سیاہ تمام الہل قلوب اور تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ ہمارے یہ تمام حالات حق تعالیٰ شانہ کی ذات عالیٰ کے قدر و غصب کا مظہر ہیں۔ تمام حضرات متوجہ الی اللہ ہو کر بارگاہ الی میں گزر گراؤں، اور امت کے حق میں دعا و التجاء کریں۔ کیونکہ امت پس رہی ہے، اعداءے اسلام اس کی تکابوئی کر رہے ہیں، ورنوں کی فوج ور فوج اس کو چیز نے چھاڑنے اور نوچنے میں مصروف ہے۔ لیکن امت کے حال زار پر میل اشک بہانے والی آنکھیں بست کم ہیں اپنے فرقہ، اپنی جماعت، اپنے گروہ یا اپنے ذاتی غم میں گھلنے والے تو بہت ہیں لیکن وہ قلوب ناپید ہوتے جا رہے ہیں جو امت کے غم میں ایسا گزر گراؤں اور ایسا ملبلاں میں کہ کرم آقا کو ان پر رحم آجائے، شاید کوئی زبان ایسی نہیں رہی جو امت کی حالت زار پر بارگاہ الی میں دعا و التجاء اور آہ و فغان سے شود محشر بپا کر دے۔ آدی یہ امت، جس کے سرپر "خر امت" کا تاج رکھا گیا تھا آج اپنی جگہ طبعہ اغیار بینی ہوئی ہے۔ اس کی حالت اس گلے کی ہے جس کو بھیزی یہ چیر پھاڑ کر رہے ہوں لیکن اس کا کوئی گھر بان اور پاسبان نہ ہو۔

### ترے محبوب کی ہے یہ نشان مرے مولا نہ اتنی سخت سزادے

یا اللہ! ہم نے اپنی سیاہ کاریوں سے آپ کو ناراض کر لیا ہے، بلاشبہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے امثال بد کا شیواز ہے۔ یا اللہ! ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے آپ سے رحم کی التجاء کرتے ہیں۔ یا اللہ! اگرچہ ہماری غفلت و بد ہوشی اور بد عملی و سیاہ کاری اس سے سوا ہے لیکن آپ کی رحمت و عنایت بہر حال لا محدود ہے۔ یا اللہ! ہمارے جرام ہماری صفت ہیں اور خنو و مغفرت آپ کی صفت ہے۔ یا اللہ! علقوں کی صفات آپ کی صفات قدیرہ کے مقابلہ میں کچھ نہیں۔ یا رحم الراہیں! ہماری بد کرواری و رو سیاہی اور ہماری نالائقی کو نہ دیکھئے، اپنی شان کریں اور شان خنو و مغفرت پر نظر فرمائیے، یا کہم! اگر اپنی

گریہ و زاری اور آہ نہیں شی کے ذریعہ اس امت کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں رہا تو ہم بے سارا آپ کی خنو و مغفرت کو بطور شفع آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا رحم الراہیں! اپنے جیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو معاف فرمادے، الی! اگر ہم لا کن بخشش نہیں رہے تو آپ کی شان تو اہل التقویٰ و اہل المغفرة ہے، الی! اپنی ذات عالیٰ کے صدقے ہمیں معاف فرمادے، الی! آپ کے لطف و کرم اور آپ کی رحمت کا ایک چھینٹا پوری امت کے نامہ عمل کی سیاہی کو دھونے کے لئے کافی ہے، الی! اگر ہمارے زندوں میں کوئی ایسا باقی نہیں رہا جو آپ کی رحمت کی بھیک مانگنے کا اہل ہو تو یا اللہ! ہمارے اسلاف میں تو بہت سے اکابر تیرے محبوب تھے، اور آپ ان کی دعائیں قبول فرماتے تھے، الی! اپنی ماقبلان بارگاہ کی دعاویں کے صدقے ہم پر رحم فرماء، الی! اگر ہم رحم کے سحق نہیں تب بھی آپ کو علم ہے کہ محتاج رحم ہیں، یا اللہ! اگر آپ بھی محتاجوں اور بیکسوں کی دلگیری نہیں فرمائیں گے تو ہمارے لئے کون سادر و ازاد ہے جہاں اپنے فرزار اور احتیاج کو پیش کریں۔ یا اللہ! ہم آپ کے رحم کے سحق نہیں مگر محتاج ہیں، فقریہیں، نادار ہیں، بے نواہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، اپنے کئے پر شرمند ہیں، پشمیں ہیں، الی! ہمارے فخر بر ہماری احتیاج پر ہماری بدھالی پر رحم فرماء۔ یا الی! یہ امت اگر مردہ ہو چکی ہے تو مردوں کو زندہ کر دینا بھی آپ کے اختیار میں ہے، الی! اس امت کو اپنے کلہ کن سے از سرف نزدہ فرمادے۔ اور اسے اپنے حیات بخش دین پر از سر نو قائم فرمادے، اور اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت پر چلنے کی دوبارہ توفیق عطا فرمادے۔ بر حستک یا رام الراحمین۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی حسر حقیۃ صمعوۃ البریۃ سیدنا محمد  
وعلی آله واصحابہ اجمعین وبارک وسلم تسليماً -

(شعبان المعمد ۱۵۷۴)

## کراچی کا المیہ اور اس کا حل

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى - اما بعد

باطل قوئیں روز اول سے ہمیں مٹانے اور ہمارے خلاف سازشوں کے جال بننے میں مصروف ہیں، لیکن عوام تو کہا، ہمارے خواص بھی شاید ان سازشوں سے آگہ نہیں، بلکہ شعوری یا غیر شعوری طور پر اغیار کی سازشوں کے مہرے بن جاتے ہیں۔

شرقی پاکستان کے سقط کا الیہ سب کے سامنے ہے، مشرق و مغرب بھائیوں کے درمیان پر ویگنڈہ کے ذریعے ایسا اشتغال پیدا کر دیا کہ دونوں بھائیوں کے درمیان مصالحت ناممکن ہو گئی۔ شیخ جیب الرحمن کے "چھ نکات" کا ہوا کھڑا کر کے ملک کے دونوں حصوں کو ایسا تکریماً گیا کہ ملک دوخت ہو گیا، کسی کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس زہر کے انجشہں کمال تیار کئے جا رہے ہیں، اور کس کے ذریعہ سپالی کئے جا رہے ہیں، ہزاروں مسلمانوں کی جانیں اس فتنہ کی بھیت چڑھ گئیں، نہ جانے کتنی حصیں لٹ گئیں، پیگنزرست اور بربرست کے ایسے ایسے مظاہرے ہوئے کہ انسانیت نے سرپیٹ لیا، شبیطت کا ایک عربان رقص تھا جس کا تماشا "دونوں بھائی" بنے ہوئے تھے۔

"اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے"

جو لوگ اس فتنہ کی آگ بروانے کے لئے مروں کے طور پر استعمال کئے جا رہے تھے آخر کار ان کا مشر بھی سب نے دیکھ لیا کہ وہ ساری دنیا کے لئے تماشے عبرت بن کر رہ گئے، اج وہی پاکستان ہے، اور وہی بگلہ دیش (سابق مشرقی پاکستان) ہے، دونوں طرف "دونوں بھائی بھائی" کے نمرے لگائے جا رہے ہیں، اے کاش ۱۹۷۴ء میں عقل کے ناخن لئے جلتے اور صبر و تحمل سے ایک وہ سرے کے دل میں اتنے کی کوشش کی

جاتی، ایک وہ سرے کے خلاف اشتغال کے بجائے ایک وہ سرے کی عزت، و احترام کی روشن اختیار کی جاتی تو اس وقت بھی "دونوں بھائی بھائی" کا نعروں لگایا جا سکتا تھا، نہ اغیار کی سازش کا شکار ہوتے، نہ فرقوں کے کائنے لوں کو چھپی کرتے، نہ ہزاروں جاٹوں کا خون ناچن اپنی گردن پر لیتے، نہ ہمارا ادمیں عزت و آبرو کی پالی کے سیاہ داغوں سے آلووہ ہوتا، نہ دنیا کی زلت و رسوائی ہمارا مقدر بنتی، اور نہ آخرت کے محاسبہ کا ہوناک منظر ہمیں دیکھنا نسبت ہوتا۔

۲۵  
مشرقی پاکستان کا سانحہ قیام پاکستان کے قرباً ربع صدی بعد پیش آیا تھا، آج پھر سال کے بعد وہی ڈرائیور کراچی اور حیدر آباد (سنده کی شہری آبادی) کے اسچ پر دہر لیا جا رہا ہے، وہی باطل قوئیں ایک بار بھر ہمارے خلاف سازشوں کے تانے بانے بن رہی ہیں، انسوں نے پاکستان کا نقشہ تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، انسوں نے سنده کو تقسیم کر کے نئے ملک کا نقشہ تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ہماری بھوپالی بھائیوں کو کچھ خبر نہیں کہ اندر کون کون سی قوئیں کام کر رہی ہیں، اور ہمارے ناخدا یاں قوم یا تو عوام سے زیادہ بے خبر ہیں، اور نادانست اغیار کے پھیلائے ہوئے جاں کے تجھیر بننے ہوئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے اتنی عتل و بصیرت اور قصر و فراست نہیں دی ہو جلالات کا صحیح اور اک و مدارک کر سکے اور الجھے ہوئے معاملات کی کھنچی کو سلب ہاسکے۔ کبھی مختلف فرقوں کی عیاوت گاہوں اور مساجد کو خشائی ہیا کر قوم کو فرقہ واریت کی آگ میں جھوٹک دیا جاتا ہے، اور سارا الزام غریب "مولوی" کے سر دھر دیا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ فلاں سیاسی تنظیم کے دونوں دھڑے یا ہم دست و گردیاں ہیں، اور انسوں نے پوری شہری آبادی کی زندگی ایجن کر رکھی ہے، کبھی کسی پر اور کبھی کسی پر ان فسادات کی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے۔ لیکن پر ویگنڈے گی آندھی میں کسی کو معلوم نہیں ہوا تاکہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، کیا جسے اور کیا جھوٹ ہے؟ قوم کے ایک ایک فرد کے دل میں ایک وہ سرے کے خلاف ایسا اشتغال پیدا کیا جا رہا ہے اور فرقوں کے ایسے نیچ بوجے جا رہے ہیں کہ پوری قوم خانہ جگل کی پیٹ میں آچکی ہے، جب سازش اور فتنہ کا یہ غبار بیٹھے گا تب معلوم ہو گا کہ ہمارے

اپنے لئے تیار کر رہے تھے۔ اذل و شمنوں نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا، اور ”خداونی سبیل اللہ“ کے نتیجے میں ہم کن طاغوتی طاقتیں کا شکار بن گئے ہیں اور کن کی غلامی کا طوقِ ذلت ہمارے گلے میں ڈال دیا گیا ہے؟ ہم جو ایک درسرے کا گلا کاث رہے تھے، ایک درسرے کی جان، مال اور عزت و آبرو کی ہوئی کھیل رہے تھے، اور بزم خود اپنی عزت و وقار اور حقوق کی جنگ لڑ رہے تھے، یہ محض پروپیگنڈے کا جادو تھا، ورنہ وہ حقیقت ہم اغیار کی غلامی کے طوق و سلاسل اپنے لئے تیار کر رہے تھے۔

میں اپنے تمام بھائیوں سے درود مددانہ الجا کرتا ہوں (خواہ وہ مذہبی تفکیں ہوں، یا سیاسی تھانعیں) یا کوئی اور گروہ کے خدارا! آپس کی اس سریکھیوں سے اپنی دنیا و آخرت تباہ نہ کریں، اس یا ہمیں لزاٹی سے تم میں سے کسی کو فتح نصیب نہیں ہو گی، بلکہ تمہارا ازلی دشمن، تھیں اس آگ میں جلا کر سارا مل غنیمت لے اڑے گا، اور تمہارے لئے عرف اپنے زخمیوں کا چلانا باقی رہ جائے گا۔ وہی اذلی دشمن جو اپنی ”بندوبانت“ کے لئے پروپیگنڈے کا غبار اڑا رہا ہے، اور جو تمہارے درمیان اشتغال کی آگ کو مسلسل بھرا کر تھیں خود کشی کے جنم میں دھکیل رہا ہے۔

جب سے حرم الحرام ۱۴۳۶ھ شروع ہوا ہے میں بتتی خائف ہوں کہ خدا خیر کرے، اس سال عاشورہ کا دن جمعہ کو آ رہا ہے، اسی سال سے دیکھ رہا ہوں کہ رمضان مبارک کے میئنے میں آسمانی فیصلے نازل ہوتے ہیں، حج کے دنوں میں ان کی سمجھیل ہوتی ہے، اور عشرہ حرم کے بعد ان کے نفلات کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے عظیم واقعات عاشورہ حرم میں پیش آتے ہیں۔ قیامت کا صور بھی جس دن پھونکا جائے گا وہ حرم کی دسویں تاریخ ہو گی اور جمعہ کا دن ہو گا۔ میں کائب ربا تحاک اس سال جمعہ دس حرم کو آ رہا ہے، خدا خیر کرے کہ ہماری قوم اور ہمارے وطن کے بارے میں آسمان سے کی فیصلے ناذ کے جاری ہیں۔

خوب یاد رکو کہ بندوں کے اعمال جس حرم کے آسمان پر جائیں گے، آسمان سے دیے ہی فیصلے نازل ہوں گے، میں پسلے ایک مضمون میں عرض کر چکا ہوں کہ مجموعی طور پر

ہمارے اعمال بگزیر چکے ہیں، ایسا ہے ہو کہ ہماری گوشیلی کا فیصلہ نازل ہو، آج بھی وقت بے کر ہم قوم یونس کی طرح تاب ہو جائیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”سو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کے ایمان لاتی، پھر کام آمان کو ایمان لانا“ ہم یونس کی قوم، جب وہ ایمان لائی تو اخالیا ہم نے ان پر سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگانی میں، اور فائدہ پہنچایا ہم نے ان کو ایک وقت تک۔“  
(سورہ یونس آیت ۹۸۔ ترجمہ شیخ النبی)

حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ایمان لانے کا جو واقعہ اس آیت شریفہ میں ذکر فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

”جب وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی مسلسل دعوت و تبلیغ کے بعد بھی اصلاح پذیر نہ ہوئی تو حق تعالیٰ شانہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ ان لوگوں کو آنکھ کر دو کہ تین دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا، قوم یونس علیہ السلام نے آپس میں مشورہ کیا تو اس پر سب کا اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی یونس علیہ السلام کو محنت بولتے نہیں دیکھا اس لئے ان کی بات تظریف اداز کرنے کے قابل نہیں، مشورہ میں یہ طے ہوا کہ یہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو کبھی لوگ کچھ نہیں ہو گا اور اگر وہ یہاں سے پلے گئے تو یقین کرو کہ صح کو ہم پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام پارشاو خداوندی رات کو اس بستی سے نکل گئے، صح ہوئی تو عذاب الہی سیاہ دھوئیں اور بدل کی ٹھکل میں ان کے سروں پر منڈلاتے گا اور فتنے آسمانی سے بیچے ان کے قریب ہونے لگا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں، یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو علاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر مشرب بایمان ہو جائیں اور پچھلے انکار سے توبہ کر

لیں مگر حضرت یونسؐ کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے، ہستی سے ایک میدان میں نکل آئے، عورتیں بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے، نات کے کپڑے پہن کر بیگروزی کے ساتھ اس میدان میں توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکارے گوئیجے لگا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب ان سے ہٹا دیا جیسا کہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، روایات میں ہے کہ یہ عاشورہ یعنی دسویں حرم کا درن تھا۔  
(معارف القرآن ص ۵۷۵، ۵۷۶)

میں اپنے تمام بھائیوں سے، تمام اہل وطن سے اور ہر اس شخص سے جس کے دل میں خدا و رسولؐ کی ذرا بھی عظمت ہے، نمائیت اخلاص اور درودمندی سے التجاکرتا ہوں کہ خدا کے لئے آج قوم یونسؐ کا کردار ادا کریں، جس کے نکت درج ذیل ہیں:

(۱) بارگاہ الہی میں پی توبہ کریں، اور تمام کلارت کے چھوڑنے کا عزم کریں، جن میں عورتوں کی بے پر دگی، ننی ویسی آر اور ڈش ایشیا جیسی لمحتیں سرفہرست ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے دعا کریں کہ یا اللہ! ہمیں خالموں کی سازش اور ان کے قتنہ سے پناہ عطا فرماء، مسلمان دینی شعاعز کو زندہ کریں، مساجد کو آباد کریں اور اس عذاب سے بچنے کے لئے خدا تعالیٰ کی پنڈھ میں آجائیں۔

(۲) آج تک ہم نے ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کیا ہے، ایک دوسرے سے صدق و راستی کے ساتھ معافی خلائق کر لیں، اور ایک دوسرے کے جو حقوق ہم نے غصب کر رکھے ہیں ان کو ادا کرنے کا عزم کریں۔ حکومت کو چاہئے کہ عام معافی کا اعلان کر دے، اور مساتھہ افراد اور ان کے قائدین کو چاہئے کہ وہ بھی صدق دل کے ساتھ معافی مانگ لیں، ایم کیو ایم کے دونوں دھڑکوں کے قائدین کو چاہئے کہ وہ اپنے اختلاف ختم کر کے ایک دوسرے سے گلے مل جائیں اور علظت نہیں کا ازالہ مل بینہ کر لیں، مذکوری تنظیموں (خصوصاً پاہ محمدؐ اور پاہ صحابہؐ) کو چاہئے کہ اپنے فتنی اختلافات کو اس کے دائرے میں

رکھیں، انہیں جاریت کا لباس نہ پہنائیں، اور ایک دوسرے کو مٹانے کا خیال ٹک کر

دیں، افتادہ فساد اور جاریت سے بھی کسی مسئلہ کا حل خلاش نہیں کیا جاسکتا۔

(۳) زبان اور تندیب کو بھی فخر و بیزاری کا ذریحہ نہ بنایا جائے، یہ فخرت کا حسن ہے، سب اہل وطن ہیں، بھائی ہیں، اپنے ہیں، بے گانے نہیں۔ اور فیصلہ کر لیں کہ سب کو مل جل کر بیس رہنا ہے۔

(۴) کراچی وغیرہ میں فوراً بدیاتی انتخابات کرائے جائیں، اور تمام طبقات الفت و محبت کی فضائل ان انتخابات کے نتائج کو قبول کریں، اور شری مسائل کے حل کے لئے سب مل جل کر کو شش کریں۔

(۵) سب سے اہم یہ ہے کہ پوری قوم، رائی بھی اور رعلیا بھی، اور قوم کے مختلف اعضا بھی عدل و انصاف کی ترازوہ قائم کریں، ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کریں، اور کسی کے ساتھ ظلم و بے انصافی نہ کرنے کا آج سے حمد کریں، ہاگر ممکن حد تک احسان محرومی کے اسباب و ذرائع کا سد بباب کیا جائے۔

(۶) میں تمام اہل تکوپ کی خدمت میں التجاکرتا ہوں کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ عالیٰ میں التجاہیں کریں، دعائیں کریں، ہمگرواؤں میں کہ ہماری قوم جو طبعہ اغیار ہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بے پایاں کے صدقے ہمارے قصوروں کو معاف فرمادے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو اغیار کی سازشوں سے نجات عطا فرمائیں۔ آمین

(۷) تمام مسلمان مساجد میں بھی اور گھروں میں "صلوٰۃ تعمیتاً" اور دیگر اور ادو و نشاوف کا اہتمام کریں جو ایسے خوف و دہشت کے علاج کے لئے منسون اور اکابر کا معمول ہیں۔

یہ اس ناکارہ نے ارتجلًا چند یہیوں کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ جو کچھ لکھا ہے اس سے کسی طبقت کی جانبداری یا کسی فرد کی تتفیص مقصود نہیں، مخف درودمندوں کے ساتھ امت محمدیہ (علی صاحبosalسلۃ والسلام) کی بھلائی مدنظر ہے، اگر کسی فرد کو اس تحریر کے کسی لفظ سے رنج و صدمہ پہنچا ہو (اس کا تعلق کسی بھی کتبِ فکر سے

ہو) میں اس سے صدق دل سے معاف کا خواہنگار ہوں 'میرا بھائی ان  
بلاکت کے مطابق عمل کرنے کا عزم کر لیں تو آج بھی ہم سے یہ عذاب الخالی جا سکتا ہے۔  
جس طرح کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے انخلالیاً گیا تھا اور فوراً امن و عافیت اور  
الفت و محبت کی فضاقائم ہو سکتی ہے۔

یا اللہ! ہم تمہری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، یا اللہ! ہمارے تمام جرائم کو معاف فرماؤ اور  
ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام شیاطین الانس والجن کے شر سے پناہ  
عطافرما۔ آمين

وآخر دعوانا أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سُبْحَانَ رَبِّ الرَّحْمَةِ إِنَّمَا يَصْفُونَ

وَسَلَامٌ عَلَى الْمَرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(نامہ ناسیمات جون ۱۹۹۵ء)

## خون کے آنسو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وسلام على عباد الدين اصطلفي۔ اما بعد  
صحیح مخارقی و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”زنہ سٹ جائے گا اور علم بقفل کر لیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں  
گے، لوگوں پر حرص اور بجل ڈال دیا جائے گا اور فتنہ و فساد بکثرت  
ہو گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ قتل و فساد سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ”قتل“  
(مکہومہ ص ۳۴۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آنحضرت  
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

”اس ذات کی حرم اس کے بقدر میں میری جان ہے، دنیا ختم ہیں ہو گی  
یہاں تک کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ قاتل کو معلوم نہیں ہو گا  
کہ اس نے کس جرم میں دوسرے کو قتل کیا اور مقتول کو کچھ معلوم  
نہیں ہو گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا، عرض کیا گیا کہ یہ کیسے ہو گا؟  
فرمایا قتل و فساد ہو گا“ قاتل اور مقتول دونوں سیدھے جنم میں جائیں  
گے۔“ (مکہومہ ص ۳۴۴)

قاتل اور مقتول دونوں کا سیدھے جنم میں جانا، اس کی وضاحت دوسری حدیث میں  
اکی ہے؛ جو حججین میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :  
”جب دو مسلمان گواہیں سوت کر ایک دوسرے کے مقابلہ میں نکل آئیں تو قاتل اور مقتول دونوں جنم میں جائیں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ! یہ قاتل تو خیر جنمی ہوا“ مقتول کیوں جنم میں جائے گا ؟“ فرمایا، وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔“

(صحیح بخاری ۲-۱۰۱۵۔ صحیح مسلم ۳۸۹-۲)

یہ مضمون حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنن نسائی میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

”جب دو مسلمان گواہیں سوت کر ایک دوسرے کے مقابلہ میں آ جائیں، پس ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کروے تو دونوں دو ناخ میں گئے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ ! یہ قاتل تو خیر دوزخی ہوا“ مقتول کیوں کرو دوزخ میں گیا ؟ فرمایا، وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔“

(نسائی شریف ۲-۱۷۵)

کراچی ایک عرصہ سے قند و فساد کی آمادگاہ بنا ہوا ہے، یہاں مخابب گروہ قتل و غارت میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، پورے شہر دہشت گردی کا راجح ہے، بازار بند ہیں، سڑکیں سنسان ہیں اور عوام قاتلوں، داکوؤں اور دہشت گروں کے رحم و کرم پر جی رہے ہیں، خوف و ہراس کی فضا پورے شرپر محیط ہے، بہت سے علاقوں میں نئے بچوں کو دودھ میسر نہیں، جان بلب مریض علاج و معالجہ سے محروم ہیں، لوگ دہشت کے مارے گھروں میں دیکے ہوئے ہیں اور مزدور پیشہ لوگوں کے لئے کب معاش کی کوئی صورت نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کراچی میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، حکومت کے جن اداروں کے ذمہ لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرد کی حفاظت کا فرض پرداز کیا گیا ہے (جو حکومت کی اصطلاح میں پولیس اور رینجرز کہلاتے ہیں) وہ خود عوام کے لئے وہاں جان بنے ہوئے ہیں، عوام کے لئے قانون کے حافظوں اور دہشت

گروں کے درمیان احتیاز مشکل ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ حکومت کی نااہلی کا نتیجہ ہے؟ یا حکومت جان بوجھ کر کراچی کے عوام سے انعام لینے پر تکی ہوئی ہے؟ تجوب بالائے تجوب یہ ہے کہ کراچی جل رہا ہے، لٹ رہا ہے، خون مسلم کی ارزانی ہے، انفلی اندار کی پالی ہے، لوگ دہشت گردی کے عفریت کے چکل میں ہیں یعنی ناخدا یاں قوم کے کلن پر جوں تک نہیں ریکھتی، اور اہل کراچی کی زیوں حلی پر ان کے دل میں زرا بھی کچھ پیدا نہیں ہوتی۔ صدر ملکت بوسے آرام سے ملکت کی صدارت فرا رہے ہیں، سربراہ عسکر برے اطیمان سے ملکی سرحدوں کی ”حفاظت“ فرا رہے ہیں۔ بیکم صاحبہ وزارت عظیمی کی کرسی پر مسکن ملکوں ملکوں کے دورے فرمادی ہیں، اپنے ہم اتفاقیں کے خلاف مقدمات چلا رہی ہیں اور ملک کی جیلوں کو آیاں فرمادی ہیں، تجارتی زیست، کھول رہی ہیں اور اپنی حکومت کے حسن کارکردگی کے قد آور اشتہارات شائع فرمادی ہیں، لیکن کراچی اور کراچی والوں کے حال زار پر کسی کو رحم نہیں آتا، کسی کی عخل میں نہیں آتا کہ کراچی کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ اور اس حقیقی کو کس طرح سمجھایا جا سکتا ہے۔

### دریا کو اپنی طغیانیوں سے کم کشی کسی کی پار ہو، یا درمیان رہے

یہ فسادات کس کی سعی اور کلوشوں کا نتیجہ ہیں؟ حکومت صحیح طور پر اس کا تھیں بھی نہیں کریا۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ الطاف حسین اس کا ذمہ دار ہے، وہ دہشت گرد ہے، اس کے خلاف ... سے مقدمات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بر عکس الطاف حسین یا الزم لگ رہا ہے کہ پی پی دہشت گرد ہے، اور پی پی کی حکومت کے کارندے دہشت گردی کر رہے ہیں، اگر حکومت کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ الطاف حسین دہشت گرد ہے تو یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ الطاف حسین کے لوگوں کو کون قتل کر رہا ہے؟ ان کو کون انگو اکر رہا ہے؟ الغرض ان کے خلاف دہشت گردی کا مرکب کون ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر حکومت کا یہ الزم صحیح ہے تو بھی قاتل غور بات یہ ہے

کے الاف حسین اور اس کی جماعت وہشت گردی پر آمادہ کیوں ہوئی؟ اور وہ کیا اسباب و عمل ہیں جنہوں نے اس لاکھوں افراد پر مشتمل جماعت کو۔ حکومت کے بقول۔ وہشت گرد بنا دیا ہے؟ کیا یہ وہی صورت حال تھیں جس نے مشرق پاکستان کے شیخ محب الرحمن کو خدار بنا دیا تھا۔ اور جس نے ملک کو دو نیم کر دیا؟ کسی طبق کے ساتھ ایسی بے انصافی و جانبداری نہ کبھی کہ وہ "محج تم بیگن آمد" پر اتر آئے۔ اور پھر آپ اسے خدار غدار اور باقی باقی کہہ کر مزید مشتعل کرنے کی کوشش کریں ہائے اگر وہ خدار اور باقی نہیں تھا تو آپ کے اشتعال انگیز نہ رے سکتے اور غدار کاررواب رکھا رہے۔

ہمارا مقصود نہ شیخ محب الرحمن کی صفائی پیش کرنا ہے اور نہ الاف حسین کو معصوم فرشتہ ثابت کرنا ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ اگر الاف حسین ظالم ہے تو حکومت کا رویہ بھی کوئی منصفانہ نہیں بلکہ اس سے بہتہ کر فالمانہ ہے۔ وکالتک نولی بعض العذامین بعض سماں کی نوار لگ سو۔

کسی یہ کہا جاتا ہے کہ ملک میں "را" کے انجمن تھس آئے ہیں اور یہ کہ ہندوستان اپنے ایجنسیوں کے ذریعے کراچی میں جملہ کشمیر کا بدلتے رہا ہے۔ یہ بات بڑی حد تک قریں قیاس ہے۔ شیعہ سنی فساد برپا کرنے کے لئے دونوں فرقوں کے مشورہ میں ہمیں مغلات کو نشانہ بنا، ایم کیو ایم کے دونوں دھڑوں کے محاذ گروہوں کی ملک میں تبدیلی کرنے کے لئے دونوں کے چیزیں چیزیں افراد کو چن کر ہلاک کرنا، اسی طرح اسالی گروہوں کے درمیان فساد کی اگ بھر کانے کے لئے دونوں کی آبادیوں کو نشانہ بناتا، یہ غیر ملکی ایجنسیوں کا کام بھی ہے۔ لکا ہے، اگر ان کے درمیان فساد کا بیچ بیوایا جائے اور پھر فسادات کا یہ شجوہ خیش خود ہی پھلتا پھوتا رہے، اور مسلمان آپس میں لگتے مرتبے رہیں۔

جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکا، لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت نے اس کا مدد ادا کیا تھا کیا ہے؟ اور اس غیر ملکی مداخلت کے سد باب کی کیا تمهیں اختیار کی ہے؟ ہماری اطلاع کے مطابق حکومت کے قانون مافذ کرنے والے اداروں (پولیس اور رینجرز) میں ہندو بھی شامل ہیں، کیا یہ ملک نہیں کہ یہ سرکاری اہل کار خود

"را" کے انجمن یا انجمن کے آئد کار ہوں؟ حکومت ان کو قیام امن کی ذمہ داری پرداز کر رہی ہے؟ جب کہ دشمن نے فساد برپا کرنے کی ذمہ داری ان کو پہلے سے سونپ رکھی ہے، حکومت وہشت گروہوں کی سرکوبی اور شریروں کو ڈاکوؤں اور فسادیوں سے نجات دلانے کا کام ان لوگوں سے لے رہی ہے جن کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ وہ خود فسادیوں کے سراغنہ ہوں گیوں بکریوں کے رویوں کو بھیزوں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔

ایک امکان یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان فسادات کی آگ مشتعل کرنے میں قادیانیوں کا بھی حصہ ہے، اس کے متعدد شواہد بھی موجود ہیں۔ مثلاً کافی دونوں پلے شاہ فضل کالوں میں ایک مکان سے فائزگ ہو رہی تھی پولیس اور رینجرز اس کے انسدادوں میں ناکام رہے۔ بالآخر فوج نے کارروائی کی، ایک شخص مارا گیا، اور ایک گرفتار ہو گیا۔ یہ مکان بھی قادیانیوں کا تھا اور فائزگ کرنے والے بھی قادیانی تھے۔

ماں کالوں میں وقتفے وقتفے کے بعد محاذ گروہ نہ رہے تھے۔ وہاں تھے کے بزرگوں نے تفتیش کی کہ یہ کون لے رہا ہے؟ انکشاف ہوا کہ وہاں کے قادیانیوں کا سراغنہ بہ "خدمت" انجام دے رہا ہے۔ اپنے آدمیوں کے ذریعہ بھی ایک گروہ کے خلاف کارروائی کرتا ہے، بھی دوسرے گروہ کے خلاف۔ اس طرح دونوں گروہ آپس میں آتش زدیا رہے ہیں۔ اور جب بھی یہ آگ زرا تھنڈی ہونے کو آتی ہے تو یہ صاحب مزید بارود ڈالنے کے لئے اپنے خدائی خدمت گاروں کو ماہور کر دیتے ہیں۔

حال ہی میں اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی ہے:

"ایمی راز بھارت، اسرا میں مخلص کرنے والا گرفتار"

"لاہور (فارن ڈیک) پاکستان اٹھیل جس ایجنسی نے ایک آئندیوی باشندے مبشر احمد کو پاکستانی ایکٹی راز بھارت اور اسرا میں کو مختل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ ایک خلیجی روزنامہ کے مطابق قوانین مبشر احمد کی اسلام آباد میں ایک پرائیویٹ کمپنیز فرم ہے اور اس نے حس اداروں میں کمپیوٹر کے نظام کی تحریک کے دوران جو ہری

پروگرام کے بعض خیہ راز حاصل کرنے اور انی آئینہ بیوی کی صرفت یہ راز بھارت کی خیہ ایجنسی "را" اور اسرائیلی خیہ ایجنسی "موساد" کے ایجنٹوں کو سیا کئے۔

(روزہ بیکر پاچی، ۲ جولائی ۱۹۹۵ء)

لیکن ہماری حکومت کی نظر میں شاید قادریوں سے بوجہ کر شریف اور مسحوم کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن چن کر حاس شعبوں میں قادریوں اور ان کے ہمتو اوس کو مسلط کیا جا رہا ہے اور موجودہ دور حکومت میں ان لوگوں کی جرأت و بے باکی اس قدر بوجہ چکی ہے کہ گزشتہ اوار میں اس کی مثل کم ملے گی۔

الفرض ان فسادات کا ذمہ دار ہو فرقہ بھی ہو حکومت کا فرض ہے کہ عام شربوں کی زندگی اچھن کرنے کے بجائے فساد کی اصل جڑ کو حلاش کر کے حکمت و دہائی اور تدریک ساتھ اس کی سچ کنی کرے۔ ہمارے خیال میں کراچی میں جس سفاکی و بے دردی سے روزانہ درجنوں آدمی قتل ہو رہے ہیں اور اس سلطہ میں جس بیانہ تشدد اور بربریت کا لوگوں کو نشانہ بنا لیا جا رہا ہے یہ کسی مسلمان کا فعل نہیں ہو سکتے۔ ایسی ورنگی کا مظاہرہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کا دل انفر کی تاریخی سے بالکل سیاہ ہو چکا ہو، ان لوگوں کا قبر کر کے بوریوں میں بند کیا جا رہا ہے، دو دو دن تک لاشیں سڑکوں پر پڑی سڑ رہی ہیں اور کوئی ان کی تدفین تک نہیں کرتا۔ کیا یہ کسی مسلمان کا فعل ہو سکتا ہے؟

ایک مدرسہ کے بزرگ اس ناکارہ کے پاس تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ ایک نوجوان ان کے مدرسہ کا بادرپی قفل اس کو اور اس کے ساتھ مدرسہ کے ڈرائیور کو پکولیا گیا۔ دونوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کے ہاتھوں اور پاؤں کا قیسہ کیا گیا۔ پھر بے ثمار گولیاں دونوں کے بدنوں میں پیوست کی گئیں، دونوں کی لاشیں مدرسہ کے پاس پھیک دی گئیں اور ان کی جیب میں یہ پرچہ ڈال دیا کہ تحری کرنے والوں کی بیسی مزاحا ہے۔ اس نوعیت کے بیسیوں حالات رو غماہو رہے ہیں، مگر افسوس کہ کسی کے دل میں رحم نہیں، کسی کے دل میں خدا کا خوف نہیں، کسی کے دل میں یہ تکر نہیں کہ مرنے کے

بعد مجھے اپنے اعمال کا حساب بھی رہتا ہے۔ ان اللہ وانا الیہ راحعون  
ہم ارباب اقتدار اور ارکان حکومت سے استجا کرتے ہیں کہ خدارا کراچی کے باشندوں کو بھیزروں کے حوالے نہ کیا جائے، عوام کے جان و مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے اور عوام کو خوف و وہشت کی فضا سے نجات دلاتا حکومت کا فریضہ ہے، اگر ارباب حکومت اس گران قدر ذمہ داری کو انجانے کی صلاحیت و لیاقت نہیں رکھتے تو ان کو مستغفل ہو جانا چاہئے ماکہ یہ خون ناقص ان کے ہاتھ عمل میں نہ لکھے جائیں۔  
یا اللہ! اس امت پر رحم فرم، اور ان کو ظالموں کے چکل سے نجات دلا۔  
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

وصلى الله على خير حلقه صفوة البرية

سبينا محمد النبي الامي

و آله واصحابه وبارک وسلم

(نہایتہ بیعت جولائی ۱۹۹۵ء)

# ایک عبرت ناک بیماری

اللہ کی پناہ! ایک عذاب الہی  
انسان سور کی شکل میں ہونے لگے

بسم اللہ الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى :

روزنامہ جگ کراچی (۳۳ جولائی ۱۹۹۵ء) میں جناب آر ائم تحقیقین صاحب کا ایک چھوٹا سا مضمون شائع ہوا ہے۔ جس میں ایک عبرت انگینز بیماری کا ذکر ہے، جن قادرین کرام کی نظر سے یہ مضمون نہیں گزر ان کے مطالعہ کے لئے ذیل میں درج کیا جاتا ہے :

**”ہاگ“**

”ایڈز اور ابولا میںے خطرناک دائرس کے بعد دنیا کو اب ایک اور خطرناک اور عجیب و غریب دائرس کا سامنا ہے۔ یہ دائرس ہے ”ہاگ“ یا ”کوچنزو“ کا نام دیا گیا ہے، کو لمبیا اور بر ایزیں میں نمودار ہوا ہے۔ اس دائرس کا خیکار انسان یا تو مر جاتا ہے یا پھر چند روز میں اس کا چڑھ سو رہا ہو جاتا ہے۔ سائنس دان سرتوڑ کو شکش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی ویکسین تیار ہو جائے جو اس خطرناک ترین دائرس کو ختم کر سکے۔

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ اس دائرس کا ابتدائی ہدف کو لمبیا اور بر ایزیں ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایڈز اور ابولا کی طرح اس دائرس نے بھی سب سے پہلے منطقہ حارہ بارانی جنگلوں میں کام کرنے والے محنت کشوں کو نشانہ بنایا۔ سائنس دان کہتے ہیں کہ یہ دائرس سب سے پہلے دریائے ایمن کے طاس میں پائے جانے والے جنگلی سو روؤں اور تماہیر (وھی اور جنوبی امریکا میں پائے جانے والا ایک سم دار جانور جو تین فٹ اونچا اور چھ فٹ لمبا ہوتا ہے) میں پھیلا اور پھر اس کے بعد یہ انسانوں کو خفیل ہوا۔ واضح رہے کہ ہاگ دائرس کھانے، چینکنے اور جسمانی رطوبتوں کے ملاب سے ایک دوسرے شخص کو خفیل ہو جاتا ہے۔ ماہرین اس بیماری کو طاعون کے مماثل قرار دے رہے ہیں۔

اس دائرس کا خیکار بد قسم شروع شروع میں تیز بخار میں جلتا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے جو روؤں میں شدید درد اور سوچن کی تکلیف لاحق ہو جاتی ہے۔ ان ابتدائی علائمات کے بعد مریض کے اندر رونی اعضا سے جسم کے اندر رہی خون رنسے لگتا ہے اور پھر آہست آہست ناک ”آنکھوں“ اور سو روؤں سے خون بننے لگتا ہے۔ عام طور پر اس دائرس کا نشان بننے والے ۹۳ فیصد افراد موت کے منہ میں چلتے ہیں اور جو بد قسم یا خوش قسم زندہ بیج جلتے ہیں۔ وہ کسی عفریت سے کم نظر نہیں آتے۔ کیونکہ انسان کم سور زیادہ نظر آتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک کم از کم ۳۲۷ افراد اس دائرس کا خیکار ہو چکے ہیں۔ زندہ بیج جلتے والے

مریضوں کی جلد موٹی ہو جاتی ہے تاک اور کافوں کی لمبائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خصوصاً تاک اس حد تک موٹی بھی اور بدہیت ہو جاتی ہے کہ اس میں اور سور کی تھوڑتھی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ بال کھودرے اور موٹے ہو جاتے ہیں۔ ان کی رنگت بھی بدلتی ہے۔ جلد میں نوکیلے ابھار بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو چھوٹے سینگوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر ہریں کا ذکر کے مطابق :

”انسانی جسم میں آنے والی یہ خوفناک تبدیلی محض چند روز میں مکمل ہو جاتی ہے۔ اور مریض خواہ مرد ہو یا عورت اس کی شکل سور جیسی ہو جاتی ہے۔ اس مرض یا وائرس کا یہ پہلو انتہائی دروناک ہے کہ اس کا شکار ایک قابل نفرت انسان بن جاتا ہے۔ میں نے کئی واقعات دیکھے ہیں کہ ایک شخص جو سب کو پیار اتحادیں بیماری میں جلتا ہو کر سب کا پیار اور محبت کھو بیجا۔ لوگ ایسے شخص سے دور رہا گتے ہیں۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی اس کے قریب آنے سے گریز کرتے ہیں۔ میں نے اس طرح کی خوفناک بیماری اس سے قبل کبھی نہیں دیکھی۔“

ہاگ وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد ۱۷۸۱ ہو چکی ہے۔ جو زندہ نفع گئے ہیں وہ موت سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ کوہیائی پبلک ہیلتھ اینجنسی نے اس وائرس سے متاثرہ افراد کی مختلف اقسام کی رطوبتیں ملک کی اعلیٰ یونیورسٹی اور یونیورسٹیوں کو بھجوائی ہیں۔ اس صحن میں امریکا کے ماہرین سے بھی رجوع کیا گیا ہے۔ سائنس و ان اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ

پسلے اس کا قیعنی کیا جانا چاہئے کہ یہ وائرس کس طرح عمل کرتا ہے کیونکہ اس کے بعد ہی اس وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لئے کوئی دوایا و سکھیں تیار کی جاسکتی ہے۔

ڈاکٹر ہریں کا ذکر کہتا ہے : ”ہمیں اس وائرس پر انتہائی سرعت سے قابو پانा ہو گا۔ اگر خدا انخواستہ ہم اس کو شک میں ناکام رہے تو پھر آنے والے چند سالوں میں یہ خوفناک بیماری پوری دنیا کو اپنی پیٹ میں لے سکتی ہے۔ ایسا ہوا تو پھر کئی ارض پر ہر طرف سور نما انسان ہی نظر آئیں گے۔“

(روزنامہ جنگ گرائی ۲۳ جولائی ۱۹۹۵ء)

اس مضمون میں ہمارے لئے عبرت و بصیرت کے کئی پہلو ہیں ان میں سے چند ضروری امور کی جانب توجہ دلاتا ہوں :

۱۔ ..... قرآن کریم میں متعدد جگہ ان ہلاک شدہ قوموں کا ذکر آیا ہے جن کی شکلیں مسخر ہوئیں اور جن کو ان کے جرام کی سزا میں بندروں اور خزروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، مثلاً سورہ بقرہ آیت ۲۲ میں ان یہودیوں کا ذکر ہے، ”جن کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔“

اس آیت شریفہ کے ذیل میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب معارف القرآن میں لکھتے ہیں :

فائدہ ..... یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، بنی اسرائیل کے لئے ہفتہ کا دن معظم اور عباوت کے لئے مقرر تھا، اور چھلی کا شکار بھی اس دن منوع

تحمل یہ لوگ سندھ کے کنارے پر آباد تھے، اور مچھل کے شو قین تھے، اس حکم کو نہ مانا، اور شکار کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسخ صورت کا عذاب نازل ہوا، اور تین دن کے بعد وہ سب مر گئے۔  
(معارف القرآن، جلد اول، ص ۲۳۲)

سورہ اعراف کے رکوع ۲ (آیات ۱۴۳، ۱۴۴) میں بھی اسی واقعہ کی تفصیل ذکر فرمائی گئی ہے۔

سورہ المائدہ آیت ۶۰ میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، ان پر قبر الہی نوتا، اور ان کو بندر اور خزیر بنا دیا گیا، معارف القرآن میں ہے :  
”یہودیوں نے جب یوم سبت کے احکام کی خلاف ورزی کی تو اللہ کا عذاب آیا، وہ بندر بنادیے گئے“ اور نصاریٰ کی درخواست پر اسلامی ماندہ نازل ہونے لگا، انہوں نے پھر بھی ناشکری کی تو ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا۔  
(معارف القرآن، جلد سوم، ص ۱۸۳)

اور سورہ مائدہ ۲۷-۲۸ میں ان کی ملعونیت کا سبب ذکر کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جرائم اور نافرمانیوں پر ڈھنڈلی کے ساتھ اصرار کیا، جس کی وجہ سے حضرت واوہ اور حضرت عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی :

”ملعون ہوئے کافرنی اسرائیل میں کے واوہ کی زبان پر اور عیسیٰ بن مریم کی۔ یہ اس لئے کہ وہ نافرمان تھے، اور حد سے گزر گئے تھے۔ آپس میں منع نہ کرتے تھے برس کام سے جو وہ کر رہے تھے۔ کیا ہی بر اکام ہے جو وہ کرتے تھے۔“ (ترجمہ شیخ النبی)

حضرت شیخ الاسلام مولانا شیخ احمد عثمانؒ اس کی تشریع میں لکھتے ہیں :  
”یوں تو تمام کتب سلویہ میں کافروں پر لعنت کی گئی ہے لیکن نبی اسرائیل کے کافروں پر، جب وہ عصیان و تمدش میں حد سے گزر گئے کہ نہ مجرم کسی طرح ارتکاب جرام سے باز آتا تھا، اور نہ غیر مجرم مجرم کو روکتا تھا، بلکہ سب شر و شرکر ہو کر بے تکلف ایک دوسرے کے ہم پالہ و ہم نوالہ بننے ہوئے تھے، مکرات و فواثش کا ارتکاب کرنے والوں پر کسی طرح کے اختباش، تکدر اور ترش روئی کا اظہار بھی نہ ہوتا تھا، تب خدا نے حضرت واوہ علیہ السلام اور حضرت شیخ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی، جیسے گناہوں پر ان کی حسارت حد سے گزر گئی یہ لعنت بھی، جو ایسے جلیل القدر انبیا کے قسط سے کی گئی، جو غیر معمولی طور پر عجائیں کن ثابت ہوئی، غالباً اسی لعنت کے نتیجے میں ان میں کے بہت سے افراد ظاہر اور باطننا، بندر اور خزیر کی شکل میں مسخ کر دیے گئے۔“

(فائدہ عثمانی)

ان آیات شریفہ سے واضح ہوا کہ امم سابقہ سے بعض کو مسخ کا عذاب ہوا، یعنی انسانوں کی ظاہری شکلیں بھی بندروں اور خزیروں کی شکل میں تبدیل کر دی گئیں۔

بعض لوگ اپنی عقیلیت پسندی کی وجہ سے ان تمام آیات کو، جن میں مسخ یا بندروں اور خزیروں کی شکل میں تبدیل کر دئے جانے کا ذکر ہے، ”مسخ معنوی“ پر محبوں کرتے ہیں، یعنی ان کی ظاہری انسانی شکلیں تبدیل نہیں ہوئی تھیں بلکہ یہ لوگ

انسانی صفات سے عاری ہو گئے تھے، اور ان کے اندر بندروں اور خنزیروں کی صفات در آئی تھیں۔

اہل حق یہ شیخ ان آیات شریفہ کو "مسنون ظاہری" پر محول کرتے آئے ہیں، یعنی ان ملعون لوگوں میں صرف معنوی تبدیلی نہیں آئی تھی، بلکہ معنوی تبدیلی کے ساتھ ان کی ظاہری شکلیں بھی بدلتی تھیں، اپر میں نے جس مضمون کا حوالہ دیا ہے اس کو ملاحظہ کرنے کے بعد اہل حق کا یہ موقف صحیح ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں جرام پیش لوگوں کی ظاہری شکلوں کو بھی صحیح کر سکتے ہیں، جیسا کہ ان کی باطنی شکلیں، ان کے جرام پر چیم اصرار کی وجہ سے صحیح ہو گئی تھیں۔

۲۔۔۔ قرآن کریم میں اس کی وضاحت بھی فرمادی گئی ہے کہ اشکال کی یہ تبدیلی (جسے مسخر کہتے ہیں) اسباب علویہ سے بالاتر، حق تعالیٰ شانہ کی کن نیکوںی طاقت سے ظہور میں آئی تھی۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے :

فَقُلْنَا لَهُمْ كُونوا فِرْدًا خَاسِينَ۔

(البقرة: ۲۲)

ترجمہ: "تو ہم نے کماں سے ہو جاؤ ذلیل بدر۔

(ترجمہ شیخ العنید)

رساحتہ العزیز حضرت شاہ عبد العزیز محدث و مولیٰ فرماتے ہیں :

"و این گفتہ گفتہ مکون و ایجاد است نہ گفتہ تکلیف و

امتحان، تایدون فعل در مقدور مکلف در کارباشد"۔

(تفسیر عزیزی، البقرۃ: ۲۲)

ترجمہ: اور یہ فرمانا (کہ ذلیل بدر بن جاؤ) مکون و ایجاد کا کہنا تھا،

نہ کہ تکلیف و امتحان کا حکم، کہ اس فعل کا مکلف کی قدرت میں

ہوتا درکار ہو۔"

یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حکم کرنے کے ساتھ پیدا فرمایا تھا، اسی طرح کلکہ کن کے ساتھ اشکال کو بھی صحیح کر دیا۔ اور کن نیکوںی طاقت کے ظہور کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کسی شخص پر یا کیک ایک ایسی ناگہانی بیماری مسلط کر دی جائے جس سے آنا "فنا" اس کی شکل گز جائے، جیسا کہ محولہ بالا مضمون میں اسے والزس کا نام دیا گیا ہے کہ آج تک نہ تو اس کا حقیقی سبب دریافت ہو سکا، اور نہ اس کا علاج کسی کے بس میں ہے۔ گزشتہ اقوام میں بھی اسی کن نیکوںی الہی طاقت کا ظہور ہوا تھا، چنانچہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث و مولیٰ فرماتے ہیں :

"مکونین و ایجاد ایں صفات دریاۓ ایش بایں نوع صورت گرفت کر جان گوشت نایاں در شکر ایشان ہاں شدہ مادہ خیش جذام گردید، و یک بار بعد ایشان مندف شدہ پوسٹ ایشان شکل پوسٹ بوڈنا گرفت، دور ہشتمائے ایشان خی و احیاداب ظہور نہو، و رنگ رو سوخت گردید، ذمہ مانے اصلی ایشان تاقط پذیرافت و شکل چڑھ خیز شد، چنانچہ در ظہر جذام ہی شود و بایں ہمد قوت نظر ہم از ایشان زاکل گشت و فرم و شور انسانی بجا، پاہم ہی گھرستہ دی گھرستہ دی بعد از س دوز ہمہ بلاک شدید و مردید۔

(تفسیر عزیزی: البقرۃ: ۲۲)

ترجمہ: "اور ان لوگوں میں ان صفات کی مکونین و ایجاد انے بایں نوع صورت اختیار کی کہ وہی چھلیبوں کا گوشت ان کے پیٹ میں بگرو، کر جذام کاملہ خیش بن گیا، اور یا کیک یہ مدد جذام ان کی جلد میں ایسی قوت سے دوڑا کہ ان کی کھل نے بندروں کی کھل کی شکل

اختیار کر لی، اور ان کی کرمیں بھی خم اور جھکاؤ ظاہر ہوا، اور چہرے کا رنگ سوختہ ہو گیا، ان کے بدن کے اصلی ہال جھز گئے اور چہرے کی ٹکل بدل گئی، جیسا کہ غلبہ جذام میں ہوتا ہے۔ مزید برآں یہ کہ ان کی بولنے کی قوت بھی زائل ہو گئی، (اس طرح پوری بندروں کی ٹکل بن گئی) البتہ انسانی فہم و شعور بالق رہا، آپس میں ایک دوسرے کو (بندروں کی ٹکل میں سخ شدہ) دیکھتے تھے، اور روتے تھے، اور تین روز کے بعد سب ہلاک اور موار ہو گئے۔

یہ تو تکونی طور پر ان کے بندروں نادیے جانے کی توجیہ ہوئی، آگے ان کے "ڈیل بندر" نادیے جانے کی توجیہ کرتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں :

"کاش بوزنا خوش ٹکل میکر دیدند کہ مروم آنمارا بنا بر مرغوبیت حرکات آنما پورش می نمایند، مقلادہائے زریں و جامائے رشمنی می پوشاند، و مصاحب خود می سازند، و در رنگ اطفال و صیبان خوش حرکات محبوب می دارند، لیکن ایشل گفت اند بوز نسلور آں حالت کہ بودند خا سین یعنی مہمان د محض، بسب تعفن خلط اکل در آنما، و بر آهن بوئے بد از ابدان آنما، و ہر کہ از دور برائے عبرت بتاشائے ایشل می آید لحن و طعن و تؤخ و طردی نمود، و ایشل بکمل حضرت سری جنابنید نمودی دیدند۔"

(تفسیر عزیزی قادری، سورہ بقرہ، ص ۳۳۵)

ترجمہ : اے کاش! وہ خوش ٹکل بندروں میں کچھ ہوتے کہ لوگ ان کی مرغوب حرکات کی بنا پر ان کی پورش کرتے ہیں۔ ان کو زریں قلاوے اور ریشمی لباس پہناتے ہیں، اُنہیں اپنے ساتھ ساتھ

لے پھرتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کی سی پر لطف حرکتوں کی وجہ نئے انہیں محبوب رکھتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ بذریعہ بھی بننے تو ایسے بذر کے جو نہایت ذلیل و مفتر تھے۔ کیونکہ ان کے اندر کی خلط جوان کے گوشت پوست کو کھاری تھی، نہایت متعفن تھی، اور ان کے بدن سے ناقابل برداشت بدو آرہی تھی، اور جو شخص کہ دور سے بھرت کے طور پر ان کا تماشا دیکھنے آتا ہے ان پر لحن طعن کرتا، اور زجر و طامت کرتا، اور یہ کمال حضرت کے ساتھ سر ہلاتے اور دیکھتے۔

حضرت شاہ صاحب کی یہ تحریر دو سال پہلے کی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے گواہ "ہاگ والریس" کا مضمون پڑھ کر لکھ رہے ہیں۔ غور فرمائیے کہ ان سخ شدہ ام ساقہ میں اور آج کے "ہاگ والریس" کے جتنا مرضیوں میں کتنی شدید مشکلت ہے۔  
نحو زبانہ۔ استغفار اللہ۔

۳۔۔ جس طرح قرآن کریم میں پہلی امتیوں میں سخ کے عبرت اک عذاب کا ذکر فرمایا ہے، اسی طرح احادیث شریف میں اس امت میں بھی سخ کے عذاب کی پیشگوئی فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

"میری امت میں کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو رہا، ریشم، شراب اور آلات مو سیقی کو (خوشنما تجویزوں سے) حلال کر لیں گے، اور کچھ لوگ ایک پہاڑ کے قریب اقامت کریں گے، وہاں ان کے منی چ کر آیا کریں گے، ان کے پاس کوئی حاجت مندا پنی چورت لے کر آئے گا تو (از راه خارج) کیسی گے کہ "کل آتا"

گویا ”ہاگ و ائرس“ کا یہ مضمون آخر خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کا ایک نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس قسم کے واقعات اور کتنے رونما ہوں گے؟ اور اس ”ہاگ و ائرس“ کا دائرہ کمال تک و سعی ہو گا؟ اور ابھی کون کون سے ”و ائرس“ پر وہ غیب سے ظہور پذیر ہوں گے؟ حق تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کی پر وہ پوشی فرمائیں، اور حضرت رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل امت کو ان عبرتاں کے عذابوں سے محفوظ رکھیں۔ آمین۔

۲۔ مسخ کا یہ عذاب جس جرم کی وجہ سے پہلی قوموں پر نازل ہوا قرآن کریم نے اس کی جانب بھی اشارہ فرمایا ہے، مثلاً وہ بستی جو دریا کے کنارے آباد تھی، ان کی شریعت میں ”ہفتہ کا دن“ کا رو بار اور کب معاش کے لئے منوع تھا، لیکن ان لوگوں نے ایک حیلہ کے ذریعہ ہفتہ کے دن مچھلی کے شکار کو حلال کر لیا، اور جب نصیحت کرنے والوں نے ان کو سمجھایا کہ تمہارا یہ حیلہ غلط ہے اور تم منوع شرعی کے مرتكب ہو رہے ہو تو انہوں نے ان کی نصیحت کو لائق توجہ نہیں سمجھا، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو فہماںش کی تو انہوں نے وقت کے پیغمبر علیہ السلام کی فہماںش پر بھی کافی نہیں دھرا، بلکہ یہ کٹ جتی کی کہ ہم سالما سال سے اس طریقے سے شکار کرتے چلے آ رہے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی اور وہ بندروں کی شکل میں مسح کر دیئے گئے گویا ان لوگوں کا جرم چند جرام کا مجموعہ تھا:

- محرمات شرعیہ کا ارتکاب کرنا۔
- حیلہ جوئی کے ذریعے محرمات کو حلال کر لینا۔
- نصیحت کرنے والوں کی نصیحت پر کافی نہ دھرنہ۔
- جتی کہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کی فہماںش کو بھی لائق توجہ نہ سمجھنا۔
- بالآخر ان کا لعنت خداوندی کا موردن بن جانا۔

پس اللہ تعالیٰ ان پر راتوں رات عذاب نازل کر دے گا، اور پہاڑ کو ان پر گردایا جائے گا۔ اور کچھ دوسرے لوگوں کو قیامت تک کے لئے بندر اور خزیر بنا دے گا۔

(صحیح بخاری ج ۸۳۷، جلد ۲)

بخاری شریف کی اس حدیث کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث میں ”مسخ“ کے عذاب“ کی میکدوئی فرمائی گئی ہے۔ ان میں سے چند احادیث اس ناکارہ کے رسالت ”عصر حاضر حدیث نبوی“ کے آئینہ میں ”آچکی“ ہیں۔

ان احادیث میں بھی جس ”مسخ“ کا ذکر ہے اس سے صرف مسخ معنوی مراد نہیں، بلکہ صورتوں کا مسخ مراد ہے، یعنی واقعی ان لوگوں کی شکلیں بندروں اور خزیروں کی شکل میں تبدیل کروی جائیں گی۔ (والعیاذ باللہ)۔

حافظ ابن حجر صحیح بخاری شریف کی مندرجہ بالا حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں:  
”قال ابن العربي: يتحمل الحقيقة كما وقع في  
الام السابقة ويتحمل ان يكون كناية عن  
تبيل أخلاقهم قلت الاول اليق بالسياق.“

(فتح الباری، ج ۱۰، ص ۵۶)

ترجمہ: ابن العربي لکھتے ہیں کہ یہ بھی احتمل ہے کہ اس حدیث میں مسخ سے حقیقی مسخ مراد ہو، جیسا کہ گزشتہ امتوں پر ہوا تھا اور یہ بھی احتمل ہے کہ ان کے اخلاق کے تبدیل ہو جانے سے کنایہ ہو۔ میں (ابن حجر) کہتا ہوں کہ پسلما احتمل ہی سیاق حدیث کے زیادہ لائق ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ مسخ کے جن واقعات کی پیش گوئی فرمائی ہے اس میں بھی ان جرائم کی طرف اشارہ فرمادیا ہے جن کی وجہ سے یہ لوگ مسخ کے عذاب میں جلا ہوں گے، مثلاً زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور معاف (آلات موسيقی) کو یہ لوگ حلال کر لیں گے۔ ظاہر ہے کہ ”حلال“ کرنے کے لئے کسی نہ کسی تاویل اور حیلے ہی کا سارا لیں گے، چنانچہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ شراب کو حلال کر لیں گے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ لوگ شراب کو کیسے حلال کر لیں گے جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو صاف صاف بیان فرمادیا ہے؟ فرمایا: ”یسمونہا بغير اسمها فیستحلونہا۔“ (آنکھہ: ص ۳۶۰)

ترجمہ: ”اس کا کوئی اور نام رکھ کے اس کو حلال کر لیں گے۔“

گوا حرام چیز کو حلال کرنے کا ایک حیلہ یہ بھی ہے کہ اس کا نام بدل دیا۔ مثلاً:

○ کما گیا کہ سود حرام ہے، مگر بینک کامناف سود نہیں یہ تو ”پرافٹ“ ہے۔

○ کما گیا کہ شراب حرام ہے، مگر یہ تو شراب نہیں، اس کا نام تو یہ ہے۔

○ کما گیا کہ جو حرام ہے، مگر یہ تو جو نہیں انشور نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔

یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی گناہ کا ارتکاب بھی عین جرم ہے، مگر اس سے بڑھ کر عین جرم یہ ہے کہ حلال و حرام کا تصور ہی مٹ جائے، اور محظيات شرعیہ کو مختلف جلوں بہاؤ سے حلال کر لیا جائے، افسوس ہے کہ بہت سے لوگ اس جرم عظیم کے بھی مرتكب ہو رہے ہیں، وہ گناہ کو گناہ سمجھ کر اپنے آپ کو لائق ملامت نہیں سمجھتے بلکہ اسے قتل غریز سمجھتے ہیں۔

حق تعالیٰ شانہ اس امت کی حفاظت فرمائیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم

کے طفیل دنیا و آخرت کی ذلت و رسائی اور عذاب سے بچائیں۔ آمین یا رب العالمین۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد  
النبی الامی و آلہ واصحابہ وابنابعه  
اجمعین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔

(بیت رقیع الثانی ۱۴۲۶ھ)

## گناہ اور تلافي گناہ کی صورتیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى - اما بعد -

حق تعالیٰ شاہزادے نے انسان کو پیدا فرمایا، اور اسے آخرت کی تیاری کے لئے دنیا میں بھیجا۔ حضرات انبیاء کرام علیهم الصلوٰۃ والسلام عقیدہ توحید و رسالت کے بعد سب سے زیادہ زور دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی پائیداری پر دیتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے :

وَإِنْ هَذِهِ الْمَالُ خَضْرَةٌ حَلْوَةٌ فَمَنْ أَخْذَهُ  
بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعْوَنَةُ هُوَ. وَمَنْ أَخْذَهُ  
بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَاكِلُ وَلَا يَشْعُرُ وَلَا يَكُونُ  
شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(متفق علیہ) ترجمہ : "اور بے شک یہ مال سربرز ہے، میٹھا ہے، اور جس شخص نے اس کو لیا حق کے ساتھ، اور اس کو خرچ کیا اس کے حق میں، پس یہ بہت ہی اچھا مددگار ہے، اور جس شخص نے اس کو لیا بغیر اس کے حق کے، وہ اس شخص کی مثل ہو گا، یوں کھاتا جائے، اور اس کا پیٹ ن بھرے، اور یہ مال اس پر قیامت کے دن گواہ ہو گا"۔

ایک اور حدیث میں ہے :

"فَوَاللّٰهِ لَا الْفَقْرُ اخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ  
أَخْشَى عَلَيْكُمْ إِنْ تَبْسَطُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا

بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما  
تنافسوها ونھلککم کما اھدکنہم۔" (متفق علیہ)  
ترجمہ : "پس اللہ کی قسم میں تمہارے حق میں فقر کا اندریشہ  
نمیں رکھتا، بلکہ میں تمہارے حق میں یہ اندریشہ رکھتا ہوں کہ  
دنیا تم پر پھیلا دی جائے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر  
پھیلا دی گئی، پس تم بھی اس کو حمایت نہیں سمجھ کر اس میں  
رغبت کرنے لگو، جیسے کہ پہلے لوگوں نے اس میں رغبت کی،  
اور یہ تم کو بھی بلاک کروے، جیسا کہ اس نے پہلے لوگوں کو  
بلاک کر دیا۔"

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تسلی اور عسرت میں خرج  
ہوئی، یہاں تک کہ سنہ ۱۰ھ میں غزوہ موت ہوا، تو اس کا نام "جیش الحسرہ"  
رکھا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم  
اجمعین پر مال و متاع کی اتنی تسلی تھی کہ لٹکر کا سامان بھی میا نہیں ہوا تا تھا  
جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا  
وصال اس حالت میں ہوا کہ آپ کی زرد چد صاع جو کے بدلتے میں گروی  
رکھی ہوئی تھی۔ فتح خیر کے بعد کچھ کشاٹش ہوئی تھی، لیکن جو کچھ آتا، وہ ہاتھ  
کے ہاتھ خرچ ہو جاتا، اور ایک دن بھی اس کو رکھنا گوارہ نہ فرماتے۔  
احادیث میں سینکڑوں نیں بلکہ ہزاروں واقعات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
کی تسلی میثاث، اور دنیا سے بے رغبتی کے موجود ہیں۔ ایک موقع پر  
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جدا طبری پر سکھور کی چنائی کے نشانات تھے  
عبداللہ ابن سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کی یہ  
حالت ہے، آپ اجازت دیں کہ ہم کچھ کما کر آپ کے لئے اچھا بستر بنادیں تو  
فرمایا : "مالی ولی الدنیا ما انا والدنیا کرا کب

استظل تحت شجرة ثم راح ونرکها۔ (مشکوہ ص ۳۳۲)

ترجمہ : "مجھے دنیا سے کیا واسطہ، میری مثال تو ایسی ہے کہ ایک مسافر نے تھوڑی دردخت کے نیچے آرام کیا، پھر اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔"

الغرض مومن کی سب سے اوپری خصلت دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت ہے، اس لئے ارشاد فرمایا کہ :

"الدنيا سجن المؤمن وحنة الكافر۔"

(ترمذی ص ۵۶ ج ۲)

ترجمہ : "دنیا مومن کے لئے بیل خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے۔"

جوں جوں قیامت کا زمانہ قریب آ رہا ہے، اسی نسبت سے دنیا سے بے رغبتی مت رہی ہے، اور دنیا کی رغبت بڑھ رہی ہے۔ یہ حروف تمہید ہیں اس خط کی جو ذیل میں نقل کیا جاتا ہے، اس سے اندازہ ہو گا کہ ہم دنیا میں کس قدر منہک ہیں، اور آخرت سے کس قدر غافل ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے گویا دنیا کو ہیشہ رہنے کی جگہ سمجھ لیا گیا ہے، اور ایمان بالآخرۃ کا تصور بت کر زور ہو گیا ہے۔ اب مندرجہ ذیل خط ملاحظہ فرمائیے :

محترم جناب مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب دام اقبالہ

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

آپ کی خدمت میں درج ذیل سوال پیش ہے براہ کرم شرعی طور پر جواب دیں، آپ کا عین کرم ہو گا۔

سوال : میرے والد آزادی پاکستان پر بھرت کر کے مستقل طور پر کراچی میں ہی مقیم ہو گئے تھے، میری پیدائش کی نسبت پاکستان سے وابستہ ہے، انڈیا سے بھرت پر والد نے اپنی تیز طرار طبیعت اور فعال زبان و عیاری و مکاری سے جھوٹے چے کلیم کرا کے اچھی خاصی جائیدادیں قابو کیں، اس طرح ابتدائی

ایام سے ہی پاکستان آمد پر خوشحالی کا دور ہم پر شروع ہو گیا، جب کہ لئے پہنچانے والے لوگوں کو طویل عرصہ تک افلام و غربت کا سامنا کرنا پڑا، دولت کی ریل پیل کی میٹا پر میرے علاوہ پانچ بھائیوں کی دنیاوی تعلیم و تربیت بہت بڑے انھی طور پر مشتمل اسکولوں میں ہوئی، چنانچہ مجھے فراغت تعلیم کے بعد فوری طور پر پولیس آفیسر کے طور پر ملازمت مل گئی، چھوٹے بھائی کو بیک آفیسر کی ملازمت ملی اور دیگر برادران میں سے ایک کو اکم نیکس میں ایک کو کشم میں جب کہ ایک بھائی کو کے ذمی اسے میں اور سب سے چھوٹے کو کے ای ایسی میں ملازمت مل جانے پر تھواہ کے علاوہ دن دو گنی اور رات چو گنی کے مصدق خوب حرام کمائی بصورت رشتہ آنا شروع ہو گئی اور اس طرح دولت کے ذمیر لگانا شروع ہو گئے، چونکہ ہم سب بھائیوں میں ایکا ویگا نگہت کا جذبہ بھیپن سے ہی موجود تھا چنانچہ ہم نے مشترکہ طور پر ایک عالیشان و سعی و عرض کوئی میں رہائش اغیار کی، راتم الحروف چونکہ پولیس میں اے ایس آئی بھرتی ہوا تھا، خوب رشتہ کا بازار گرم رکھا اور اعلیٰ عہدیداروں تک رسائی حاصل کی جب کہ چھوٹے بھائیوں میں سے بیک آفیسر نے سود کی کمائی سے بڑے فائدے حاصل کئے۔ سودی قرضوں کے حصول اور بکنوں کے واجب الادا قرضے مع سود کے معاف کرانے میں جو نام اس نے پیدا کی دنیائے بنکاری میں اس کی کوئی مثال پیش کرنا محال ہے۔ اکم نیکس میں ملازمت میرے بھائی نے اسکی کمی کے عمدے سے وہ کچھ فوائد حاصل کئے کہ خاندان بھر میں تو جو نام پیدا ہونا تھا وہ ہوا البتہ معاشرے میں "راشی بھائی" سے موسوم ہونے پر بڑی شرحت پائی۔ کشم آفیسر ملازمت میرے بھائی نے ایک اصول بنا رکھا ہے کہ "کسی کو نہیں بخشنا" چنانچہ غیر ممالک سے آنے والے پاکستانیوں سے غیر ملکی اشیاء، قیمتی کپڑا، پر قیمت سامان کے علاوہ فارن کرنی میں ڈالر، پاؤند، ین اور فرانک کی ریل پیل گھر میں رہتی، رشتہ کے نوتوں کی

بے قدر ہی کا حال یہ تھا کہ پچاس روپے کا پان اور مرغ مسلم کی دعوت کرنا اس کا عام شیوه تھا بست کے ای ایسی اور کے ڈی اے میں ملازم میرے دو توں مکین بھائی رشوت ضرور لیتے تھے لیکن ان کی آمدی کا مقابلہ میرے اور دیگر چار بھائیوں کی آمدی رشوت کے مقابلے میں کم تھا۔ بہر حال روزانہ دو تین ہزار کی پیدا وہ بھی کریتے اس طرح رشوت کی آمدی کا دور دو رہا، ہر روز کی رقم رشوت رات کو بچوں کی موجودگی میں جمع کرنے پر فرمائی لست کے مطابق تقسیم کی جاتی اور باقی رقم کو بچت کے طور پر محفوظ کر لیا جاتا، نظر بد سے محفوظ رہنے کے لئے اکٹروں نے لگانے کا اہتمام کیا جاتا جس میں غریب فقیروں کی شرکت کا بندوبست کیا جاتا ہم سب اپنی کامیابی اسی میں تصور کرتے، مجھے ہوش اس وقت آیا جب پانی سر سے اوپنجا ہو گیا یعنی جب میرے تین بچے مذکور بالترتیب پیدا ہوئے۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ یہ لا علاج ہیں۔ میں نے اپنی دولت اور اثر رسوخ ان کے علاج کے لئے وقف کردے تھے لیکن بالآخر ایک میڈیکل کافرنس میں پیش کئے گئے موضوع کے ان الفاظ نے مجھے نا امید کر دیا کہ ”سب سے زیادہ لا علاج اور بھیانک بیماریاں پولیس والوں کی نومولود اولاد کو لاحق ہوتی ہیں“۔ چنانچہ تحقیق کرنے پر مجھے احساس ہوا کہ رشوت خوروں کی گھروں کی زینت چونکہ حرام مال (رشوت سے ہوتی ہے) چنانچہ لا علاج بیماریاں بھی مفت میں راشی گھرانوں میں ہی پرورش پانے پر مخصوص نومولود بچوں کو پیدا نہ سے ہی نصیب ہو جاتی ہیں، ان معصوموں کا کوئی قصور نہیں ہوتا اصل ذمہ دارتوں کے والدین راشی لوگوں کو سزا ملنی چاہئے لیکن قدرت کا انتقام بھی بڑا بھیانک ہے، نفس چونکہ حرام سے قائم ہوتا ہے اس لئے راشی والدین کو بھی سزا ملتا شروع ہو جاتی ہے۔ ان تمام عبرت انگیز نشانیوں کو پالینے پر میں نے رشوت لینا چھوڑ دی لیکن جو رشوت لی گئی اس کے لئے آپ کا جواب ہے کہ اصل رقم حقداروں کو لوٹانی جائے۔

اس سلسلے میں میری دشواری یہ ہے کہ ملازمت کے دوران میرا تقریر کی تھا انوں میں ہوا جن لوگوں سے جائز و ناجائز کاموں پر میں نے خوب رشوت لی وہ سب کے سب نہ تو میرے واقع کا رتھ تھے اور نہ ہی کوئی معروف شخصیت تھے کہ ان کی تلاش آسانی سے کی جائے اکثر وفاہات پا گئے ہوں گے، اکثر ویژہ لفظ مکافی کر کے شر میں کسی دوسری جگہ یا شر کراچی سے اندر ون ملک چلے گئے ہوں گے اب میں ان کو کیسے تلاش کروں؟ اور ان کی رقم ان کو کیسے واپس کروں؟ ایام جوانی میں تو خوب رشوت کا بازار گرم رکھا اب بڑھا پے کی منازل سر پر ہیں، بے حد اذیت محسوس کرتا ہوں جب کہ میرے تمام بھائی باوجود میری مخالفت کے رشوت بلا خوف و خطر لیتے ہیں، میں خود کسی سے رقم طلب نہیں کرتا، اگر کوئی خود دے جائے تو لوٹا تا بھی نہیں البتہ ماتحت عملہ ”کم مکا“ کر کے از خود ہی میرا حصہ مجھے خاموشی سے لفافے میں سربھر کر کے پہنچا دیتا ہے جسے میں رد بھی نہیں کرتا، میرے مقابلے میں میرے بھائی اپنے اپنے مذکورہ حکموں میں تو باقاعدہ رشوت مانگ کر طلب کرتے ہیں، بچک میں ملازم بھائی نے سود کے کام پر اب کمیش مقرر کیا ہوا ہے، شرعی طور پر میرے متعلق کیا حکم ہے، بواب دین تاکہ اذیت سے چھکارہ پاسکوں۔

**جواب :** مکرم و محترم السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ

اللہ تعالیٰ کا لا کہ لا کہ شکر ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کو گناہ کا احساس ہو گیا، اور ساتھ کے ساتھ اس گناہ کی تلافی کا بھی احساس ہو گیا، اگر خدا نخواستہ آدمی گناہ کی حالت میں مر جائے، اور گناہ سے توبہ بھی نہ کرے تو اس کا جو حشر ہو گا، اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے۔ آپ کا معاملہ بہت پیچیدہ اور نازک ہے، اس سلسلے میں چند باتیں گوش گزار کرتا ہوں:

ا۔ آج تک بختی رشوت لی ہے، خواہ اس کی مقدار کتنی بھی ہے، اس پر بچے دل سے توبہ کریں، اور گھر میں بھوکے پیاسے مر جانا ہتر ہے، پہ نسبت اس کے

کہ رشوت کا ایک پیسہ گھر میں آنے دیں، آپ کے جو الہکار آپ کو بند لفافے میں رقم پہنچادیتے ہیں، ان کو صاف بتا دیں کہ میں اس کو زہر سمجھتا ہوں، اور کسی قیمت پر بھی رشوت کا پیسہ کھانے کا روادار نہیں ہوں، اس لئے یہ سلمہ بند کر دیں، اور اس سلمے میں آپ کو عزیز واقارب کی جانب سے، دوست اجاتب کی جانب سے، یوں بچوں کی جانب سے خواہ کتنی ہی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، مگر آپ یہ تصور کر لیں کہ میرا آخری دم ہے، اور ان لوگوں کا راضی ہونا یا ناراضی ہونا میرے لئے یکساں ہے۔

۲۔ اول سے لے کر آخر تک جتنا روپیہ آپ نے رشوت کا لیا ہے، نداشت کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ سے معانی ما انگلیں، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ یا اللہ! جو زہر میں نے کھایا ہے، قبر اور حشر میں اس پر مو اخذہ نہ فرمائیے، خوب رو رو کر اللہ سے معانی ما انگلیں۔

۳۔ پوری زندگی میں جتنا روپیہ رشوت کا آپ نے لیا ہے، اس کا اندازہ کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے عدد کریں کہ میں اس روپے کو واپس کروں گا۔

۴۔ جن لوگوں کا نام اور پڑہ آپ کو معلوم ہے، ان میں سے ہر ایک کے پاس جائیں، اور ہر ایک سے یہ بت کریں کہ میں نے تم لوگوں سے جو رشوت کا روپیہ پیسہ لیا ہے، راہ اللہ مجھے معاف کر دو، اور اگر معاف نہیں کر سکتے، تو انشاء اللہ میں کوشش کروں گا کہ آہستہ آہستہ تمہاری رقم واپس اوتا دوں۔

۵۔ اور جن لوگوں کا آپ کو علم نہیں، یا آپ کے ذہن میں نہیں، اندازہ کریں کہ آپ نے ان سے کتنا روپیہ لیا ہو گا، اور آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اتنا روپیہ ان لوگوں کی طرف سے غباء اور مسکین کو دیدیں، اور اگر اس کے لئے آپ کو اپنا مکان فروخت کرنا پڑے، تو اس سے بھی دریغ نہ کریں۔

یہ چند چیزوں میں نے مختصرًا ذکر کی ہیں، اگر مزید کسی چیز کی وضاحت مطلوب ہو تو آپ میرے پاس تشریف لا کیں۔ والسلام  
(اسلامی صفحہ افراد زندگی کا پیچی نومبر ۱۹۹۷ء)

## اسلام کا انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں پوپ جان پال دوم کے رفیقِ خاص کارڈینل کا اعتراف

مشکوٰۃ شریف میں بحوالہ صحیح بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آنحضرت ﷺ کا ایک ارشاد مقول ہے کہ ”رسول کریم ﷺ نے رمضان کی زکوٰۃ (یعنی صدقہ عید الفطر) کی تکمیلی اور جمع کرنے پر مجھے مامور فرمایا (تا کر جمع ہونے کے بعد آپ اسے فقراء میں تقسیم فرمادیں) چنانچہ (اس دوران) ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے (اپنے دامن اور اپنے برتن میں) غلہ بھرتا شروع کر دیا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ ﷺ کے پاس لے چلوں گا (اور تجھے اس غلط حرکت کی سزا دلوادیں گا) اس نے کہا کہ میں ایک محتاج ہوں میرے اوپر میرے اہل و عیال کا نفقہ ہے اور میں خخت حاجت مند ہوں (یعنی میرے ذمہ قرض وغیرہ بھی ہے) حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے (اس کی یہ خستہ حالت سن کر) اسے چھوڑ دیا، جب صحیح ہوئی تو رسول کریم ﷺ مجھ سے فرمانے لگے کہ: ”ابو ہریرہ! تمہارے گز شستہ رات کے قیدی کا کیا ہوا؟“ (اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو اس واقعہ کی خبر دے دی تھی) میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ!

جب اس نے غلہ بھرنا شروع کیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ ”میں آج تو مجھے ضرورتی رسول کریم ﷺ کے پاس لے جاؤں گا، یہ آخری تیرا موقع ہے، تو نے کہا تھا آئندہ نہیں آؤں گا (ایسی لئے میں نے تجھے پہلے چھوڑ دیا تھا) مگر تو پھر آ گیا؟“ اس نے کہا: ”مجھے چھوڑ دو میں نہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تجھے فتح پہنچائے گا (اور وہ یہ کہ) جب تم (سو نے کے لئے) اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکری ”اللہ لا إلہ إلّا هو أَكْبَرُ“ آخِر آیت (یعنی وہ عالی اعظم) تک پڑھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک تگجانب (فرشتہ) رہا کرے گا اور صبح تک تمہارے پاس کوئی شیطان (خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے، دینی یا دینوی، تکلیف و اذیت پہنچانے کے لئے) نہیں آئے گا۔“ میں نے (یہ سن کر) اس مرتبہ بھی چھوڑ دیا، جب صبح ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے مجھ سے پھر فرمایا کہ ”تمہارا قیدی کیا ہوا؟“ میں نے عرض کیا کہ ”قیدی نے (جب) مجھ سے یہ کہا کہ وہ مجھے کچھ کلمات سکھائے گا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے فتح پہنچائے گا (تو میں نے اس مرتبہ بھی اس کو چھوڑ دیا) آپ نے فرمایا ”آگاہ رہو! (اگرچہ) اس نے تم سے (ان کلمات کے پارے میں) بچ کیا (مگر) وہ (دوسرا باتوں میں) جھونٹا ہے، اور تم جانتے ہو کہ تم ان تین راتوں میں کس سے مخاطب تھے؟“ میں نے کہا کہ ”نہیں!“ آپ نے فرمایا: ”وہ شیطان تھا (جو اس طرح کر و فریب سے صدقات کے مال میں کمی کرنے آیا تھا)۔“ (بخاری، محدثہ ص: ۱۸۵۱ افضل قرآن)

وہ مجھ سے اپنی سخت حاجت اور عیال داری کا روشنارونے لگا، اس نے مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا: ”خبردار رہنا! اس نے (اپنے حالات کے اظہار میں) تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا (اس نے آئندہ احتیاط رکھنا) میں سمجھ گیا کہ ضرور آئے گا کیونکہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”وہ پھر آئے گا“ چنانچہ میں اس کا منتظر رہا، وہ دوبارہ آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس نے غلہ بھرنا شروع کر دیا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ (اب تو) میں تجھے رسول کریم ﷺ کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں ضرورت مند ہوں میرے اور کہہ کا نفقہ ہے، اب آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے پھر اسے چھوڑ دیا (اور اس مرتبہ میں نے یہ سلوک اس نے کیا کہ اس نے آئندہ نہ آنے کا وعدہ کیا تھا، ورنہ تو اپنی حاجت و ضرورت کے بارے میں اس کا جھوٹ بخدا صادق یعنی آنحضرت ﷺ کی زبانی معلوم ہو ہی چکا تھا) جب صبح ہوئی تو رسول کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ ”ابو ہریرہ! تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟“ میں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! وہ میرے سامنے اپنی شدید ضرورت و حاجت اور عیال داری کا دکھڑا رونے لگا، اس نے مجھے اس پر رحم آگیا اور میں نے (اس کے اس وعدہ پر کہ آئندہ پھر بھی نہیں آؤں گا) اس کو چھوڑ دیا۔“ آپ نے فرمایا: ”ہوشیار رہنا! اس نے (اس مرتبہ بھی) جھوٹ بولا ہے (کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا) وہ پھر آئے گا۔“ چنانچہ میں اس کا منتظر رہا اور وہ پھر آیا،

جس طرح آنحضرت ﷺ نے اس حدیث مبارک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو شیطان کے متعلق فرمایا تھا کہ ”وہ تھا تو جھونا، مگر اس نے آئی الکری کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ کہا تھا کہا۔“ نحیک اسی طرح یہ ارشاد تجوی (ﷺ) پوپ جان دوم کے رفیق خاص جناب کارڈینل پر صادق آتا ہے کہ موصوف باوجود عیسائی تعصب و تھج نظری کے، اسلام کی حقانیت و صداقت، ہمہ گیری و جامعیت اور اعتدال و میاز روی کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکے، انہوں نے اسلام کے بارے میں جو کچھ کہا تھا ہے، چنانچہ وہ اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں:

”اسلام کا انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں۔“

”مگر یہ مغرب کے لئے چیز ہے، کارڈینل پال پوپارڈ۔“

”روم (جنگ نیوز) پوپ جان پال دوم کے رفیق خاص کارڈینل پال پوپارڈ نے کہا ہے کہ اسلام کا انتہا پسندی یا تندید سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ تیزی سے چیلنے کے باعث مغرب کے لئے چیلنج بنا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ اسلام ایک دین، ثقافت اور طرز زندگی ہے، ٹکیساوس کی کوسل کے چیزیں میں نے کہا کہ صدیوں سے اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جبکہ یورپ کے بہت سے سیکی، زندگی کی ضروریات کے تحت چرچ سے رعایتیں حاصل کرتے رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یورپ میں اسلام کی موجودگی محسوس کی جا رہی ہے۔“

(روزنامہ جنگ کرایی ۱۵ اکتوبر ۱۹۹۹ء، ص: ۱۰)

بلاشبہ اسلام دین فطرت اور افراط و تفریط سے پاک ہے، انتہا پسندی اور ظلم و تحدی سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، اسلام ایک بہترین معاشرت اور بے مثال تہذیب و ثقافت کا نام ہے، وہ ہر انتہا سے کامل و مکمل اور عدل و انصاف کا مذہب ہے، جو

شخص تعصب کی عینک اتار کر ایک بار غور سے اس کا مطالعہ کر لے، ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کا اسیز اور گروہیدہ ہو جاتا ہے۔

روں، امریکہ اور یورپ سمیت پوری دنیا کے کفر اس سے اس نے خائف ہے کہ اسے خطرہ ہے، اگر اشاعت اسلام کی موجودہ رفتار کو نہ روکا گیا تو یہ نیز تباہ پوری دنیا کو منور کر دے گا۔

اسی نے اسلام کو بدنام کرنے کے لئے پروپیگنڈہ کیا جاتا ہے کہ اسلام قتل و غارت کا مذہب ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں انسانی حقوق کی پاسداری نہیں ہے، کبھی یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، کبھی یہ اعلان ہوتا ہے کہ اسلام بنیاد پرستی کا مذہب ہے۔

جب کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت و صداقت، اعتدال و میاز روی، پاکیزہ اصول و ضوابط اور طرز حیات، ملت کفر کے لئے چیلنج ہے، وہ اس سوچ سے پریشان ہے کہ اگر اقوام عالم نے اسلام کو قریب سے دیکھ لیا تو ہمارا سر نوث جائے گا، اس نے کبھی اس پر روشن حملہ آور ہوتا ہے تو کبھی امریکہ بہادر اس کو نیت و نابود کرنے کے خواب دیکھتا ہے۔

افغانستان میں میں لاکھ فرزندان تو حید کو محض اس وجہ سے موت کے گھاٹ اتارا گیا کہ وہ اسلام کا نام لیتے ہیں، بوشنیا اور چچینیا کے مسلمانوں پر صرف اس نے مظالم کے پھاڑ توڑے جاری ہے ہیں کہ وہ اسلام سے والیگی کا اظہار کرتے ہیں، میں سالہ جنگ سے تباہ حال افغانستان ان کی آنکھیں میں اس نے مکھلتا ہے کہ وہاں قرآن و سنت کا قانون رائج ہے، اسماہ بن لادون ان کا دشمن اس نے ہے کہ وہ اسلام کی بات کرتا ہے، پوری دنیا کے اسلامی ممالک اس نے ان کے غیظ و غضب کا نشانہ ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اسلامی اقدار کو سیدھے سے کیوں لگاتے ہیں؟ ملت کفر کو یہ برداشت نہیں کر مسلمان سرانجام کر کیوں چلتے ہیں؟ اور اسلام کیوں پھل پھول رہا ہے؟

افغانستان پر اقتصادی پابندیاں عائد کرنا اور جاہ حال افغان عوام کو معاشری بدحالی سے دو چار کرکے ہلاکت کے دہانے پر لاکھڑا کرنا اسی سلسلہ کی کڑی ہے، کیا عراق، بیجیا اور افغانستان کے علاوہ پوری دنیا میں کسی دوسرے ایسے غیر مسلم ملک کی بھی نشاندہی کی جاسکتی ہے، جس پر امریکہ اور اس کے حواریوں نے کبھی اقتصادی پابندی انگائی ہو؟ کیا امریکہ کی ناجائز اولاد اسرائیل، مسلمانوں پر مظالم کے حوالے سے اس قابل نہیں کہ اس پر اقتصادی پابندی لگا کر اسے عقل سکھائی جائے؟ کیا اسرائیل سفارتی اور کشمیر میں مسلمانوں پر اندرین آرمی کے مظالم کے دل دوز مناظر امریکہ کو نظر نہیں آتے؟ انڈونیشیا میں مشرقی تیمور نام کی عیسائی ریاست تو راتوں رات قائم ہو سکتی ہے، مگر کشمیری مسلمانوں کو ۵۲ رسال جدوجہد کے باوجود خود ارادت کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے؟ کیا اسرائیلی درندوں کی طرف سے فلسطینی عوام کا قتل عام، بیت المقدس پر قبضہ اور اس کی توبیہ، امریکہ اور اس کے حواریوں کی آنکھوں سے اوچھل ہیں؟ اسلام کو متعصب، جنگ نظر اور تشدد کا نہ ہب کہنے والے ذرا اپنے مناقابلہ کردار، مذہبی تعصبات،

جنگ نظری اور متفہماہ پالیسیوں پر بھی نظر کریں؟

بلash بپ پاں جون دوم کے رفیق خاص جناب کارڈینل کالیج تجویز سو فیصد صحیح ہے کہ "اسلام کا انہتا پسندی یا تشدید سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ تمیزی سے چھلنے کے باعث مغرب کے لئے چیلنج بنا ہوا ہے، اور یورپ میں اسلام کی موجودگی محسوس کی جا رہی ہے۔" جو پوری دنیا کے لئے ناقابل برداشت ہے، امت مسلمہ کو چاہئے کہ وہ اپنے مشترکہ جنگ کو پیچا نہیں اور اس کے خلاف متحد ہو کر اس کی بدمعاشی کا مقابلہ کریں اور ان کے خلاف اعلان جنگ کریں ورنہ ان کو صفائی حق سے منادیا جائے گا۔  
(ماہنامہ میہمات رمضان ۱۴۲۰ھ)

## علماء کی ذمہ داریاں

پنجاب کے گورنیٹ یونیورسٹی جزل سوار خان نے لاہور میں صوبہ کے مذہبی راہنماؤں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے علماء کی زور دیا ہے کہ وہ اتحاد اسلامی اور ملکی تحفظ کے لئے اپنا کردار ادا کریں، انھوں نے کہا کہ علماء ایک نئے جذبہ کے ساتھ اُخیں اور معاشرے سے ناپسندیدہ عناصر کو نکالتے ہوئے ایک نئے معاشرتی ڈھانچہ کی بنیاد رکھیں۔

علماء کے جن فرائض کی طرف جناب گورنر نے توجہ دلائی ہے وہ بے حد اہمیت رکھتے ہیں۔ علمائے امت کو حق تعالیٰ شانہ نے علوم نبوت کا حامل و امین بنایا ہے۔ اور امت کی اصلاح و ارشاد، امر بالمعروف و نبی عن الہنکر اور دعوت الی اللہ کی عظیم ترین ذمہ داریاں ان کے پر دی ہیں اور علمائے ربانی نے اپنی ان ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے محض رضاۓ الہی کی خاطر، لائق رشک خدمات انجام دی ہیں۔ آج حالات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو علمائے امت کی ذمہ داریاں کئی گناہ بڑھ گئی ہیں۔ اس لئے کہ اخدا و زندق اور لادینیت کا طوفان برپا ہے۔ قوم کے ذہن سے فکر آخرت اور محاسبہ فردا کا احساس مت رہا ہے۔ اسلامی فرائض و شعائر کی اہمیت والوں سے نکل رہی ہے، زرکشی، دنیا طلبی، کھلیل تماشے، عیش و عشرت اور نمود و نماش کے مصنوعی مظاہرے زندگی کا محور بن کر رہ گئے ہیں۔ دوسری طرف دنیا کی بڑی طاقتیں اس قوم کے خواب غفلت سے فائدہ اٹھا کر اس پر شب خون مارنا چاہتی ہیں، عالمی

حالات کچھ ایسے پیدا کئے جائے ہیں کہ افغانستان کی طرح ایران، پاکستان اور مشرق وسطیٰ کو میدان جنگ کا ایندھن بنایا جائے، ان پر آشوب حالات میں علامہ کی معمولی غفلت و کوتاہی یا غلط فکری و غلط اندیشی نہ صرف ان کے لئے بلکہ اس پوری قوم کے لئے جس کے وہ مقتدا ہیں، تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔

علامہ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ان کا اصل سرمایہ توکل ہے، ان کا اصل پیشہ ایثار و قاتعت ہے، ان کا اصل اعزاز تقویٰ ہے، انہیں آنحضرت ﷺ کی یہ دعا یاد ہے:

”اللَّهُمَّ أَغْنِنِي بِالْعِلْمِ وَزِدْنِي بِالْجِلْمِ وَاكْرِمْنِي  
بِالْقُوَّى وَجَعْلْنِي بِالْغَافِيَةِ“

(کنز الاحوال ج ۲ ص: ۱۸۵، ۳۶۲۳: ۲۷۵۸)

”اَللَّهُمَّ اعْلَمْ مِنِّي بِمَا فِي قَلْبِي، اَحْمَدْ مِنِّي  
آرَاسَةً فِيمَا فِي قَلْبِي، تَقْوَىٰ كَمَا سَاتَحَ بِهِ مَجْهَةُ عَزَّتِي وَكَرَامَةُ عَطَاءِي  
عَافَيْتَ كَمَا سَاتَحَ بِهِ مَجْهَةُ جَمَالِ عَطَاكَرِي۔“

انہیں آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی بھی یاد ہے:

”سَبَ سَبَرْتُ خَيْرَ كَيْزِ اَنْجَھَ عَلَامَ ہیں اور سب سے  
بَدْرَ بَرَائِی بَرَے عَلَامَ ہیں۔“

وہ اس ارشاد نبویؐ سے بھی واقف ہیں:

”عَلَامَ دِينَ کے امین ہیں، جب تک وہ حکام (کی  
خوشنودی کے لئے ان) سے ربط نہ رکھیں۔ اور جب وہ حکام  
سے گھل مل جائیں، تو ان سے پر حذر رہو کیونکہ وہ دین کے چور  
ہیں۔“

اس لئے علامہ کا سب سے پہلا فرض تو یہ ہے کہ کسی دینیوں مخاد اور کسی صلةٰ  
ستاش کی پرواکے بغیر خدا کے دین کی دعوت دیں، مخلوق کی مدح و ستاش، تعریف و  
توصیف یا مذمت و نکوش پر ان کا نظر رکھنا ان کے حق میں زہر قاتل ہے، خدا نخواست  
جس دن یہ زہران کے جسد علم میں سرایت کر گیا، انہیں یقین رکھنا چاہئے کہ وہ دن  
ان کے علم کی موت کا دن ہو گا۔

ان کا دوسرا فرض یہ ہے کہ وہ مخلوق کے لئے سرپا شفقت ہوں، ان کے  
سینے میں خدا تعالیٰ کی مخلوق کے لئے رافت و شفقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوں  
چاہئے، وہ ہمیشہ اس تسب و تاب میں رہیں کہ خدا کی بھولی ہوئی مخلوق جو دنیا کی عشہ  
طرازیوں پر فریفہ ہو کر خدا تعالیٰ کے احکام سے برگشت ہو رہی ہے، اسے کس طرح خدا  
تعالیٰ کی طرف دوبارہ بلا یا جائے؟ انہیں آنحضرت ﷺ کا ارشاد یاد ہے:

”عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ مَالِفَةُ وَلَا  
خَيْرُ فِيمَنْ لَا يَأْلِفُ وَلَا يَرْلُفُ۔“

(مسداحم ح: ۵ ص: ۳۳۵)

”مُؤْمِنٌ سَرِّاً افتَ ہوتا ہے، اور اس شخص میں  
کوئی خیر نہیں جو نہ خود کسی سے افت کرے، نہ اس سے کوئی  
افت کرے۔“

معاشرے کے کسی طبقے کا کیسا ہی کوئی گزارے گئے گار آدی بھی ہو، تم اس  
کو بھی فخرت کی ٹگاہ سے نہ دیکھیں بلکہ شفقت و ہمدردی کے ساتھ اس کی اصلاح کی

تدبیر سوچیں۔ اس لئے کہ نفرت بیمار سے نہیں ہوتی، بلکہ بیماری سے ہوتی ہے۔ ان کا ایک فریضہ خود احتسابی ہے، ان کو ایسا بلند کردار ہونا چاہئے کہ کوئی شخص ان پر انگشت نہیں نہ کر سکے، تقویٰ و طہارت اور تعلق مع اللہ کی وہ کیفیت ان میں ہوئی چاہئے جو خود انہیں محترمات الہیہ سے محفوظ رکھے اور وہ معاشرے کے لئے بھی ہادی و مصلح بن سکیں، اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود ہر وقت اپنی کمزوریوں کا جائزہ لیتے رہیں، اور ان کی اصلاح کے لئے نکر مندر رہا کریں، چھوٹی چھوٹی فروٹی باتوں پر لڑنا جگڑنا بھی ان کی بلندی منصب کے شایان شان نہیں، جہاں اصول پامال ہو رہے ہوں، جہاں قطعی حدود الہیہ مٹ رہی ہوں، جہاں دہریت کا سلاب اسلامی اقدار و شعائر کو بھائیے جارہا ہو، وہاں فروٹی سائل پر اکھاڑے جانا و انشدی کا تقاضا نہیں ہو سکتا۔

یہ چند امور علماء کرام کی خدمت میں محدث کے ساتھ عرض کئے گئے ہیں، اسی کے ساتھ ہم ارباب اقتدار اور عام مسلمان بھائیوں سے بھی اتنا کریں گے کہ علماء کو نصیحت کرتے ہوئے انہیں خود بھی محسوس کرنا چاہئے کہ اصلاح معاشرہ کے کام میں وہ علماء سے کس حد تک تعاون کر رہے ہیں؟  
(افتتاحیہ صفحہ، اقراروزنامہ جنگ کراچی ۷ مارچ ۱۹۸۰ء)

## اسلام دینِ فطرت!

اسلام خالق کائنات کا آخری پیغام ہدایت ہے جو انسانیت کی رہنمائی، اس کی کامیابی اور اس کی دینی و اخروی سعادت کے لئے نازل کیا گیا ہے اس لازوال نعمت کا جتنا شکر بجا لائیں کم ہے کہ آج دینِ اسلام کے سوا سطح زمین پر کوئی ایسا ناقام زندگی موجود نہیں جس کا کوئی بدلتا ہو، جسے خود خالق کائنات نے انسانی فطرت کے لئے ناپ تول کر تجویز کیا ہو، اور جس کا ایک ایک حکم عقل دفترت کے بیانوں پر تھیک تھیک پورا اترتتا ہو۔

آج کا دور تہذیب و تمدن اور عروج و ترقی کا دور سمجھا جاتا ہے، ترقی نے انسان کے لئے وہ سہولتیں فراہم کر دی ہیں جن کا ایک ذیڑھ صدی پہلے تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا، لیکن اس ترقی نے بہت سی قوموں کو برخود غلط فہمی میں بٹلا کر دیا ہے، انہوں نے اپنی کوتاہ نظری سے اسی مادی ترقی کو انسانیت کے لئے معراج سمجھ دیا، اور دھی الہی اور انہیاے کرام علیہم السلام سے اپنی عصی و فہم کی کمزور بیانادوں پر تہذیب و تمدن کی فلک بوس عمارتیں اخھانا شروع کر دیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کا ترقی یافتہ انسان باوجود سب کچھ ہونے کے بے چین اور بے قرار ہے، وہ آرام کی نہیں سونے کے لئے مصنوعی ذراائع کا محتاج ہے، ول بھلانے کیلئے مختلف تنفسی مشاغل و حوصلہ تا ہے، اعصاب کو معطل کرنے کیلئے منشیات کی طرف درستا ہے، جدید تمدن کے بوجھ

تلہ و ب کروہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہ کس لئے پیدا ہوا؟ اس لئے کہ خالق فطرت نے انسانی فطرت کیلئے جو نظام تجویز کیا تھا، انسانیت کے ناخداوں نے اس فطری نظام کو پس پشت ڈال دیا۔ انبیاءؐ کرام علیہم السلام نے وجہ الہی کی روشنی میں انسانی قافے کے لئے جو شاہراہ تھیں کی تھی، دور جدید کا انسان اس شاہراہ سے بھیک گیا، آج انسان تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں مگر فلاج و سعادت کی بلندیوں کی طرف نہیں بلکہ بڑا ہلاکت کے گڑھ کی جانب۔ آج انسانیت کی سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ انسانیت کے بھنکے ہوئے قافلے کو شان منزل دیا جائے، سکتی ہوئی جاں بدل انسانیت کا مدارادی الہی اور تعیینات اسلامیہ سے کیا جائے۔ انسانیت کی خدامت کا یہ فریضہ عالم اسلام کے قائدین پر عائد ہوتا ہے اور اسلام کا مکمل طور پر عملی نفاذ ہی تہذیب کے خلاوں میں بھنکی ہوئی انسانیت کو فرحت و سرست کا پیام جانفرزا دے سکتا ہے۔

اس فریضہ سے عہدہ برآ ہونے کے لئے مسلمانوں کو چار چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ انہیں اسلام کی افادیت پر غیر منزول ایمان و یقین ہونا چاہئے جس طرح سورج ہزاروں برس سے ہر سچ نکلتا ہے اور ہر شام کو غروب ہوتا ہے، اور آج تک کسی ذی ہوش کو اس کی روشنی کی افادیت میں شک نہیں ہوا اور نہ کوئی شخص اس میں کسی جدت کا خواستگار ہے، نہ اس کی کمگی سے کوئی استہانت محسوس ہوتی ہے، تھیک اسی طرح اسلام کا آفتاب ہدایت آج سے چودہ سو برس پہلے چکا تھا آج بھی تابندہ و درخشاں ہے، اور اس کی روشنی جس طرح اس وقت حیات بخش تھی آج بھی روح افراہ ہے، اور جس طرح کل کامل و مکمل تھا آج بھی اس کا ہر ایک حکم کامل و مکمل ہے، زمانہ لاکھ بد لے اگر وہ سورج کی روشنی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اس طرح تہذیب و تدن

کے قافلے عروج و ترقی کی خواہ کتنی ہی منزیلیں طے کر لیں مگر وہ قور اسلام سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ جب تک مسلمانوں کے والوں میں ایمان نہ ہو وہ شاہراہ حیات میں کوئی پیش قدمی نہیں کر سکتے اور نہ وہ دنیا کی رہنمائی کے اہل ہو سکتے ہیں۔ ماضی قریب میں مسلمانوں پر جو کفر کے سائے صحیح ہوئے اور انہیں دنیا کی امامت کا منصب چھوڑ کر غلامی اختیار کرنا پڑی اس کا برواب سبب ان کی ایمانی کمزوری تھی، اب پھر ان کو قیادت و امامت کا علم ہاتھ میں لینا ہے تو انہیں غیر منزول ایمان و یقین پیدا کرنا ہو گا۔

دوسری چیز عمل کی غیر معمولی قوت ہے، آپ کے پاس اگر اچھی دوائی موجود ہو، جب تک آپ اسے استعمال نہیں کرتے اس سے صحبت و شفا بخشی کی توقع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح صرف ہماری نہیں، بلکہ پوری انسانیت کی تمام مشکلات اور بیماریوں کا حل اسلام ہے۔ لیکن کب؟ جب کہ تم اسے استعمال بھی کریں، یہ کہ اسلام میں تغیریق نہ روا رکھی جائے کہ اس کے بعض پر عمل کر لیا اور بعض کو معطل چھوڑ دیا بلکہ حق تعالیٰ شانہ نے ہماری زندگی سے متعلق جو احکام دیے ہیں انہیں مکمل طور پر اپنالیا جائے اور عبادات نیز اخلاق، معاشرت، معاملات، تغیریات اور سیاست کے تمام شعبوں میں ترویج دی جائے۔

اور چوخی اور آخری چیز یہ کہ صرف اسلام کو خود اپنانے اور اس سے خود مستفیض ہونے پر اکتفانہ کیا جائے بلکہ تمام احکام پر عمل اور قول و فعل سے اس کی دعوت دی جائے۔

درصل یقین اور دعوت یہ دو چیزیں لگی ہیں کہ اگر یہ کسی کو میسر آجائیں تو اسے بھی چکا دیتی ہیں اور پورا معاشرہ بھی اس سے ترقی کرتا ہے، اور اگر صحیح چیز سے کوئی محروم ہو جائے تو اس کی افادیت مشکوک ہو کر رہ جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ

ایک پانچوں چیز بھی ضروری ہے جس کی بہت افادت ہے اور وہ یہ کہ ان تمام غیر اسلامی رکاوٹوں کو صاف کیا جائے جو اس کے راستے میں حائل ہیں، ان تمام غیر اسلامی بنیادوں کو اکھاڑ دیا جائے جو معاشروں نے استوار کی ہیں، ان ساری غلطیوں کی اصلاح کی جائے جو جمادات کی بدولت ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہیں۔

خلاصہ یہ کہ تفاذ اسلام کا جو تجربہ پاکستان میں شروع کیا جا رہا ہے اگر اس کو کامیابی حاصل ہوگئی تو نہ صرف مسلمانوں کے لئے باعث رحمت و برکت ہے، بلکہ پورے عالم کے لئے مثالی نمونہ ہوگا۔ حق تعالیٰ شانہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے دین اسلام کی پاسبانی کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی برکت سے پاکستان کو نوازے، اور ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔

(افتتاحی صفو اقراء روزنامہ جنگ کراچی ۹ مارچ ۱۹۷۹ء)

## علماء اور خطباء کے لئے چند تجویز

حضرات علماء کرام اپنے حلقات میں دین کے پیشوں اور قوم کے مقتدا ہیں۔ ان کے اس رفع منصب کے لحاظ سے ان پر بڑی گرانقدر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس لئے ہم بہ کا فرض ہے کہ ان عظیم الشان ذمہ داریوں کو پوری طرح محسوس کریں اور ان سے عمدہ برآ ہونے کی تذکیر کریں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جولات ہمارے پرد کی گئی ہے اس کے لئے ہم انگریز ہوں اور امت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر لانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔

ا۔ جو حضرات امامت و خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، انہیں اس بات کی حرص ہونی چاہئے کہ ان کے وجود سے علاقے کے لوگوں کو زیادہ دینی نفع پہنچے اور لوگوں کا تعلق مساجد کے ساتھ قائم ہو۔ اس کے لئے مدرجہ ذیل تدابیر اختیار کی جائیں۔

الف : قرآن کریم، حدیث نبوی اور مسائل ترقیہ کا درس باقاعدگی اور انتظام سے دیا جائے اور ان کے لئے مناسب وقت تجویز کیا جائے۔

ب : جن مساجد میں قرآن کریم کے مکاتب نہیں وہاں قائم کئے جائیں اور جمل مکاتب قائم ہیں ان کی نگرانی کی جائے، ان کو فعل بنتایا جائے اور ترغیب دے کر

بچوں کو وہاں لایا جائے مگر محلے کا ایک بھی پچھے ایسا نہ رہے جو کم از کم ناظروں قرآن کریم پڑھنے سے محروم ہو۔ اسی طرح لوگوں کو قرآن کریم حفظ کرنے کی ترغیب ولائی جائے۔

ج : تعلیم بالغ کا بھی اہتمام کیا جائے اور لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے کا شوق دلایا جائے، نیز اس مقدس کام کے لئے خود وقت دیا جائے۔  
د : نوجوان طبقہ کو دین سے مانوس کرنے کی سعی کی جائے اور ان کی وینی تعلیم و تربیت کے لئے بھی وقت دیا جائے۔

ہ : جمعہ کے خطبات کیف مالتفق نہ ہوں بلکہ ان کے لئے اہم وینی موضوعات کو ایک خاص ترتیب سے فتحب کیا جائے اور جس موضوع پر خطاب کرنا ہو اس کے لئے پوری تیاری کی جائے، نیز موثر انداز میں موضوع کا حق ادا کیا جائے۔ خطابت میں تزیینی پسلوں کو غالب رکھا جائے اور بات ایسے بچے تھے انداز میں کی جائے جس سے نہ صرف بات ذہن نہیں ہو جائے بلکہ سامنے کی غلکری و عملی اصلاح بھی ہو۔

و : جن مساجد میں تبلیغی جماعت کے حلقے قائم ہیں ان سے ربط و تعلق رکھا جائے، ان کی بھروسہ احانت و سرپرستی کی جائے اور نوجوانوں کو ترغیب دے کر تبلیغی جماعت سے وابستہ کرنے کی ہر ممکن سعی کی جائے۔

ز : جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ فرقہ باطلہ اور قدیم و جدید محدث نظریات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ہم اس کو شدت کے ساتھ محسوس بھی کرتے ہیں لیکن یا تو اس کی اصلاح کی کوئی تدبیر نہیں کرتے یا ان کا رد ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ بچے لوگوں کے ذہن کو صاف کرنے کے انہیں تنفس کر دیتے ہیں، اس لئے بڑی ضرورت ہے کہ تمام فرقہ باطلہ (مثلاً قادیانیت، رفض "انکار حدیث"، انکار عظمت صلحہ)

ہ، پیش از مکیونزم اور لاادینیت وغیرہ) پر گمراہی کی جائے مگر کوئی گھنی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور ثابت انداز میں قوم کے ذہن کی تحریر کی جائے۔ تقریب میں کسی خاص فرقہ یا نظریے کا نام لئے بغیر وقا" فوقا" باطل نظریات کی اصلاح کی جاتی رہے، مثلاً انکار حدیث کے فتنہ کی اصلاح مقصود ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات طبیعت کی عظمت اس طرح ابھاگر کی جائے کہ منکرین حدیث کا سحر نہ ٹوٹ جائے۔ رفض و تشیع کی تردید منظور ہو تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل و مناقب والہانہ انداز میں بیان کئے جائیں۔ قادیانیت کی تردید مقصود ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تفاصیل ذہن نہیں کرائے جائیں۔ اور استخفاف ائمہ دین کی اصلاح مقصود ہو تو حضرات ائمہ اہلسنت کی اہانت کا مہوش انداز میں تذکرہ کیا جائے۔ — اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انفرادی و جمیع محققوں میں بھی فرقہ باطلہ کا رد کیا جاتا رہے۔ خصوصاً اگر کوئی شخص کسی غلط نظریے سے متاثر ہوتا نظر آئے تو بت حکمت و دلائی اور نرمی و شفقت سے اس کو صحیح بات کی تلقین کی جائے اور اس کی غلط فہمی کی اصلاح کی جائے۔

ح : خطبات کے دوران نیز جمیع محققوں میں صحابہ کرام اور بزرگان دین خصوصاً اپنے اکابر دیوبند کے حالات و واقعات اور ملفوظات و ارشادات بیان کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ حکایات و واقعات سے اکابر سے عقیدت پیدا ہو گی اور یہی تمام بدعاں اور سارے فتنوں کا تریاق ہے۔

۲۔ جو حضرات تجارت یا کاروبار کی لائن سے وابستہ ہیں وہ اس کو صرف اپنا ذریعہ معاش نہ سمجھیں۔ بلکہ اسے ذریعہ تبلیغ اور مرکز دعوت تصور کریں، اور اس کے لئے مندرجہ ذیل تدابیر ہو سکتی ہیں۔

الف : بیع و شرا اور کاروبار سے مختلفہ احکام شرعیہ کو خوب محفوظ کیا جائے

نبوی کی عظیم الشان نعمت سے نواز کر اس بگئے ہوئے ماحول کے لئے میجا بنا کر یہاں بھیجا ہے اور جو دولت ان کے سینے میں حق تعالیٰ نے ودیعت رکھی ہے وہی اس ماحول کے لئے ترباق ہے اس لئے انہیں خود اس ماحول کے مطابق نہیں ڈھلانا ہے بلکہ اس ماحول کو سنت نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مطابق ڈھلانا ہے۔

ب : وہ اپنے رفقاء کار (اساتذہ) کو دین کی ترغیب دیں۔ اپنی تعلیم گاہ میں دینی شعائر کی سربلندی کے لئے تدبیر سوچیں اور اس کے لئے مناسب انداز میں مشورے دیں۔

ج : جو طلبہ ان کے ہاں زیر تعلیم ہوں ان میں دینی رنگ پیدا کرنے کی کوشش کریں، انہیں قرآن و حدیث کی ہدایات سے آگہ کریں۔ بزرگان دین کے واقعات نائیں، انہیں یہی کی ترغیب دلائیں۔ اخلاق حسن کی تلقین کریں اور دینی فرائض کی پابندی کا شوق دلائیں۔

د : نوجوان طلبہ کو ”تبليغی جماعت“ میں وقت دینے کی ترغیب دیں اور انہیں جماعت سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں۔

الغرض حضرات علماء کرام جس شعبہ میں بھی کام کر رہے ہوں، اپنے آپ کو دین کا مبلغ تصور کریں اور مخلوق کو زیادہ دینی نفع پہنچانے کا فکر و احتمام کریں۔

۲..... وہ سروں کی فکر کے ساتھ خود اپنی تحریک کی فکر اور اپنے علم اور جذبہ عمل کو تازہ رکھنا بھی نہیت ضروری ہے اور اس کے لئے مندرجہ ذیل تدبیر کی جائیں  
الف : علمی ترقی کے لئے قرآن کریم، حدیث نبوی اور فقہ و فتویٰ کا مطالعہ جاری رہنا چاہئے۔

اور ان پر عمل کیا جائے۔  
ب : جو گاہک و کلان پر آئے یا جس شخص سے معاملہ کرنا پڑے۔ باقتوں باقتوں میں اس کو احکام شریعت کی یادوہانی کی جاتی رہے۔

ج : اس امر کی کوشش کی جائے کہ آس پڑوں کے وکانداروں کے ساتھ کچھ دینی باتیں ہو جلایا کریں اور اس کے لئے کچھ لمحات تجویز کر لئے جائیں۔

د : بازار میں حق تعالیٰ سے غفلت چونکہ عام ہوتی ہے اس لئے وہاں ذکر اللہ کی قیمت بستہ برہہ جاتی ہے۔ اللہ اکو شہ ہونی چاہئے کہ کوئی بلا کچھ لکا ذکر، تسبیح، درود شریف وغیرہ زبان پر جاری رہے اور اس کی عادت بنائی جائے۔

ه : کاروبار میں عام طور پر نمازوں سے غفلت ہو جاتی ہے اس لئے اس کا ضروری اہتمام کیا جائے کہ اذان ہوتے ہی قریب کی مسجد میں نماز باجماعت ادا ہو۔

و : حضرات محلبہ کرام بزرگان دین اور اپنے اکابر کے واقعات و حالات کا مطالعہ اور نہ آکرہ رکھا جائے۔

۳..... جو حضرات جدید تعلیم گاہوں میں تعلیم و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو حق تعالیٰ نے دینی وعوت کا ایک اہم اور وسیع میدان عطا فرمایا ہے، وہ اپنے عالمانہ وقار اور مومنانہ کروار کے ذریعے دین کی بڑی خدمت انجام دے سکتے ہیں۔

الف : آج کل تعلیمی اواروں کا ماحول غیر دینی ہے۔ ہمارے علمائے کرام جب اس غیر دینی ماحول میں قدم رکھتے ہیں تو ماحول کو متاثر کرنے کے بجائے بساوقدات خود ماحول سے متاثر ہو کر احساس کتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ماحول ان کے علمی و دینی اقدادات سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان حضرات کو ماحول سے مرعوب نہیں ہو جانا چاہئے بلکہ یہ تصور کرنا چاہئے کہ حق تعالیٰ شانہ لے انہیں دین کی دولت اور سنت

- ۱۔ تفسیر میں بیان القرآن، فوائد عینی اور معارف القرآن۔
- ۲۔ حدیث میں مشکوہ شریف، ریاض الصالحین، جمع الفوائد، ترجمان الرسے، معارف الحدیث اور حیات الصحابة۔
- ۳۔ فقہ میں بہشتی زیور، عمدۃ الفقہ، امداد الفتاوی اور فتاویٰ دارالعلوم دیوبند۔
- ۴۔ بزرگوں کے حالات و سوانح میں "لُقْش حیات" "اشرف السوانح" "علماء ہند کا شاندار ماضی" "ارواح ثلاثہ" "مسذکرة الرشید" "تاریخ دعوت و عزیمت" اور اس نوعیت کی دیگر کتابیں۔
- ب : علمی ترقی کے لئے حضرت تھانوی قدس سرہ کے مواضع و ملغوظات کا مطالعہ کیا جائے۔
- ج : حضرات علماء کرام کا شمار چونکہ خواص امت میں ہوتا ہے اور ان کی ترقی و تنزل سے پوری امت متاثر ہوتی ہے اس لئے اپنی اصلاح و تربیت کے لئے ہر عالم کا کسی قیع سنت شیخ کامل سے وابستہ ہونا ناجز یہ ہے اور حضرات علماء کرام کو اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہئے۔

وَصَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ

مُحَمَّدٌ وَآلُهُ وَاصْحَابُهِ اَحْمَمِينَ

(ربيع الثانی ۱۴۰۰ھ)